

ایسلام اور عیسائیت

مولانا محمد ادریس کاندھلوی

کتاب خانہ جمیلی : دارالعلوم اسلامیہ

کھارنہ بلاک : افشالہ شاؤف لاکھو

اسلام اور عیسائیت

از

مولانا محمد ادریس کاندھلوی

مکتب خانہ جمیلی: دارالعلوم الاسلامیہ

کامران بلاک، اقبال ٹاؤن لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ
اَمَّا بَعْدُ

حقّ جلّ شانہ نے جس طرح اپنے بندوں کی ظاہری اور جسمانی حیات اور زندگی کے بقا اور تحفظ کے لئے قسم قسم کے سامان پیدا فرماتے، طرح طرح کے میوے پھل اور فصل پیدا کئے اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لئے لباس اور مکان کو پیدا کیا۔ پھر کسی کو بقدر سیرت دیا اور کسی کو قسم قسم کے الوان نعمت سے نوازا۔ کسی کو رہنے کے لئے ایک جھونپڑا اور پھونس کا چھپرہ ہی دیا اور کسی کو عالیشان محل عطا فرمایا۔ اور کسی کو بقدر ستر عورت دیا اور کسی کو بیش بہا محلہ اور زر میں خلعت پہنایا۔

نَحْنُ فَسَمِعْنَا بِتَرَاهُ حَرَمٍ حَيْثُ شَرَفْنَا فِي
التَّحْلُوَةِ الدُّنْيَا - ہم نے ہی دیوی زندگی میں ان کی روزی کو
تقسیم کیا ہے۔

کسی کو سادہ خمیرہ گاؤ زبان دیا اور کسی کو خمیرہ گاؤ زبان عنیری جو اہر والا دیا۔ کسی کو عربی گذر دیا اور کسی کو عرق ماہ اظلم جس کے لئے جو مناسب جانا وہ دیا۔ اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لئے طبیعوں اور ڈاکٹروں کو پیدا کیا اور طبی قواعد اور اصول ان کے قلب میں انقار کئے پس جس طرح انسان کی چند روزہ زندگی کے لئے یہ سامان پیدا فرمایا، اسی طرح حق جلّ شانہ نے روحانی حیات اور زندگی کے لئے انبیاء و مرسلین کے توسط سے اپنی ہدایات و

ارشادات اور تعلیمات و تلقینات کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور تلافی کہ خداوند ذوالجلال کو بکبتا اور بے مثل اور مستبح جمیع صفات کمال سمجھو۔ اسی کی عبادت اور بندگی کرو اور یہ سمجھو کہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اور اس کے پیچھے ہوتے پیغمبروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اور جزا اور سزا یوم آخرت اور روز قیامت کو حق سمجھو اور یقین رکھو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گے اور مالک حقیقی کے سامنے پیش ہو گے۔ اور وہ تم کو ان اعمال کا بدلہ دیکھا

نبی مکرم اور رسول معظم حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ جمیع انخوانہ من النبیین والمرسلین وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین تک تمام انبیاء ورسول انہیں امور کی تلقین کرتے آئے اس میں کسی قوم اور کسی فرقہ کی تخصیص نہیں۔ لیکن یہ امور کہ غلط کی کیا شان ہوتی چلبیتے؟ اس کی عبادت اور بندگی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے ارکان اور شرائط واداب کیا ہیں؟ معاد کی کیا حقیقت ہے؟ جزاء اور سزا سے کیا مقصد ہے؟ تہوت ورسالت کے کیا معنی ہیں؟ انبیاء و مرسلین کے کیا اوصاف ہونے چاہئیں؟ کون امور حق جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ اور کون سے ناپسندیدہ ہیں؟ ان امور کا جواب تمام ادیان اور مذاہب میں یکساں نہیں مل سکتا۔ اس اعتبار سے ادیان اور مذاہب میں فرق مرتب ہے۔ جس مذہب اور شریعت میں ان باتوں کا مفصل اور مکمل جواب ہو وہی دین سب سے زیادہ صحیح اور بہتر اور سب سے افضل اور اکمل ہے اور وہی مذہب عالمگیر ہے۔

حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح بن مریم صلی اللہ علیہما وسلم تک جس قدر صحیفے اور کتابیں آسمان سے اتریں، وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص طبقہ کی زندگی کے لئے کافی تھیں مگر ہمہ گیر اور عالمگیر نہ تھیں اور زندگی کے تمام شعبوں کے لئے حاوی نہ تھیں۔ تواریت کی کتاب الاحبار کو اٹھا کر دیکھئے، زندگی کے تمام شعبوں میں سے صرف قربانی اور قصاص اور سزا و عذاب کی صحت و حرمت کے احکام اور حدود و تعزیرات مذکور ہیں۔ اور تواریت کی پانچوں کتابوں میں جنت اور جہنم، قیامت اور یوم آخرت، اعمال کی جزاء اور سزا کا بالکل ذکر نہیں۔ صرف ذیوسی برکتوں اور لعنتوں کا ذکر ہے کہ خدا کی اطاعت کرنے والوں کے لئے دنیا کی یہ برکتیں ہیں اور نافرمانوں کے لئے یہ لعنتیں اور ذلتیں ہیں۔ انجیل میں قیامت کا اگر کچھ ذکر آیا ہے، تو بہت مجمل اور مختصر۔ اخلاق اور روحانیت کی کچھ تعلیم ہے۔ باقی ذیوسی اور اُخروی زندگی کے شعبوں کے متعلق کوئی تعلیم نہیں۔

زبور میں صرف مناجات اور خدا کی حمد اور شفاء ہے۔ احکام شریعت کا بالکل ذکر نہیں۔

انجیل میں زیادہ تر حضرت مسیحؑ کے حالات اور معجزات کا ذکر ہے۔ احکام برائے نام ہیں۔ اور جو صحیفے دودھ چار چار ورق کے، عمد عشیق میں درج ہیں کہ جن میں سوائے کسی قصہ کے اور کسی شے کا بیان نہیں، ان کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک جو کتاب نازل ہوئی، وہ ایسی جامع اور ہمہ گیر نہ تھی کہ جو زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی اور دنیا و آخرت کی صلاح اور نلاج کی کفیل اور ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر قوم کے مناسب ہوئی۔ اس لئے حق جل شانہ نے جب نبوت رسالت کے سلسلہ کے ختم کا ارادہ فرمایا۔ تو ایسی جامع کتاب نازل فرمائی کہ جو انبیاء سابقین کی ہدایات اور تلقینات اور ارشادات و تعلیمات کی جامع ہو۔ اور جو امور انبیاء و مرسلین کی طرف غلط منسوب ہیں ان کی مصلح ہو۔ اور جن امور کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ ان کی مکمل جو نہ تاکہ اس مکمل ہدایت نامہ کے بعد دنیا کی کسی قوم اور کسی ملک کو کسی دوسری ہدایت کی ضرورت باقی نہ رہے۔

يُؤَيِّدُ اللَّهُ الَّذِينَ يُؤَيِّدُونَكُمْ وَيَهْزِئُ بِالَّذِينَ هُمْ
مُؤَيَّدُونَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔

کر رہے اور بچھڑوں کے تمام طریقے تم کو تباہ کرے۔

یعنی ہدایت کے جو طریقے اللہ نے انبیاء سابقین کو متفرقا بتلائے تھے، وہ سب کے سب بھٹنا اللہ نے تم کو بتلا دیئے۔ دین اسلام کیلئے، تمام محاسن اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔

مُحْسِنٌ يُوسِعُ دَمْعِيصَةَ يَدِيصَادَارِي

آپ بچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

کون نہیں جانتا کہ انسان کی زندگی کے تین دور ہیں۔ ایک بچپن، ایک شباب اور ایک پیری۔ اور ہر دور کا اقتضا الگ ہے اور ہر دور کی ضروریات جدا گانہ ہیں۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ شیر خوار کی کے زبانہ کی غذا صرف ماں کا دودھ ہے۔ جو تلبے۔ جوں جوں سن و سال بڑھتے جلتے ہیں، غذا بھی بدلتی جاتی ہے اور احکام بھی بدلتے جلتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بچوں اور بزرگوں کے لئے قانون بہت کم اور مختصر ہوتے ہیں۔ اصل قانون عاقل اور دانشمندیوں کے لئے ہوتا ہے

جوں جوں عقل و شعور بڑھتا جاتا ہے۔ اسی قدر احکام اور پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح نوع انسانی جب شیر خوارگی کا زمانہ گزار رہی تھی، تو اس کی روحانی غذا یعنی شریعت بھی بہت مختصر تھی۔ جوں جوں نوع انسانی ترقی کرتی رہی اور اس کا عقل و شعور بڑھتا رہا، تو اس کیلئے احکام اور شریعت بھی پہلے سے بڑھ کر آتی رہی۔ حتیٰ کہ جب نوع انسان اپنے ادراک اور شعور کے اورچ پہنچ گئی اور اس قابل ہو گئی کہ دقیق سے دقیق مسائل سمجھ سکے، تو اس کے لایک کامل اور مکمل شریعت آمادی گئی کہ جو ہر قسم کے آئین اور قوانین پر مشتمل ہے اور ایسے صحیح اور محکم اصول کی جامع ہے کہ جن میں ذرہ برابر اختلاف اور تضلیل کا امکان نہیں۔ اور نہ اس شریعت کے بعد کسی شریعت کی ضرورت ہے۔

اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں:-

آلِیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَنْتُمْ حَسْبُكُمْ
 هَدٰیكُمْ بِعَمَّتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ
 آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ اور
 اپنی نعمت تم پر پوری کر دی (اور دین اسلام تمہارے
 لئے پسند کیا۔)

اور اس تکمیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور احسان کو پورا کر دیا۔ اب خدا تک پہنچنے کے لئے اسلام کے سوا اور کوئی راستہ نہیں باقی۔ اَلَّذِیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا سَلَامٌ وَّ هُمْ لَا یَبْتَغِیْنَ غَیْرَ
 اِلَّا سَلَامًا وَّ ذٰلِكَ اَتَّخَذَ الْمُؤْمِنُوْنَ اٰیٰتًا وَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَیْسَ لَهَا شَرٰحٌ مِّنْ سِوٰی اللّٰهِ
 کے بعد کسی سلیم العقل اور صحیح الفطرت کو اسلام کے دین کامل اور عالمگیر اور ہمہ گیر مذہب ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن متعصب اور معاند کی نظر میں اسلام کے محاسن اور مناقب، قبايح اور معائب دکھائی دیتے ہیں۔

چشم بد اندیش کہ برکنہ باد
 عیب نماید ہنرمشش نظر

عیسائیوں کا ایک اعتراض اور اس کا جواب

عیسائیوں نے اسلام پر بہت سے اعتراض کئے ہیں۔ لیکن اپنے زعم میں ایک اعتراض کو بہت اہم اور بہتم بالشان سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن میں جس قدر بھی عمدہ مضامین ہیں وہ سابقہ کتب سے لئے گئے ہیں۔ قرآن میں کوئی جدید شے نہیں۔ لہذا کتب سابقہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بنا پر بہت سے پادریوں نے بہت سی کتابیں اور مضامین عدم ضرورت قرآن کے نام سے لکھے ہیں۔

اس وقت تحریر سے مقصد یہ ہے کہ تعلیم اسلام کا تواریت و انجیل کی تعلیم سے مقابلہ کر کے یہ دکھلائیں کہ قرآن کی تعلیم کس درجہ اعلیٰ اور اکمل اور کس قدر افضل اور برتر ہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم کس قدر عقل سلیم اور فہم مستقیم کے مطابق ہے۔ اور قرآن کی ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جن کا کسی کتاب میں نام و نشان ہی نہیں۔

مگر قبل اس کے کہ ہم تفصیلی جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ علماء نصاریٰ کی حدیث میں اتنا ضرور عرض کریں گے کہ یہ سوال بعینہ انجیل پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ انجیل میں وہ کون سے نئے شے ہدیہ مضامین ہیں جو تواریت اور کتب سابقہ میں موجود نہیں۔ حضرت مسیح کا خود مقولہ ہے۔

”قیامت تک تواریت کا شوشہ بھی نہیں ہٹے گا۔ میں بھی اس کی تعمیل کے لئے آیا ہوں۔“

حضرت مسیح کے اس مقولہ کو پیش نظر رکھ کر حضرات نصاریٰ انجیل کی ضرورت ثابت کریں علماء نصاریٰ عاجز ہو کر یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ روحانی تعلیم کے لئے انجیل کی ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی اس حقیقت کا جواب نہیں ہو سکا کہ انجیل میں وہ کون سی روحانی تعلیم ہے، جو کتب سابقہ میں موجود نہیں ہے۔

قبل اس کے کہ ہم تعلیمات اسلام کی خصوصیات اور اس کے امتیازات کو ذکر کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ انہما رو مرسلین کی بعثت کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خالق اور مخلوق، بندہ اور خدا میں

توحید

اسلامی تعلیمات میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی تعلیم ہے۔ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں کہ جو توحید کا مدعی نہ ہو۔ اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں توحید کا ذکر نہ ہو۔ حتیٰ کہ مشرک اور بت پرست بھی اس کے قائل ہیں کہ قادر مطلق اور خالق ارض و سماوی ایک خداوند ذوالجلال ہے۔ اس لحاظ سے توحید کوئی نئی شے نہیں۔ مطلق توحید کے لحاظ سے کسی مذہب کو کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ اسلام کو اس بارہ میں جو خاص خصوصیت اور خاص امتیاز حاصل ہے وہ یہ کہ اسلام کی توحید نہایت کامل اور مکمل اور شرک کے ہر قسم کے شائبوں سے بالکل پاک اور منزه ہے جس کی وجہ سے اب کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ کمال کے بعد ہر شے کی انتہا ہو جاتی ہے۔

منہما تے کمال نقصان ست گل بریز و بوقت سپرانی = سعدیؒ

توحید کامل کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ذات خداوندی ہے کوئی شریک نہیں، اسی طرح اسکی صفات مخصوصہ اور افعال مخصوصہ میں بھی کوئی اس کا شریک اور ہمیم نہیں۔ مثلاً چلانا اور مارنا اور عالم الغیب ہونا یہ اسی کی صفات مخصوصہ ہیں۔ کسی ایک صفت میں بھی اس کا کوئی شریک اور مماثل نہیں اور اسی طرح نہ اس کی عبادت اور بندگی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ صرف وہی معبود حقیقی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ جب تک توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت نہ ہو، اس وقت تک توحید ناقص اور ناتمام ہے۔

اسلام کے سوا تمام ارباب مذاہب اپنے اوتاروں اور پیغمبروں کے لئے وہ اوصاف ماننے ہیں کہ جو حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جس کی وجہ سے توحید فی الصفات سے محروم اور شرک فی العبادت میں پھنسے ہوئے ہیں۔

اسلام آیا اور اس نے اپنے پیروؤں کے لئے خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کے سامنے

سر تھکانے کو حرام کر دیا۔ اولیاء اور ان کے مقابر کو سجدہ کرنے کی سخت ممانعت کی اور توحید پر کی تکمیل کیلئے اللہ بنی اللہ بنی اللہ کے ساتھ اللہ ہڈا ان سے تھکنا اہمیتاً وادراً لکنولہ۔ یعنی آپ کی عبادت اور بندگی کا افر ساتھ ساتھ لگا دیا۔ تاکہ اور قوموں کی طرح آپ کی امت آپ کو عباد اللہ خدا اور معبود نہ سمجھ بیٹھے بلکہ آپ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتی رہے۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب نام اللہ کے نزدیک عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ یعنی جس نام سے اللہ کی عبادت اور بندگی چکاتی ہو۔

توحید کے باب میں ہندوؤں کا تو کچھ خیال ہی مست پر چھو۔ دوچار تو کیا دس بیس خداؤں کے بھی قائل نہیں کہ کوئی شخص ان کے خداؤں کی فہرست بھی مرتب کر سکے۔ ہندوستان کے اکیس کروڑ ہندو تینتیس کروڑ دھرتا و معبود کے قائل ہیں۔

تینتیس کروڑ معبودوں کو اگر اکیس کروڑ عابدوں پر تقسیم کیا جائے تو حساب سے فی عابد ڈیڑھ معبود حصہ میں آتا ہے۔

حال میں ایک فرقہ آریوں کے نام سے پیدا ہوا ہے جو توحید کا مدعی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وید بھی توحید خالص کا حامی اور شرک کا دشمن ہے۔ لیکن نصاریٰ کی طرح وہ بھی خدا کے سوا مادہ اور روح کو قدیم ازلی مانتا ہے۔ نصاریٰ ہیں کہ وہ دعوائے توحید کے ساتھ تثلیث کے بھی مدعی ہیں۔ لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے فیلسوف عیسائی کے بھی توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اور نہ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک ہو سکے گا۔

قرآن کریم ساڑھے تیرہ سو سال سے باڈلز ہند پکار رہا ہے کہ حضرت مسیح بن مریم معاذ اللہ خدا نہیں۔ بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ عقیقہ اور مطہرہ ہیں۔ جو شخص حضرت مسیح بن مریم کی نبوت و رسالت اور ان کی والدہ ماجدہ کی طہارت و نزاہت کا اقرار نہ کرے، وہ خدا کے نزدیک منہوب اور ملعون ہے۔

ساڑھے تیرہ سو سال کی مسلسل تہمیت و پکار کے بعد بنی اسرائیل کی بھیڑیں چوکتی ہو کر اب دیکھتی

ہیں کہ یہ کیا آواز ہے۔

یعنی اسرائیل کی اکثر اور بیشتر بھیڑیں اب اسی طرف آپہنکی ہیں کہ حضرت مسیح بن مریم بیشک اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔

حضرت مسیح کی الوہیت کے بجائے نبوت درمات کا اقرار کرنے والے مسیحی بچے دل سے بتائیں کہ تم کو اس خواب غفلت سے کس نے جگایا۔ اور تم کو یہ صحیح راستہ اب کس نے بتلایا۔ یہ صرف قرآن کا احسان ہے مائیں یا نہ مائیں سوائے قرآن کریم کے تمام دنیا کی کتابیں حضرت مسیح کے ذکر سے خاموش ہیں۔

نصاری کا عقیدہ

نصاری کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے مگر اس کی ذات میں تین اقنوم ہیں اب اور زین اور روح القدس، اور ان میں سے ہر ایک خدا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح : خدا کے بیٹے ہیں اور خدا بھی ہیں حضرت مسیح کی الوہیت اور ابنیت نصاریٰ کا بنیادی عقیدہ ہے نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے خود ہی مریم کے پیٹ میں جسم پکڑا اور خلائے مجسم ہو کر ظاہر ہوا اور کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

غرض یہ کہ نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں اور خود خدائے مجسم بھی ہیں اور خداوند واحد کے دوسرے اقنوم بھی ہیں اور خداوند قدوس کے تیسرے اقنوم روح القدس ہیں نصاریٰ جس طرح توحید کو حقیقی مانتے ہیں اسی طرح تثلیث کو بھی حقیقی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خداوند واحد باوجود وحدت حقیقی کے کثیر حقیقی بھی ہے اور مسیح بن مریم کے ساتھ حقیقۃً متحد ہے اور اس عقیدہ کو توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہے۔

اہل عقل خور کریں کہ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی مذہب خلاف عقل ہو گا جس میں

توحید اور تثلیث کو اور وحدت اور کثرت کو جو ایک دوسرے کی مزین نقیض اور ضد ہیں، متحد مانا گیا ہو عقلاء عالم کا ہے پر اتفاق ہے کہ اجتماع نقیضین اور اجتماع ضدین بلاشبہ محال ہے مگر نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہاں، نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس پر ان کا ایمان ہے مگر انہیں اس کو عقلی حوالے پر ایمان لے آئے اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لے تو اس کو اختیار ہے اللہ اس کو عقل دے۔ ساڑھے انیس سو سال گذر گئے مگر علماء نصاریٰ عقیدہ تثلیث پر نہ کوئی عقلی دلیل قائم کر سکے اور نہ توحید اور انجیل کا ایک حوالہ پیش کر سکے کہ جس میں یہ تعلیم صراحتاً مذکور ہو کہ خداوند واحد کے تین اقنوم ہیں ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک روح القدس۔ اور یہ تینوں خدا ہیں اور ایک ہیں اور تین ہیں اور ایک تین ہیں ہے اور تین ایک ہیں ہے۔

• فضلاء نصاریٰ ہیں اگر بہت ہے تو اول تو کسی دلیل عقلی سے نہ سمجھائیں کہ ایک اور تین کیسے متحد ہوتے۔

دوم یہ کہ توحید اور انجیل سے کوئی حوالہ پیش کریں جس میں تثلیث اور اتحاد خدا کے جسم کی صاف صاف تعلیم اور تلقین مذکور ہو۔

اس مسئلہ کی تفصیل اگر درکار ہو تو اس ناچیز کا رسالہ احسن الحدیث فی ابطال التثلیث مطالعہ کریں جو چھپ چکا ہے (حدیث سے شروع ہے)

نصاریٰ بتلاش (۱) کہ معاذ اللہ کیا خدا بھی کسی عورت کے شکم اور رحم سے پیدا ہو سکتا ہے
 دن اور معاذ اللہ کیا خدا کے مال بھی ہو سکتی ہے۔ نصاریٰ کا ایک فرقہ حضرت مریم کو خدا اور خدا کی والدہ محترمہ سمجھتا ہے۔ اور اس طرح دعا مانگتا ہے ہے والہ خداوند سیورج مسیح ہماری مغفرت فرما اور ہم کو رزق دے اور ہم پر رحم کر۔

(۲) اور معاذ اللہ کیا خدا تعالیٰ کے بیوی بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ نصاریٰ کے زعم کے مطابق جب حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہوتے اور حضرت مریم مائیں کی والدہ ہوتیں تو بیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی تو ہوتی ہے۔

۱۴) اور معاذ اللہ۔ کیا خدا میں پیدا ہونے کے بعد بتدریج نشوونما پانا ہے جیسا کہ حضرت مسیح اولاً پیدا ہوتے اور بتدریج بچوں کی طرح بڑھے اور جوان ہوتے۔

(۵) اور معاذ اللہ کیا خدا کھانے اور پینے اور غذا کا بھی محتاج ہوتا ہے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں کہ خدا تے جسم یعنی مسیح بن مریم کھاتے اور پیتے بھی تھے اور ماں کا دودھ بھی پیتے تھے۔

(۶) اور معاذ اللہ کیا خدا مقتول اور مصلوب بھی ہو سکتا ہے۔

(۷) اور معاذ اللہ کیا خدا اپنے بندوں سے ڈر کر بھاگا بھی کرتا ہے۔

(۸) اور معاذ اللہ کیا کوئی خدا کے ٹھکانے بھی مار سکتا ہے۔

(۹) اور معاذ اللہ کیا خدا کے منہ پر تھوکا بھی جا سکتا ہے۔

۱۵) اور معاذ اللہ کیا خدا کو صلیب دے کر قبر میں دفن بھی کیا جا سکتا ہے سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ غُلُوْا کِبٰیۡرًا۔ نصاریٰ بتلاشیں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی الوہیت کی کوئی توہین اور تذلیل ہو سکتی ہے۔

اسلام کا عقیدہ

یہ ہے کہ حق جل شانہ ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بند اور رسول برحق تھے دشمنوں نے جب ان کو صلیب دینے کا ارادہ کیا تو حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور ان کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو ان کا ہمشکل بنا دیا۔ دشمنوں نے اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر ڈالا شروع میں خوش ہو گئے کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر ڈالا بعد میں جب اپنے آدمی شمار کئے تو ایک آدمی کم نکلا مفصل قصہ قرآن کریم کی سورہ نساء میں مذکور ہے اور اس ناچیز نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ کلمہ اللہ فی حیات روح اللہ لکھا ہے جو چھپ گیا اس میں قرآن اور حدیث اور اجماع احادیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے (صفحہ ۳۵۴ پر دیکھیں)

عارفِ رومی فرماتے ہیں :-

۲۴ کہ دو گفت و دو گفت و پیش زیں متفق باشتند در واحد یقین !
احولی چون دفع شد یکساں شوند آں دو سہ گویاں یکے گویاں شوند

یہود اگرچہ خدا کی توحید کے قائل ہیں، توحید میں بھی توحید کی تعلیم موجود ہے۔ لیکن توحید میں حضرت بارون علیہ السلام کا معاذ اللہ گو سالہ بنانا مذکور ہے۔ جیسا کہ توحید سفرِ خروج باب ۳ اور اس آیت میں ہے۔ اور اسی باب کے ۲۴ آیت میں معاذ اللہ خود حضرت بارون کا پرستش کے لئے گو سالہ بنانا مذکور ہے۔ اور کتاب سلاطین اول باب گیارہ میں معاذ اللہ حضرت سلمان کی بت پرستی کا ذکر ہے۔

لہذا جو کتاب توحید کی مدعی ہو اور اپنے ان مقتداؤں اور پیشواؤں کا جو دنیا کے لئے نمونہ عمل بن کر آئے، ان کا عمل سراسر خلاف توحید پیش کرتی ہو، وہ کامل اور مکمل توحید کے دعوے کہاں تک صادق تسلیم کی جاسکتی ہے۔

توحید سفرِ شتاء کے باب ۱۳ آیت اول میں ہے :-

ساگر کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا تم کو کوئی نشان یا معجزہ دکھلائے اور وہ بات جو اس نے تمہیں دکھائی، واقع ہو اور وہ تمہیں کہے، آؤ! غیر معبودوں کی پروردگی کریں تو سب گزاس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھریو۔ کیونکہ تمہارا خدا تم کو آزماتا ہے۔ اور وہ نبی اور خواب دیکھنے والا قتل کیا جاتے گا۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نبی خواہ کتنے ہی معجزے دکھلائے لیکن اگر وہ غیر اللہ کی پرستش کی طرف بلائے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے؟

اب ہم اس حکم کے مطابق اول علماءِ ہود سے فتویٰ دریافت کر کے ہیں کہ حضرت بارون علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے متعلق آپ حضرات کا کیا فتویٰ ہے جو بت پرستی میں مبتلا تھے اور پھر ہم علمائے نصاریٰ سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بابت دریافت کرنا چاہتے

ہیں کہ آپ کے نزدیک حضرت مسیح معاذ اللہ حنب مدعی الوہیت تھے، تو قریبت کے اس حکم کے مطابق حضرت مسیح کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اگر علی زعم النصارى، یہود حضرت مسیح کو قتل نہ کرتے، تو نصاریٰ پر حضرت مسیح کا قتل اور سنگ سار کرنا واجب تھا یا نہیں؟ سنگ ساری کا حکم اسی باب کے ذریعہ میں مذکور ہے اور نیز حضرت مسیح کی بات کو سننا اور اس پر کان دھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ علماء نصاریٰ اس سوال کا جواب دیں۔

صفات باری عز اسمہ

خداوند ذوالجلال کی صفات کمال اور اس کی تزیین و تقدیس کو جس بے مثال طریقہ سے قرآن نے بیان کیا، کوئی کتاب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ نہایت اختصار کے ساتھ ہم خداوند ذوالجلال کی صفات کمال کو ذکر کر کے عیسائی مذہب سے مقابلہ کر کے دکھلانا چاہتے ہیں۔

بائبل

قرآن

اور اس کے بالمقابل نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ

(۱)

خدا ایک نہیں بلکہ تین ہیں کا ایک ہے۔
جس طرح ہندوؤں کے نزدیک کرشن
اور عیشی اور پرجمائین خدا ہیں۔

(۳)

نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح
تمام لوازم بشریت کھانے
اور پینے کے محتاج تھے۔

قرآن کریم خداوند ذوالجلال کے متعلق

یہ بیان کرتا ہے۔ (۱)

کہ وہ خدا وحدہ لا شریک لہ یعنی ایک ہے
کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں۔ قال تعالیٰ
وَإِلَٰهِكُمُ الْوَحِيدُ الْحَمِيدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
الَّذِي كُنْ لَهُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(۲)

خدا غنی اور بے نیاز ہے۔ وہ کسی کا
محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں
قال تعالیٰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَقَالَ تَعَالَى
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالنُّحْرُ الْفَقِيرُ

(۳)

اور وہ قوی اور عزیز ہے قال تعالیٰ
 وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ - یعنی وہ
 زور والا اور زبردست ہے۔ کوئی اس پر
 غالب نہیں آسکتا۔

(۳)

نصاری کے بیان کے مطابق خداوند یسوع
 مسیح اپنے پیدا کئے ہوئے بندوں سے
 عاجز تھے اور ان کے دشمن جو انہیں کے پیدا
 کئے ہوئے تھے، وہ قوی اور زبردست تھے۔

(۴)

وہ ہی و قیوم ہے یعنی زندہ ہے۔ موت کا طاری
 ہونا اس پر محال ہے اور وہ سب کا سنبھالنے
 والا ہے قال تعالیٰ إِنَّكَ الرَّازِقُ الْوَالِحُ
 الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَكَ
 مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا
 الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ يَعْلَمُ الْغَيْبُ
 آيَاتِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
 مِنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيمُ

(۴)

نصاری کے نزدیک خداوند یسوع
 مسیح کو ان کے دشمنوں نے مار
 ڈالا اور تین دن تک قبر میں
 مدفون رہے۔
 حضرت مسیح سوتے بھی تھے
 اور ان کو اونگھ اور نیند
 بھی آتی تھی۔

(۵)

وہ مسیح و بصیر ہے۔ ایک ہی ان میں سارے
 عالم کی مختلف آوازیں بلا کسی التباس اور اشتباہ
 کے سنتا ہے اور تاریک رات میں سیاہ چوٹی
 کی حرکت بھی اس کی بے چوٹ و چگون نگاہ سے
 مخفی نہیں۔ قال تعالیٰ تَنَسَّ كَيْفَ تَنَالُهُ تَتَّىٰ

(۵)

حضرت مسیح میں یہ صفت نہ تھی حضرت
 مسیح سارے عالم کی آوازیں
 نہیں سنتے تھے اور نہ سب کو
 بیک وقت دیکھتے تھے۔

بائبل

(۶)

معاذ اللہ بقول نصاریٰ اگر حضرت مسیح خالق و معبود تھے تو حضرت مسیح کی عبادت و بندگی جس کا انجیل میں جا بجا ذکر ہے، وہ کس کے لئے کرتے تھے کیا اپنی ہی عبادت کرتے تھے اور خود ہی عبادت کرتے تھے اور کیا خدا اپنی ہی عبادت کرتا ہے۔

(۷)

حضرت مسیح عالم الغیب نہ تھے اور نہ وہ رحم مادر میں کسی کی تصویر بنانے پر قادر تھے خود ان ہی کی رحم مریم میں اللہ کے حکم سے تصویر بنی۔ کیا معاذ اللہ خدا کی بھی کسی عورت کے رحم میں تصویر بنتی ہے۔

(۸)

بقول نصاریٰ حضرت مسیح تو مقہور اور مغلوب رہے اور ان کے دشمن جو انہیں کے بندے اور مخلوق تھے قاہر اور غالب رہے۔

قرآن

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . وہ بے مثل ہے اور نہ
والہ اور نہ کچھ والا ہے۔

(۶)

اور وہ ہی سب کا خالق اور سب کا معبود ہے۔ قال تعالیٰ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ غُورٍ .

(۷)

وہ عالم الغیب ہے۔ کون ذرہ آسمان اور زمین کا اس پر مخفی نہیں۔ قال تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَدَالِهِ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . اور اسی قسم کی بے شمار آیتیں ہیں۔

(۸)

وہ قاہر ہے مقہور نہیں۔ وہ غالب ہے مغلوب نہیں۔ قال تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَقَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلٰى أَمْرِهِ .

قرآن

(۹)

وہ وحی اور حیات ہے یعنی وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے اور وہی موت اور حیات کا مالک اور خالق ہے۔ تسال اللہ تعالیٰ
 إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 بِحُجَّتِي وَبِئْسَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 وَدِيِّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تبارک الذی بیدو
 الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَلَّذِي
 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔

(۱۰)

وہ قادر مطلق ہے۔ کسی شے سے عاجز نہیں
 جو رہا جاتا ہے کرتا ہے۔ قال تعالیٰ اِنَّهُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَقَالَ لِيَمَّا كَرِهَ لِدُرِّ
 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَكَ مِنْ شَيْءٍ فِي
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 قَدِيرًا۔

(۱۱)

۔ انزل اور بیدری ہے۔ قال تعالیٰ كُلُّ
 شَيْءٍ بِرَهَائِكَ اِلَّا وَجْهَهُ لَكَ الْحَكْمُ وَالْيَمِينُ
 تُرْجِعُوْنَ۔ قَالِ تَعَالَى۔
 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

بائبل

(۹)

بقول نصاریٰ اگر حضرت مسیح موت و حیات
 کے مالک و خالق تھے، تو اپنے سے موت
 کا پیالہ کیوں نہ ملا سکے اور وہ کون ذات تھی
 جس سے بار بار سجدہ میں اس کے بل گر کے
 حضرت مسیح یہ دعوا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھ
 سے یہ موت کا پیالہ مثال دے۔ معاذ اللہ!
 کیا خدا کی یہی شان ہے کہ وہ موت کا پیالہ
 ٹہکنے کی دعائیں مانگے۔

(۱۰)

حضرت مسیح قادر مطلق تو کہاں ہوتے
 وہ تو اپنے بندوں ہی سے عاجز تھے۔
 اپنی منشاء کے مطابق دشمنوں
 سے نکل کر بھاگ بھی نہ
 سکے۔

(۱۱)

حضرت مسیح پہلے سے موجود نہ تھے۔ بلکہ
 مریم سے پیدا ہوئے۔ اہدیت تو اس
 شرح باطل ہوئی اور بقول نصاریٰ
 صلیبی موت سے اہدیت باطل ہوئی

بائبل

اور خدا کے لئے ازلی اور ابدی ہونا
ضروری ہے۔

(۱۲)

نصاری کے نزدیک بارگاہِ خداوندی میں ہزار
کوٹی گڑ گڑائے اور ہزار گریہ و زاری سے اپنے
گناہوں کی معافی چاہے، تو خدا اپنے فضل اور
اپنی رحمت واسعہ سے اس کو معاف نہیں کر سکتا
اس لئے کہ اس کی شان عدل و انصاف کے خلاف
ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کیا عجیب فلسفہ ہے کہ
خدا اپنی رحمت سے اگر کسی کا قصور معاف فرمادے
وہ ظلم ہو جاوے۔

(۱۳)

نصاری کے نزدیک خدا کو نہ مغفرت کا اختیار
ہے نہ عفو کا۔ مغفرت اور معافی کی صورت یہ
ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا جائے
اور دشمن ان کو ذلیل کریں۔ معاذ اللہ نہ پر
تھوکیں اور طمانچہ لگائیں اور سر پر کانٹوں کا
ساج رکھیں اور ہاتھوں پر میخیں ٹھوکیں تب
خدا بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور

قرآن

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ - وَقَالَ تَعَالَى
كُلٌّ مِّنْ عَمَلِكُمْ هَاقَانٍ وَيَتَّبِقُ وَجْهَ رَبِّكَ
ذُو الْعَرْشِ عَالِي كُرْسِيِّهِ -

(۱۲)

وہ رؤف رحیم ہے یعنی اپنے بندوں پر
نہایت مہربان اور بے انتہا رحمت کرنے والا
قال تعالیٰ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اور
رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - اور
كَتَبَ لَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اور
إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ - اور - كَلَّا لَإِذَا
هَوَّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ -

(۱۳)

وہ غفور رحیم ہے اور عفو کریم اور ستارہ اور سلیم
ہے یعنی گناہوں کا بخشنے والا اور رحم فرمانے
والا اور کثرت معاف کرنے والا اور مہربان اور
گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا۔ قال تعالیٰ
قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّكُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

قرآن

قَالَ تَعَالَى . وَمَا آهَاتِكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قِيمَا
كَسَبْتُمْ أَنْيُوتِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

(۱۳)

وہ اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا اور ان پر
رحمت فرماتے والا ہے۔ اِنْ كَرِهِيَ رَحِيمًا وَّحَدِيدٌ
وَهُوَ الْعَفْوَ وَالْوَدُّ دُونَ . اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ . اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور اس قسم کے بے
شمار آیتیں ہیں۔

(۱۵)

وہ تو والد اور تناسل سے بھی پاک ہے۔ قَدْ
هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الظَّمُّ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔

(۱۶)

وہ کھانے اور پینے سے بھی پاک ہے
قَالَ تَعَالَى
وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔

(۱۷)

وہ بیوی سے بھی پاک ہے۔ اس کے کوئی

بائبل

تب ان کی خطائیں معاف کرتا ہے
ہیں عقل و دانش بائبل گریسیت

(۱۴)

بقول نصاریٰ معاذ اللہ جب خدا کو اپنے اکلوتے
بیٹے سے ہی محبت نہیں۔ باوجود کامل قدرت
اور اختیار کے اپنے بیٹے کو دشمنوں سے
ذلیل کرایا تو پھر اپنا غیر اور نیکو حیرا کا
خدا سے محبت کی امید رکھنا بالکل بے سود
ہے۔

(۱۵)

نصاریوں کے نزدیک معاذ اللہ خدا
توالد اور تناسل سے پاک نہیں۔ مسیح
جیسا بیٹا جتنا۔

(۱۶)

نصاریوں کے نزدیک حضرت مسیح باوجود خدا ہونے
کے کھاتے اور پیتے بھی تھے اور قضا حاجت بھی کرتے
تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کھائے اور پینے کا محتاج
ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

(۱۷)

نصاریوں کے زعم قاسد کی بنا پر حضرت مریم معاذ

قرآن

کوئی بیوی نہیں۔

قال تعالیٰ

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔

وَقَالَ تَعَالَى

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ

(۱۸)

وہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ قال تعالیٰ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔

وَقَالَ تَعَالَى وَكَانَتْ كَلِمَةً ذَرْفًا

وَبَعْدَ ذَٰلِكَ يُكَلِّمُهَا

(۱۹)

وہ یکساں اور بے مثل اور بے چوں و چلون ہے کسی

شے میں بھی مخلوق کے مشابہ نہیں۔ قال تعالیٰ

لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ شَيْءٌ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفْرًا

أَحَدًا أَقْنَمٌ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ۔

بائبل

اللہ خدا کی بیوی تھیں۔ ہاں۔ لے کر بیٹے کی ماں

باپ کی بیوی ہی توجہ۔ پس جب حضرت مسیح

حضرت مریم کے بیٹے ہوئے اور خدا باپ ٹھہرا

تو علیٰ مذہب انصاری نے معاذ اللہ حضرت مریم

کا خدا سے زوجیت ہی کا علاقہ ہوا۔ العیاذ باللہ

(۱۸)

انصاری کے نزدیک بتوں کے گناہوں کا توبہ

یا خدا کی رحمت سے معاف ہو جانا تو ظلم ہے

مگر کفارہ کے لئے ایک معصوم اور بے گناہ کا

قتل یہ ظلم نہیں۔ واہ واہ کیا عدل ہے۔

(۱۹)

انصاری کے نزدیک خدا کا یکساں اور بے مثل

ہونا ضروری نہیں۔ اس لئے کہ معاذ اللہ حضرت

مسیح خدا تھے اور خدا کے مماثل اور مشابہ تھے۔ اس

لئے کہ بیٹا باپ کے مماثل ہوا کرتا ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم!

وزیر چہ گفتہ اند شنیدم و خواندہ ایم!

عیسائی مذہب کی بتا پریشانِ خداوندی کا نمونہ

معاذ اللہ تم معاذ اللہ! نصاریٰ حیارسی یہ کہتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال نے اپنی شانِ نبوت و جلال سے انکر اول اپنی پیدا کی جوئی باندی (مریم) کے پردہِ رحم میں نزول فرمایا۔ ایک عرصہ تک وہیں مقیم رہا پردہِ رحم ہی میں اپنی باندی کے بطن سے غذا حاصل کر کے نشوونما پاتا رہا۔ اور پھر جس طرح اس کے تمام بندے شکمِ مادر سے پیدا ہوتے آتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی ایک روز اپنی باندی کے پیٹ سے پیدا ہوا اور عرصہ تک اس کا دودھ پیتا رہا اور اسی کی گود میں پلتا رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد باندی نے اپنے خدا کا دودھ چھڑایا اور اس کو پھر چھڑایا اور نکھایا اور تعلیم دی اور اپنے حقوق کا اس کو پابند بنایا۔

جب خدا جوان ہو گیا اور اپنے بندوں کے سامنے اپنی خدائی کا اعلان کیا۔ تو اس کے بندوں میں سے یسویہ، یہود نے جن کو اسی نے پیدا کیا اور اسی نے ان کو رزق دیا اور اسی کے حکم سے اب وہ زندہ ہیں اپنے خداوند اور خالقِ مازق سے منحرف ہو کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور خاطر خواہ اپنے خداوند خالق اور معبودِ رازق کو خوب ذلیل اور رسوا کیا۔ اور اپنے خدا کو قتل کرنے کے لئے خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے درختوں میں سے ایک ٹکڑی لے کر صلیب تیار کی اور اس خدا کو اس آفتاب کی تمازت میں لے جا کر کھڑا کیا کہ جو روزانہ اسی خدا کے حکم سے طلوع و غروب ہوتا ہے۔ پھر اس خدائے اپنے بندوں سے یہ درخواست کی کہ مجھ کو ان چشموں سے کہ جن کو میں نے تمہارے لئے زمین پر جاری کیا اس میں سے ایک گھونٹ پانی لاکر چھ دو۔ مگر بندوں نے ایک نہ سنی اور بجائے پانی کے کچھ سرکہ لاکر پلا دیا۔ جب حوادث اور مصائب نے خدا کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ تو گھبرا کر یہ کہنے لگا۔ ایلٰی ایلٰی! لا شفیقتی سے اللہ تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا۔ اس پر بھی بندوں کو رحم نہ آیا اور چوروں کی طرح پکڑ کر سولی دے دی۔ جب خدا مر گیا تو صلیب سے اتار کر اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ ایک دو عورت یا مرد کا بیان ہے کہ تین دن کے بعد خدا پھر زندہ ہو گیا۔ اور پھر اپنی

اصلی شان جلال کی طرف عود کر گیا۔

اَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ وَنَحْنُ أَلَىٰ سَعْيِكَ يَا قَوْمِ السَّالِمُونَ عَلَّمُوا كَتَبُوا

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اے عیسائیو! کیا ہی وہ تقدیس و تنزیہ ہے کہ جس پر آپ کو ناز ہے۔ ایسی تقدیس آپ کو مبارک ہو۔ اور اگر باوجود ان اوصاف کے کسی انسان کا روحانی حیثیت سے خدا ہونا ممکن ہے تو پھر فرعون اور نمرود کے دعوائے الوہیت کے بطلان کی کیا دلیل ہے اور ہندوؤں کا اپنے بزرگوں کو آمار اور عظیم خدا ماننا کس دلیل سے باطل ہے۔ نیز جب دجال اخیر زمانہ میں ظاہر ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے کاذب نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی فرعون اور نمرود کا متبع یہ کہے کہ فرعون اور نمرود روحانی حیثیت سے خدا اور جسمانی حیثیت سے بندے اور انسان تھے، تو پادری صاحبان بتلائیں کہ وہ کیا جواب دیں گے۔

طریقہ امتحان

پادری صاحبان کو اب بھی اگر شک ہے تو امتحان کی ایک صورت یہ ہے کہ پادری صاحبان کسی ایسے جنزیری میں جا کر کہ جس کے باشندے کسی مذہب سے واقف نہ ہوں اور نہ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، ان پر دین عیسوی کو پیش کریں اور یہ کہیں کہ اسے لوگوں کا تمنا ایک رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو مسیح و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تم دفراست، علم دار و پاک تم کو خطا کیا، مخام کائنات ارضی و سماوی کے منافع میں تم کو متصرف بنایا۔ مگر یاد رکھو کہ اس خداوند عالم کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری ہی ہم شکل ہے اور تمہاری ہی طرح کھاتا اور پیتا ہے اور تمہاری ہی طرح پیتا اور پاتا کرتا ہے اور تمہارا اور سنکتا ہے۔ بھوکا بھی ہوتا ہے اور پیاسا بھی۔ برہنہ بھی ہوتا ہے اور لباس بھی پہنتا ہے۔ بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی ہے۔ لیکن بعض اس کے حاسدوں اور دشمنوں نے اس کو پکڑ کر مارا۔ منہ پر ٹماچے لگائے

اور دانت توڑ ڈالے۔ بعد ازاں اس کو سولی دے کر مار ڈالا۔ اس کے بعد پادری صاحب انکو عیسائیت کا دعوت دی اور یہ فرمائیں۔

اے جزیرے والو! تم ایسے خدا پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری نجات ہو اور ہمیشہ کی زندگی تم کو حاصل ہو۔ یہ فرما کر اہل جزیرہ کے جواب کا انتظار فرمائیں کہ وہ آپ کی اس تقریر دلی پذیر کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ جواب دیں کہ جب خدا ہی کو نجات نہ ہوئی اور خدا ہی موت کے گھاٹ اتر گیا، تو ہم بے چارے گنہگاروں اور عاجز اور ناتوانوں کو ایسے خدا پر ایمان لاکر نجات اور ہمیشہ کی زندگی کی توقع رکھنا بالکل عیث ہے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ! ہم تمام اہل اسلام ان تحولات سے بری ہیں۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنَّ هَدَانَا اللّٰہُ۔

صفات خداوندی کے متعلق عہد عتیق کا نمونہ

توریت کتاب پیدائش باب ۶ درس ۵ - ۶ میں ہے:-

”تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے بچھٹایا اور نہایت دلگیر ہوا۔ اس عبارت سے اول تو معاذ اللہ خدا کی جمالت لازم آتی ہے کہ اس کو پہلے ست اس کا علم نہ تھا نیز اس کا نام اور شہیمان اور دلگیر اور افسردہ ہونا معلوم ہوتا ہے جو خدا کے لئے ممکن نہیں۔

اور زیور (۱۰۶) درس ۴۵ میں ہے:-

”اور اپنی رحمتوں کی قرادانی کے مطابق پچھتایا

اور کتاب یرمیاہ کے باب ۱۵ ورس ۶ میں ہے:-

”پچھتاتے پچھتاتے میں تھک گیا“ اھ

اور توریت باب گنتی باب ۱۳ درس ۳ میں ہے:-

”تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں

بساؤں گا: ۱ھ

اور پھر درس ۳۵ میں ہے:-

”تب تم میری عمد شکنی کو جان لو گے: ۱ھ

ان درسوں سے معاذ اللہ خدا کی قسم کا جھوٹا ہونا اور خدا کا عمد شکن اور وعدہ خلافت ہونے کا

خدا ہی کے کلام سے صریح اقرار ثابت ہے۔

کتاب پیدائش باب ۳۲ درس ۲۲ میں ہے:-

”یعقوب سے صبح صادق تک تمام رات خدا کشتی کرتا رہا اور صبح کو جب جانا چاہا،

تو یعقوب نے بغیر برکت لئے جلنے دیا“

اول کتاب السلاطین باب ۲۴ کے ۲۱ درس میں ہے:-

”ایک ریح نکل کے خداوند کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ وہ بولی میں روانہ ہوں گی اور جھوٹی

روح بن کے اس کے سارے نبیوں کے مت میں پڑوں گی۔ اور وہ بولا، تو اسے ترغیب دے گی

اور غالب بھی ہوگی۔ روانہ ہو اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ خداوند نے تیرے لئے ان سب نبیوں

کے مت میں جھوٹی روح ڈالی ہے“ کتاب پیدائش باب ۲ درس ۲۲ میں ہے۔

” اور خداوند نے کہا، دیکھو! انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کے

مانند ہو گیا اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بڑھا دے اور حیات کے درخت سے کچھ

لیوے اور کھا دے اور ہمیشہ جیتا رہے“ انتہی

العیاذ باللہ! اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ کئی خدا ہیں کہ جو حضرت آدم ان میں سے ایک

کے مانند ہو گئے۔ نیز بندو کا خدا کے مثال اور مانند ہونا لازم آتا ہے۔ تیسرے یہ لازم آتا ہے کہ

خدا تعالیٰ کو حضرت آدم کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خوف اور اندیشہ پیدا ہو گیا۔

اور کتاب یسعیاہ کے باب ۳ درس ۱۸ میں ہے:-

”خدا ان کے انعام نہانی کو اکھاڑے گا: ۱ھ

ناظرین اس باب کو اخیر تک ملاحظہ فرمادیں۔ اور کتاب یسعیاہ باب ۴۷ ورس ۲ میں ہے:-
 نہ چکلے اور آٹا نہیں۔ اپنا نقاب اتار اور ساڑھی سمیٹ لے اور ٹانگ تنگی کر
 اور تلوں سے ہو کر سیدل جا۔ تیرا بدن تنگ کیا جائے گا بلکہ تیرا ستر بھی ڈیکھا جائے
 گا۔ الخ

اور کتاب پیدائش باب ۳۰ ورس ۲۲ میں ہے:-

»خداوند نے اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی: اھ

اور کتاب ہوسیع کے باب اول ورس ۱ دو میں معاذ اللہ ایک زنا کار عورت اور زنا کی لڑکی لینے
 کے متعلق خدا کا حکم مذکور ہے۔ یہ پورا باب قابل دید ہے۔
 اور اسی کتاب کے باب ۳ ورس اول میں ہے:-

»خداوند نے مجھے فرمایا کہ جا اور ایک عورت سے جو اس کے دست کی پیاری
 ہے اس پر زنا کرتی ہے، محبت کرنا اھ

اسے پادریو! خدا سے ڈرو۔ کیا یہ چیزیں خدا سے قدامت کی قدر و قیمت کے خلاف نہیں
 اور کتاب اشعیاہ باب ۲۱ ورس ۳ میں ہے:-

»خدا کا کلام اسی طرح مذکور ہے۔ میری کمر میں ٹیس ہے۔

اور کتاب اشعیاہ باب ۶۲ ورس ۷ میں ہے:-

»اے خداوند! تو ہمارا باپ ہے۔ ہم مائی ہیں۔ اور تو ہمارا کھار ہے: اھ

اور گرتھیوں کے نامہ اول باب اول ورس ۲۵ میں ہے:-

»خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے: اھ

اور نامہ عبرانیین باب ۱۲ ورس ۲۹ میں ہے:-

»ہمارا خدا خاک کر دینے والی آگ ہے: اھ

اور نامہ عبرانیین کے باب دہم ورس ۳۱ میں ہے:-

”زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے“

کتاب یرسیاہ کے باب ۳۲ ورس ۱۸ میں ہے:-

”بناپ دادوں کی بدکاریوں کا بدلہ ان کے بعدان کے فرزندوں کی گود میں رکھتا ہے“

نصارئی کے نزدیک یہ عدلِ خداوندی اور انصافِ الہی کا نمونہ ہے۔

صفات انبیاء

قرآن عظیم اور احادیث نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی بے شمار آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ حضرات جن کو حق جل و علا نے اپنی نبوت و رسالت کے لئے منتخب فرمایا ہو اور مکرم اخلاق اور محاسن انعال کی تعلیم اور گمراہی اور اخلاقِ قبیحہ سے بچانے کے لئے اور دلوں کو پاک اور صفات، مزکی اور عمل بنانے کے لئے بھیجا ہو، ان کے اوصاف حسب ذیل ہونے چاہئیں۔

۱۔ وہ سرتاپا محاسن اخلاق اور محاسن آداب کا نمونہ ہونے چاہئیں۔ ہر قسم کی گمراہی اور برتریِ خصومت سے پاک اور منترہ ہوں۔

۲۔ ان کے قلوب خدا کی عظمت اور جلال اور اس کی محبت سے بہرتے ہوں۔

۳۔ سچے اور راست باز ہوں۔ قول میں اور عمل میں، قیمت میں اور ارادہ میں سچے ہوں۔ ہنگے قول اور عمل میں کذب کا شائبہ بھی نہ ہو۔ معاذ اللہ دروغ گو نہ ہوں۔

۴۔ اللہ کے مخلص بندے ہوں۔ ان کا جو کام بھی ہو۔ وہ خالص اللہ کے لئے ہو۔ نفسانی غرض کا کہیں نام و نشان نہ ہو۔ اللہ کا مخلص وہی ہے جو خالص اللہ کا ہو۔ غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو۔

۵۔ ان حضرات کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو۔ ان کا کلام سن کر علم اور معرفت میں اضافہ ہو۔ ان کا عمل دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو۔

۶۔ ان کا کوئی عمل ان کے کسی قول کے خلاف نہ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نصیحت کوئی

اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔

دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس کے خلاف کرنا علاوہ اس کے کہ دیگران را نصیحت و خود را نصیحت کا مصداق ہے، اور لوگوں کے لئے موجب نفرت و حقارت ہے۔ معاذ اللہ! نبی جب لوگوں کی نظروں میں حقیر و ذلیل ہو گیا، تو پھر اس کی نصیحت کیا کارگر ہو سکتی ہے۔

۷۔ قابل نفرت اور خلاف مردت امور سے بالکل پاک شہرہ ہوں۔

۸۔ خدا کا پیغام پہنچانے میں کسی سے مخالفت نہ ہوں۔

قَالَ تَقَالِي الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَاتِ
اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا
إِلَّا اللَّهَ۔

انبیاء کی شان یہ ہے کہ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ انبیاء کے یہاں تقیہ کا گزیر

۹۔ طالب دنیا اور شہوت پرست، شرابی اور کبابی، چور اور زانی نہ ہوں۔

۱۰۔ مشرک اور بت پرست نہ ہوں بلکہ بجائے اس کے ان کے قلوب توحید و تفرید حسب الہی اور توکل سے معمور ہوں۔

۱۱۔ ثبات النسب ہوں۔ معاذ اللہ ولد الزنا نہ ہوں۔

۱۲۔ غیر اللہ کی پرستش سے لوگوں کو منع کرتے ہوں۔ معاذ اللہ بت پرستوں اور بت تراشوں کے معین و مددگار نہ ہوں۔

از روئے قرآن و حدیث انبیاء و مرسلین کی یہ شان ہونی چاہیے جو ہم نے ذکر کی ہے۔

آبِ سُنِّيَةِ

کہ موجودہ توریت و انجیل انبیاء کی کیا شان بتلاتی ہے۔

معاذ اللہ بقول یہود و نصاریٰ حضرت نوح علیہ السلام کا شراب پینا اور پرہیز نہ ہونا۔ کتاب

پیدائش باب ۹ ورس ۲۱ میں مذکور ہے۔

اور معاذ اللہ بقول یہود و نصاریٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا گوسالہ بنانا اور لوگوں سے اس کی پرستش کرانا۔ اس کے لئے دیکھو کتاب خوردج باب ۳۲ اور درس اول تا درس دہم۔

اور معاذ اللہ بقول یہود و نصاریٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عورت کو نسلتے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہونا اور پھر حید سے اس کے شوہر کو قتل کرنے والی غیر ذلک من الخرافات۔ اس کے لئے دیکھو کتاب دوم سمویل باب ۱۱ اور درس ۲ تا ختم باب۔

اور معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا باوجود سخت ممانعت کے بت پرست عورتوں کو بیوی بنانا اور ان کے مروجہ بتوں کی طرف مائل اور بت خانوں کی تعمیر کرانا۔ اس کے لئے دیکھو کتاب اول سلاطین باب ۱۱ اور اول تا درس ۱۳۔

اور معاذ اللہ بقول یہود و نصاریٰ حضرت لوط علیہ السلام کا شراب پینا اور اپنی صاحبزادیوں سے ہم بستری ہونا اور دونوں کا حاملہ ہونا اور پھر ان سے اولاد پیدا ہونا۔ دیکھو کتاب پیدائش باب ۱۹ اور سن ۳۰ تا ختم باب۔

اور معاذ اللہ بقول یہود و نصاریٰ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا چھوٹ بونا دیکھو اول کتاب سلاطین باب ۲۲ اور سن ۲۱ جیسا کہ عنقریب گذرے۔

یہود و حواری کا منجملہ بارہ حواری کے تیس روپے لے کر حضرت مسیح کو یا بعنوان دیگر علی زعم النصاری تیس روپے رشوت لے کر اپنے خدا کو گرفتار کرادینا اور پھر اپنے کو بچانسی دے کر محرم موت مرجانا اور بعض دیگر کا حضرت مسیح سے انکار کرنا اور معاذ اللہ حضرت مسیح پر لعنت کرنا یہ سب انجیل متی کے باب ۲۶ میں بالتفصیل مذکور ہے۔

افسوس اور صد افسوس

کہ نصاریٰ اپنے زعم فاسد سے باوجود شرک اور بت پرستی، کذب اور دوروغ گوئی، زنا کاری اور شراب خواری کے کسی کو نبی اور پیغمبر تسلیم کر لیں، مگر اس ذات ستورہ صفات یعنی نبی امی فیلد

نفسی والی داعی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کریں کہ جس کی نظر کیمیا اثر نے ایک عظیم اٹان خطہ کے شرک اور بت پرستی کو توحید و تفرید سے اور جہل کو علم سے اور کذب و خیانت کو صدق و امانت سے اور بے شرمی اور بے حیائی کو عصمت و عفت سے اور ان کے رذائل کو شمائل سے اور ان کے قبايح کو محاسن سے اور ان کے معائب کو مناقب سے یک لخت بدل دیا ہو۔ اور جاہلوں کو علم الہیات اور علوم اخلاق اور سیاست منگیہ و مدنیہ اور علم معاملات و عبادات میں رشک افلاطون اور جانیٹوس بنا دیا ہو۔ اور اگر شک ہے تو اہل اسلام کی تصانیف کا حکماد عالم کی کتابوں سے موازنہ کر لیا جائے معلوم ہو جائے گا کہ تحقیق و تدقیق میں تمام عالم پر سبقت لے گئے ہیں۔

مسئلہ نجات

خداوند ذوالجلال کے قہر اور عذاب سے نجات کا اصل دار و مدار تو اس کے فضل و کرم پر ہے لہذا قال تعالیٰ -

وَرَوْقَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَظِيمُ الْمُتَّبَعُ
 اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب جہنم سے محض اپنے فضل سے بچایا
 رہا یہ امر کہ خدا کا فضل کس پر ہوگا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا فضل اس پر ہوتا ہے کہ جو
 خدا کی طرف متوجہ ہو اور اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اقرار اور عہد
 کرے اور جن امور کے کرنے کا حکم دے، ان کو بجا لائے اور جن امور سے منع کرے، ان سے اجتناب
 اور پرہیز کرے۔ اور اس اطاعت اور فرمانبرداری کے عہد اور پیمان کے بعد اگر کوئی تقصیر اور
 گناہ دانستہ یا نادانستہ سرزد ہو جائے، تو بہتر تدبیر و شرمساری اور بہتر گریہ و زاری سے دل
 سے خداوند ذوالجلال کے سامنے توبہ اور استغفار کرے۔ اس وقت خداوند ذوالجلال کی طرف سے
 عفو اور مغفرت کا وہ بدلہ بر سے گا کہ گناہ کی نجاست اور گندگی کا نام و نشان باقی نہ رہے گا
 بلکہ توبہ اور استغفار سے فقط گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ سنیات و حسنات سے بدلہ دیا

جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔

الْأَمَنَ نَابًا وَآمَنَ وَعَقَبَنَ عَمَلًا
صَالِحَاتٍ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

جس شخص نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور ایمان
لا لیا اور نیک کام کئے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی برائیوں
کو بھلائیوں اور نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔

یہ ہے اسلامی طریقہ نجات جو قرآن اور حدیث میں بکثرت مذکور ہے اور یہی عقل کے مطابق
ہے اور یہی کتب سابقہ کی تعلیم ہے۔ آیات اور احادیث کے علاوہ کتب سابقہ کے تفصیلی
حوالے ہم علم الکلام میں ذکر کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لئے جائیں۔

اب نجات کا وہ لوگھا اور فریاد طریقہ سنئے جو تصارتی نے اختراع کیا ہے کہ حضرت آدمؑ
سے جو بھولے سے گناہ ہو گیا تھا، وہ یا وجود استغفار کے کسی طرح معاف نہ ہوا۔ اور باپ کی
اس غلطی کی وجہ سے تمام اولاد گنہگار ٹھہری۔ حتیٰ کہ انبیاء مرسلین بھی اس سے پاک نہ رہے۔ چونکہ
گناہ کا معاف کر دینا تو شان عدل و انصاف کے خلاف تھا۔ اس لئے خدا نے چاہا کہ عدل و انصاف
بھی ہاتھ سے نہ جائے اور بندوں پر رحم و کرم بھی ہو جائے۔ اس لئے خدا نے بندوں کی نجات کی
یہ راہ نکالی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر چڑھایا تاکہ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے
اور ان کے لئے باعث نجات ہو۔

ناظرین کرام! آپ نے یہ نجات کا نرالا اور انوکھا طریقہ سن لیا۔ اگر کسی حاکم کے اجلاس پر کوئی
قتل کا مقدمہ پیش ہو اور حاکم بجائے مجرم کے اپنے عزیز نجات بگڑ کر پھانسی کا حکم دے دے تو
اس حاکم کو اگر دیوانہ اور احمق نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں۔

۱۔ عجیب بات ہے کہ گنہگار کو معاف کر دینا تو شان عدل کے خلاف ہے مگر ایک معصوم اور
بے گناہ کو صلیب پر چڑھا دینا، یہ شان عدل کے خلاف نہیں۔

۲۔ نیز اگر موت ہی گناہ کی جزاء اور کفارہ ہے، تو ہر انسان مرتا ہے۔ وہی موت اسکے گناہوں

کا کفارہ بن سکتی ہے۔ حضرت مسیح کو صلیب دینے کی اجازت ہے۔

۳۰۔ باپ کے قصور میں بیٹے کو پکڑنا نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ کسی دین اور ملت نے آج تک اس کو روکا رکھا ہے۔ خیر اگر باپ کے جرم میں بیٹے ہی کو پکڑنا تھا، تو حضرت آدم کے کسی صُلبی بیٹے کو صلیب پر چڑھنا دیتا تھا۔ مثلاً قابیل ہی کو پھانسی دے دی جاتی، جس نے اپنے بھائی ابیل کو قتل کیا تھا۔ پانچ ہزار سال کے بعد ایک معصوم اور بے گناہ بیٹے کو صلیب پر چڑھانا سراسر خلاف عقل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔

آم لَمْ يَتَّبِعُوا مَا فِي صُحُفِ مُوسَى	کیا اس شخص کو اس مضمون کی خیر نہیں پہنچی، جو موسیٰ
وَإِنزَاهِهِمْ إِلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ	کے صحیفوں میں ہے اور نیز اس امر پر ہم کے صحیفوں
وَإِنزَادَ كَاوْنَهُمْ أَسْحَرَىٰ وَآلِ تَيْسَ	میں ہے کہ جس نے اپنے رب کے احکام کی پوری
لِيَلْبَسُوا لِبَاسَ مَا سَعَىٰ وَإِن تَسْعَىٰ	پوری بجا آوری کی۔ وہ مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص
بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ	دوسرے کا گناہ اور بوجھ اپنے اوپر نہ اٹھائے گا۔

اور ایک یہ انسان کو ایمان کے بارہ میں اپنی ہی کمالی نفع دے گی۔ دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا۔

چنانچہ توریت سفر استثناء باب ۲۲ ورس ۱۶ میں ہے۔ اولاد کے بدلے باپ داد سے مارے نہ جائیں، نہ باپ دادوں کے بدلے اولاد قتل کی جائے اور ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے گا۔

اور کتاب ترمیل باب ۱۸ ورس ۲۰ میں ہے:-

وہ جان جو گناہ کرتی ہے سو وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کی بدکاری کا بوجھ نہیں اٹھائے

گیا اور نہ باپ بیٹے کی بدکاری کا بوجھ اٹھائے گا۔ صادق کی صداقت اسی پر ہوگی

اور شریر کی شرارت اسی پر پڑے گی:-

اور کتاب الامثال باب ۱۱ ورس ۸ میں ہے:-

۱۰ صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور اس کے بدلہ شریک پر کھڑا جاتا ہے۔

اور ایسا ہی مضمون کتاب الامثال باب ۲۱ درس ۱۸ میں ہے :-

۱۱ اسی طرح اہل اسلام کہتے ہیں کہ جب یہودیے یہود نے حضرت مسیح کے قتل کا ارادہ

کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو تو صحیح و سالم آسمان پر اٹھالیا اور ایک کافر و

فاجر کو حضرت مسیح کا شبیہ اور پیش بنا کر بطور قدیہ قتل کر دیا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قتل کا مسئلہ توریت اور انجیل سے نہ کہیں صراحتاً ثابت ہے نہ اشارتاً۔

محض یاد رکھو کہ ایجاب ہے۔ اور نہ یہ مسئلہ تمام علمائے نصاریٰ کے نزدیک مسلم اور مشفق ہے

بہت سے فرقے واقعہ قتل و صلیب کے منکر ہیں۔ جیسا کہ پادری سیسل نے ترجمہ قرآن سورہ آل

عمران میں ان فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے منکر ہیں۔ اصل کی مراجعت کی جائے۔

قرآن کریم کا توریت و انجیل سے تقابل

قرآن کریم میں جا بجا توریت اور انجیل اور زبور کا ذکر آیا ہے اور بار بار یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ

سب اللہ کی کتابیں تھیں۔ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہم الصلوٰۃ

والسلام پر اتاری گئیں اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کے صحیفوں کا بھی ذکر ہے۔ اہل اسلام

بلا تفریق کے ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے گذشتہ انبیاء و مرسلین

صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہم اجمعین پر نازل فرمائی۔ لیکن موجودہ توریت و انجیل وہ توریت و

انجیل نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ اصل توریت و انجیل کا تو کہیں نام و نشان

بھی نہیں۔ جس کا خود علماء یہود و نصاریٰ نے کواخترت اور اقرار ہے۔

کتاب سماویہ کا جو مجموعہ اس وقت اہل کتاب کے ہاتھ میں ہے اور جس کو وہ بائبل کہتے

ہیں، ہم اس وقت اس میں اور قرآن کریم میں کچھ فرق بتلانا چاہتے ہیں تاکہ طالبان حق موازنہ کر سکیں۔

فرق اول

قرآن کریم نے جس دین حق اور شریعت اور ہدایت کو پیش کیا ہے وہ توحید اور انجیل کی پیش کردہ شریعت سے کہیں اعلیٰ اور افضل اور غایت درجہ اکمل ہے۔

قرآن کریم نے مہذب اور معاذ کوحید اور رسالت اور قیامت اور جزاء و سزا اور جنت و جہنم کو جس تحقیق اور تفصیل اور دلائل اور براہین کے ساتھ بیان کیا ہے توحید میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔

قرآن کریم میں جا بجا وجود باری تعالیٰ اور وحدت عالم کے دلائل اور براہین ذکر کئے گئے ہیں اور متکبرین قیامت کے شبہات اور اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیئے ہیں اور دلائل اور براہین کے ساتھ مشرکین اور صائبین اور سیود اور نصاریٰ کے عقائد کا ابطال اور توحید و رسالت کا اثبات اور حضرات اعیان کرام کے کافروں سے مناظرے قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں۔

توحید اور رسالت اور قیامت صرف ان تین مسئلوں کو لے لیجئے کہ قرآن کریم نے ان مسائل کو کس طرح۔ طرح طرح کے دلائل اور قسم قسم کے براہین سے ثابت کیا ہے تو یہ ہیں بھی کہیں اس قسم کے دلائل اور براہین کا ذکر ہے اور انجیل میں تو ان مسائل پر کوئی خاص کلام ہی نہیں صرف چند مکارم اخلاق اور زہد کا بیان ہے کہ جو قرآن کریم میں اس سے ہزار درجہ بڑھ کر موجود ہے ہذا توضیح ما افادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ فی الجواب الصحیح ص ۲۲ ج ۳۔

فرق دوم

توریت میں عدل کی شان غالب ہے اور انجیل میں شان فضل کی غالب ہے اور قرآن کریم غایت کمال کے ساتھ عدل اور فضل دونوں کا جامع ہے۔

۱) قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ سعداء اور اولیاء کی دو قسمیں ہیں ایک ابرار و مقصدین دوسری سابقین اور مقربین۔ پہلا درجہ تو عدل سے حاصل ہوتا ہے یعنی اداء واجبات اور ترک محرمات سے اور دوسرا مرتبہ فضل سے حاصل ہوتا ہے یعنی اداء فضائل و واجبات کے بعد اداء مستحبات و نوافل و ترک مکروہات اور مشتبہات سے حاصل ہوتا ہے پس کامل شریعت وہ ہے کہ عدل اور فضل دونوں کی جامع ہو۔

۲۔ قرآن حکیم نے حکم دیا کہ مقروض اگر نادار اور تنگ دست ہو تو اس کو مصلحت دینی چاہیے کہ قال تعالیٰ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَيْهِ مِيسِرًا خَفِيًّا۔ پس یہ تو عدل ہوا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر بدین کو معاف کر دو تو بہتر ہے کہ قال تعالیٰ وَاِنْ نَقَصْتُمْ خَيْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ پس یہ فضل اور احسان ہوا جو مستحب کے درجہ میں ہے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا اور اس کے رعبے بلند کرے گا۔ اور اگر نہ کرے تو اس پر کوئی عقاب اور عذاب نہیں۔

۳۔ قرآن کریم نے قتل خطا میں دیت کو واجب قرار دیا یہ عدل ہے کہ قال تعالیٰ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَيْنَ مِنْ اُمَّةٍ حَتَّىٰ تُخْرِجُوْهُم مِّنْ اَرْضِهِمْ بِقُرْبَةٍ مَّوَدَّةً مُّؤْمِنَةً وَّوَدَّ اِلَيْهِمْ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّصَدَّقُوْا مِنْهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِهِمْ بِقُرْبَةٍ مَّوَدَّةً مُّؤْمِنَةً فَاِذَا خَرَجْتُمْ مِنْهُنَّ فَلْيَعْفُوْا اِنَّ الْعَفْوَ وَالْحَمْدَ لِحُسْنِ الْاَعْمَالِ۔

۴۔ قرآن کریم نے طلاق قبل الدخول میں نصف مہر واجب کیا کہ قال تعالیٰ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّكُنَّ لَهُنَّ فَرْصَةٌ لَّهُنَّ فَرِيضَةٌ مَّا خَرَجْتُمْ مِنْهُنَّ يٰۤاُولَیُّ الْاَلْبَابِ عَلِمْتُ اِنَّكُمْ لَعٰفُوْنَ رٰحِمُوْنَ۔ اور یہ فرمایا اِنَّ الْعَفْوَ وَالْحَمْدَ لِحُسْنِ الْاَعْمَالِ۔

عَقْدًا يَكْفُرُونَ أَنْ تَعْمُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ - یہ فضل اور احسان ہوا۔

(۵) قرآن کریم نے ظالم سے اپنا بدل لینے کی اجازت دے دی کہ اِن تَعَالَىٰ وَ اِن عَاقِبَتُهُمْ
 عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَعْتَقُوْا قِيْلَتُمْ بِهٖ۔ پس یہ عدل ہوا اور اس کے بعد صبر کی ترغیب دی اور
 یہ ارشاد فرمایا وَ لِيْسُنَّ صٰبِرِيْنَ كُنْتُمْ لَهَا وَايْتٰمٰوِيْنَ لِيْضٰمٰوِيْنَ پس یہ فضل ہوا دوسری جگہ ارشاد ہے
 وَ جَزَاؤُكُمْ سِيِّئَةٌ مِّثْلُهَا بِرَءِ كَابِدَلْتُمْ اِيْهَا بِرَءِ كَابِدَلْتُمْ اِيْهَا بِرَءِ كَابِدَلْتُمْ اِيْهَا بِرَءِ كَابِدَلْتُمْ اِيْهَا
 كِي ترغیب دی فَتَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَآجِزْكَ عَلٰى اللّٰهِ پس یہ فضل ہوا جس پر اجبر کا وعدہ فرمایا۔
 قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ ظلم کی حرمت اور عدل کے دُجوب کو بیان کرتا ہے اور عدل کے
 بعد فضل اور احسان کی ترغیب دیتا ہے عدل کو واجب قرار دیا اور فضل و احسان کو مستحب قرار دیا۔
 ہذا توضیح ما اناہہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی الجواب الصحیح از ص ۲۱۵ ج ۳ تا ص ۲۱۶ ج ۳۔

فرق سوم

قرآن کریم میں دین کے اصول اور فروع، ماورعاش اور معاد، اور تہذیب و اخلاق اور تدبیر
 منزل اور سیاست، ملکیہ اور مدنیہ اور فقیری و درویشی کے ساتھ حکمرانی اور جہان بینی اور عدل عمرانی
 کے جو قوانین اور قواعد مذکور ہیں تو ریت و انجیل میں کہیں اس کا عشر عشر بھی نہیں۔

فرق چہارم

قرآن کریم زمانہ نزول سے لے کر اس وقت تک برابر محفوظ چلا آیا ہے جس میں اب تک
 ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں آیا۔ بخلاف توریت اور انجیل کے کہ اس میں لفظی اور معنوی
 تحریف اور قسم قسم کی تغیر و تبدیل خود علماء یہود اور نصاریٰ کے اقرار اور اعتراف سے ثابت
 ہے اور قرآن کریم کا تحریف اور تبدیل سے پاک اور منزه ہونا ظہر من الشمس ہے کہ مخالفین و
 معاندین کو بھی سوائے اقرار کے اور اعتراف کے چارہ نہیں۔ جس طرح قرآن کریم حفاظت میں

یہ نظیر ہے۔ اسی طرح موجودہ تورات اور انجیل تحریر میں بے مثال ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں اتنی تحریر نہیں ہونے جتنی کہ تورات و انجیل میں ہوئی اور اس درجہ تحریر ہوئی کہ اصل اور جعل میں امتیاز کرنا تقریباً محال ہے۔

فرق پنجم

موجودہ تورات کے مضامین خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ تورات وہ تورات نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نامعلوم شخص کی تصنیف ہے۔

شہد اول چنانچہ تورات کتاب استثناء باب ۳۴ میں ہے:-

سو موسیٰ خداوند کا بندہ خداوند کے حکم کے مطابق مواب کی سرزمین میں مر گیا اور اسے مواب کی ایک وادی میں بیت نعور کے مقابل گاڑا۔ پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا؛ اھ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس واقعہ کا لکھنے والا شخص موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے عرصہ دراز کے بعد کا ہے۔

شہد دوم کتاب پیدائش باب ۳۵ ورس ۲۱ میں ہے:-

مہ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنا نیمہ عیذر کے ٹیلے کے اس پار ایسا وہ کیا؛ انہی عیذر ایک منارہ کا نام ہے جو شہر یورد و شلم کے دروازے پر موسیٰ علیہ السلام کے صدر بابر سے بعد بنایا گیا؛

شہد سوم۔ سفر عدد باب ۲۱ ورس ۳ میں ہے:-

مہ چنانچہ یہ وہاں بنی اسرائیل کی آواز سنی اور کنعانیوں کو گرفتار کروادیا اور انہوں نے انہیں اور ان کی بیٹیوں کو حرم کر دیا اور اس مکان کا نام حرمہ رکھا؛ انہی۔

حالانکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا تو کیا حضرت یوشع علیہ السلام کے بھی بعد کا ہے اس لئے مفسرین تورات نے مجبور ہو کر اس مقام پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جملے الحاقی ہیں جن کو عزیر علیہ السلام نے ملایا ہے۔ مگر محض حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لے دینا کافی نہیں جب تک کوئی دلیل اور سند نہ ہو۔ سیاق اور سیاق سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اول سے آخر تک تمام کلام متصل اور یکساں ہے۔ کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کلام الحاقی ہے اور علی ہذا عہد جدید کی تمام کتابیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئیں۔ جن کا زمانہ تالیف اب تک معین نہ ہو سکا۔ علماء نصاریٰ کا اس میں شدید اختلاف ہے کہ اناجیل اربعہ کس سنہ میں تالیف ہوئیں۔ دو انجیلوں کے مصنف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا بھی نہیں ایک مرقس اور دوسرا لوقا۔ محض سنی سنائی باتیں لکھ دی ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی اگر حواری بھی ہیں تو کچھ واقعات تو وہ لکھے ہیں کہ جو ان پر گزرے ہیں اور کچھ سنے سناتے نام تمام واقعات لکھے ہیں۔ ان کتابوں کو حضرت مسیح سے وہی نسبت ہے کہ جو سکندر نامہ کو سکندر سے اور رامائن کو رام چند سے ہے۔ موجودہ اناجیل کو الہامی کتاب کہنا بالکل غلط ہے۔ بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے زمانہ نزول میں کوئی اختلاف نہیں۔ تیس سال میں محفوظاً محفوظاً ہو کر نازل ہوا۔ ایک جماعت کا تبین وحی کی خاصہ کام کے لئے تھی کہ جب کوئی آیت نازل ہو تو فوراً لکھ لی جاتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی حافظ تھے۔ اور حضرات صحابہ رضی عنہم میں بھی بہت سے حافظ تھے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم من اولہ الی آخرہ بلا کم و کاست ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ ہو چکا تھا۔ فقط اوراق ہی پر نہیں لکھا گیا بلکہ قلوب اور صدور کے اوراق پر کندہ ہو چکا تھا۔

فرق ششم

اہل کتاب جس کتاب کو جن مصنف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کی کوئی سند متصل ان کے پاس نہیں۔ بخلاف اہل اسلام کے کہ ان کے پاس تو کتب حدیث کی بھی سند موجود ہے۔

قرآن کریم کے حافظ تو ہر زمانہ میں بے شمار ہوتے ہی چلے آتے ہیں اور انشاء اللہ تولدے تا قیام قیامت یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا کہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں عورتیں اور بچے، جوان اور بوڑھے، بیٹا اور نایینا حافظ ہوتے رہیں گے۔ بلکہ اس امت میں تو محمد اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار حدیث کے بھی حافظ گذرے ہیں۔ ساری دنیا کی قومیں اگر چاہیں کہ کوئی اپنی کتاب کا کچھ بچا حافظ پیش کر دیں، تو خدا کی قسم نہیں پیش کر سکتیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو لائیں اور پیش کریں۔ یہ یہود اور نصاریٰ تو ریت اور انجیل کا کوئی حافظ دکھلائیں اور ہندو وید کا کوئی حافظ دکھلائیں۔

فرق ہفتم

توریت و انجیل کے نسخے باہم اس قدر مختلف ہیں کہ وہ اختلافات شمار میں بھی نہیں آسکتے دوسری مرتبہ کی طبع شدہ بائبل، پہلی مرتبہ کی بنع شدہ بائبل کے کبھی مطابق اور موافق نہیں ہو سکتی۔ جدید نسخے قدیم نسخوں کے مخالف ہیں۔ نصاریٰ کے پاس کے نسخے ان نسخوں کے مخالف ہیں جو یہود کے پاس ہیں۔ نصاریٰ میں جو فرقے ہیں ان کے نسخے باہم مختلف ہیں۔ ایک فرقہ کا نسخہ دوسرے فرقہ کے نسخہ کے بالکل مخالف ہے۔ بخلاف قرآن کریم کے اس کے نسخوں میں کہیں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا بھی خلاف نہیں۔ ساڑھے تیرہ سو سال کے نسخے مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ، جدید ہوں یا قدیم مشرق کے ہوں یا مغرب کے سب ایک ہیں۔ جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ عیاں ماجہ بیاں۔

فرق ہشتم

ان کتابوں میں بکثرت ایسے مضامین پاتے جلتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ شانہ کے شانِ تقدیس و تشریح اور حضراتِ انبیاء کرام کی شانِ عصمت کے بالکل خلاف ہیں۔ مثلاً معاذ اللہ انبیاء کا

شراب پینا، جھوٹ بولنا، بت پرستی اور زنا کرنا وغیرہ ذک، جیسا کہ بالتفصیل ہم حوالجات سے ثابت کر چکے ہیں۔ قرآن کریم حضرات انبیاء کو ان تمام باتوں سے پاک اور منترہ بتلاکے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

فرق نہم

ان کتابوں کے مضامین کا باہم مختلف اور متعارض ہونا یہ بھی ان کے غیر الہامی ہونے کی دلیل ہے۔ کما قال تعالیٰ وَكُلُّ كَاۡنٍ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ لَیُّوۡجِدُ وَاٰیٰتِہٖ لَآ اَکْثٰرًا۔ مولانا عبدالحق صاحب مفسر تفسیر حقانی اپنے مقدمہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:-
 ان مواقع میں مفسرین اہل کتاب لاچار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سہو کا تب ہے خود پادری فنڈر نے مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد میں لاکھ سے زیادہ تسلیم کئے ہیں چنانچہ صفحہ ۵ میں لکھتے ہیں کہ اگر سیاح نے ایسے غلط مقامات ایک لاکھ پچاس سے ہزار گئے ہیں اور انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کی جلد ۱۹ بیان سکر پچر میں لکھا ہے کہ کہ فاضل وٹسلیٹن نے ایسے مقامات ۵۱ لاکھ سے زیادہ گئے ہیں۔ انتہی۔ اب جب کہ ایسے بڑے محققین اقرار کرتے ہیں۔ تو آج کل کے کریٹین یا نئے پادری کا انکار کیا وقعت رکھتا ہے۔ (مقدمہ تفسیر حقانی ص ۵۷)
 الحمد للہ کہ قرآن کریم ہر قسم کے اختلاف اور غلطی سے پاک و منترہ ہے۔

فرق دہم

ان کتابوں میں بہت سے مضامین فحش اور غیر مندیب ہیں جو شہوانی اور نفسانی خیالات کے جلا دینے میں ممداد و معاون ہیں۔ بطور نمونہ چند عبارتیں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں۔ کتاب ص ۷۷ یہ تمام حوالے مقدمہ تفسیر حقانی ص ۷۷ سے نقل کئے گئے ہیں۔

یسعیاہ باب ۲۲ میں ہے۔

”خدا کا کلام یہ ہے۔ میں بہت مدت چپ رہا، میں خاموش رہا، آپ کو روکتا گیا
برابر میں، اس عورت کی طرح جسے دردِ زہ ہو چلاؤں گا اور بانہوں گا اور درد
زرد سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا“

اور نوحہ یرمیاہ کے باب ۳ میں خدا کو یہ بچھ اور شہیر بتایا ہے۔

اور کتاب حزقیل باب ۲۳ میں ہے۔

”خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا، اسے آدم زاد اور عورتیں تھیں، جو
ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے مصر میں زنا کاری کی۔ وہ
اپنی جوانی میں بار بار ہوشیں۔ وہاں ان کی چھاتیاں ملی گئیں۔ اور وہاں ان کے
بکر کی پستان چھوئی گئی۔ ان میں کی بڑی کا نام ہوا اور اس کی بہن اہولیا۔ وہ
میری جو رداں ہوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنہیں“

اور کتاب یرمیاہ باب ۳ میں ہے۔

”کہاوت ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی جو رو کو نکالے اور وہاں سے جا کر دوسرے مرد
کی جو جائے کیا وہ پہلا اس کے پاس پھر جائے گا۔ کیا وہ زمین نپاک ہے۔ ہوگی۔ لیکن
تو نے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا، تب بھی میری طرفت پھرا، انتہی۔“

اور کتاب یسعیاہ باب ۲۳ میں ہے۔

”اور پھر وہ خیرچی کے لئے جاتے گی اور ساری زمین کی مملکتوں سے زنا کر لئے گی۔
لیکن اس کی تجارت اور خیرچی خداوند کے لئے مقدس ہوگی، بلکہ اس کی تجارت کا
حاصل ان کے لئے ہوگا، جو خداوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھانکے سیر ہو دیں، نفیس
پوشاک پہنیں الخ“

مقدس لوگوں کو کیا پاک نالی کھلویا اور کیسی نفیس پوشاک پہنوائی۔ الہامی بیان اسی کو کہتے ہیں۔

اور کتاب حزقیل کے باب ۲۳ ورس ۱۹ میں ہے :-

”تسپہر بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب کہ وہ مصر کی زمین میں
پھنالا کرتی تھی، زنا کاری پر زنا کاری کی ۳۰۰ سو، وہ پھر اپنے یاروں پر مرنے لگی
جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ انتہی

اور غزل الغزلات باب ۴ ورس ۱۰ میں ہے :-

”میری بہن، میری زوجہ، تیرا عشق کیا خوب ہے :- انتہی۔“

اور اس قسم کی بہت سی فحش تشبیہات ہیں جن کے پڑھتے وقت گرجا میں پادری لوگ بلاشبہ
آنکھیں نیچی کر لیتے ہوں گے۔

شریعت محمدیہ کا شریعت موسویہ و عیسویہ سے تقابل

دنیا کا ن کھول کر سن لے، ہم بانگِ دہل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ملت اور کوئی
شریعت شریعت محمدیہ کے ہم پلہ اور ہمسر تو درکنار، صداقت اور نچنگی لطائف اور پاکیزگی
میں شریعت محمدیہ کے عشر عشر بھی نہیں، حق پرست اور صاحب بصیرت کے لئے تو کسی
دلیل اور برہان پیش کرنے کی بھی حاجت نہیں اس کیلئے تو یہ کہہ دینا کافی ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب ہے گرد لیسے باید از دے رومتاب

شریعت حقہ سلمنے ہے، دیکھ لو اور دکھلا لو، پرکھ لو اور پرکھا لو۔ خالص سونہ ہے کسوٹی
پر کس لو اور کسوا لو۔ الغرض جس طرح چاہو امتحان کر لو اور جس سے چاہے امتحان کرا لو۔
مگر چونکہ ہر شخص نہ صاحب بصیرت ہے اور نہ حق پرست۔ اس لئے ہم شریعت محمدیہ
(علی صاحبہا الف الف صلوة والف الف تحییم) کی افضلیت اور برتری کے کچھ دلائل
ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

دلیل اول :- شریعت محمدیہ کے افضل الشرائع اور اکمل الملل ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے

کہ اس کے تمام اصول اور قوانین عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہیں۔ اس کا ہر قانون مدلل اور مبرہن ہے۔ اس کا ہر حکم نہایت قوی اور محکم ہے۔ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے مشید اور مزین ہے جس کو قدرے تفصیل کے ساتھ ہم نے علم الکلام کے دیباچہ میں اور محاسن اسلام اور دعوت اسلام میں ذکر کیا ہے۔

یخلافت یہود اور نصاریٰ کے کہ ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ دلیل نقلی ہے بعض بے سوچے سمجھے آباء و اجداد کی کورانہ تقلید ہے۔

مثلاً توریت میں خداوند قدوس کی ذات و صفات کے متعلق اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین کے منخلق بکثرت ایسے مضامین موجود ہیں کہ جن کے محال اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شک نہیں ہو سکتا۔

مثلاً العیاذ باللہ۔ خدا تعالیٰ کا انسان کو پیدا کر کے پھٹانا اور دیگر ہونا۔ اور آدم کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خدا کو خوف اور اندیشہ کا لاحق ہونا۔ اور خدا تعالیٰ کا حضرت یعقوب سے تمام رات کشتی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ امور ہیں کہ جو عہد عتیق میں مذکور ہیں کہ جس کو یہود انہامی کتاب اور اس کے احکام کو ابدی احکام مانتے ہیں۔ بھلا کسی عاقل اور ہوشمند کو ان امور کے باطل اور محال ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ خداوند قدوس ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور علیٰ ہذا حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے متعلق عہد عتیق میں بکثرت ایسے مضامین مذکور و مسطور ہیں کہ جن کی نسبت حضرات انبیاء اللہ کی طرت عقل محال سمجھی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء کا شراب پینا، جھوٹ بولنا، دھوکا دینا، زنا اور بدکاری، شرک اور بت پرستی کرنا وغیرہ وغیرہ۔

پھلا وہ کون سی عقل ہے کہ جو اس بات کو جائز رکھتی ہو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جن حضرات کو نبوت و رسالت کا زمین خلعت عطا کیا ہو۔ اجنبیاء و اصطفیاء کا پیش بہا صلہ ان کو پہنایا ہو۔ دنیا کی رشد و ہدایت، اصلاح و ترمیم، تعلیم و تزکیہ کے لئے ان کو مبعوث

کیا ہو تو حیدر تغریب کا سبق پڑھانے کے لئے ان کو پیدا کیا ہو۔ شرک اور بت پرستی اور ہر قسم کی فحشاء اور منکر کی گندگیوں کو دلوں سے دھونے کے لئے ان کو کھڑا کیا ہو۔ معاذ اللہ اگر یہی لوگ مشرک اور بت پرست ہوں، تو پھر دوسروں ہی کو کیا عقل پرستی سکھائیں گے یہ تو یہود کی شریعت کا حال تھا۔ اب نصاریٰ کی شریعت کا کچھ حال سنئے۔ مسیحی شریعت کے بنیادی اصول دو ہیں۔ ایک مسئلہ تشریح اور دوسرا مسئلہ کفارہ۔ پہنے مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ ایک نین میں اور تین ایک ہیں۔ اور دوسرے مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کی سزا میں ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی جائے۔

عقلی حیثیت سے ان دونوں مسئلوں کا جو تہ ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ علماء نصاریٰ جب خود ہی ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں، تو پھر معلوم نہیں کہ دوسروں کو سمجھانے کے لئے کیسے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

اونوشین گم است کردا بہری کتد

کی مثل صادق ہے۔ یہ مسیحی شریعت کے دو بنیادی اصول ہیں جو با اتفاق عقلاء سراسر حلاوت عقل ہیں۔ باقی شریعت کو اس پر قیاس کر لیا جائے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ یہود اور نصاریٰ جس شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے اصول اور قوانین سراسر حلاوت عقل ہیں۔ اثبات مدعا کے لئے آج تک ایک دلیل عقلی بھی نہیں پیش کر سکے۔ یہ دلائل عقلیہ کا حال ہے۔ دلائل نقلیہ کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ اہل کتاب کے پاس کوئی صحیح اور مستبر نقل ہی نہیں جو اس کو پیش کریں۔ جن کتابوں کے الماعی ہونے کے مدعی ہیں نہ ان کے مصنفین کا پتر ہے نہ زمانہ تالیف کا علم ہے نہ مکان تصنیف کی خبر ہے اور جن کا کچھ نام بتلاتے ہیں ان تک بھی کوئی سند متصل نہیں تو پھر دلیل نقلی کہاں سے پیش کریں۔

چنانچہ پادری سیل نے ترجمہ قرآن میں یہ وصیت کی ہے کہ جو مسائل ہمارے مذہب کے خلاف عقل ہیں۔ ان کا مسلمانوں کے سامنے ذکر مت کرنا۔ مسلمان احمق نہیں کہ تم ان خلاف عقل مسائل کو پیش کر کے ان پر غالب آ جاؤ۔ جیسے عبادت صنم اور عشا و ربانی کا مسئلہ۔ انتہی

دلیل دوم | شریعت محمدیہ کے افضل اور برتر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ شریعت اسلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے اور تمام حکماء کی حکمتوں کا عطر اور نچوڑ ہے۔ اور مزید برآں وہ محاسن اور خوبیاں ہیں جو کسی مذہب میں نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے کوئی حکمت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم نہ دی ہو، کوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا حکم نہ دیا ہو اور کوئی شر ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے منع نہ کیا ہو۔

کما روی عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت من خیر الا وقد امرتکم بہ وما ترکت من شر الا وقد نهیتکم عنہ او کما قال رواہ ابن ماجہ زید بن ارقم رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی کہ جس کا تم کو حکم نہ دیا ہو اور کوئی شر اور برائی نہیں چھوڑی کہ جس سے تم کو منع نہ کیا ہو (طبرانی اگر کسی شخص کو اس میں شک اور تردد ہے یا پوری شریعت کے موازنہ کرنے میں اس کو وقت اور دشواری معلوم ہوتی ہے، تو امتحاناً شریعت محمدیہ کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے مذہب کے کسی قانون اور تعلیم سے موازنہ کر لیں۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت محمدیہ میں تمام انبیاء اور حکماء کی تعلیم اور حکمتوں کا خلاصہ اور لب لباب موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے محاسن اور خوبیاں ہیں کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں پاتے جاتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ شریعت محمدیہ کے بعد دنیا کو کسی شریعت کی اصلاً حاجت نہیں۔

دلیل سوم | شریعت محمدیہ کے افضل اور شرف ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ شریعت

محمدیہ کا ہر حکم معتدل اور متوسط ہے۔ افراتو اور تغریط کے ٹھیک درمیان ہے۔ توسط اور اعتدال اس کا فرق امتیاز ہے۔ کما قال تعالیٰ -

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
ہم نے تم کو متوسط اور معتدل امت بنایا۔

تو شریعت موسویہ کی طرح اس میں شدت اور سختی ہے اور نہ شریعت عیسویہ کی طرح اس میں انتہائی تخفیف اور تسہیل ہے۔ شریعت محمدیہ تشدید اور تخفیف کے بین ہیں ہے۔ وغیرلا متوسط!

شریعت محمدیہ سے پیشتر جتنی بھی شریعتیں گذریں، وہ ایک خاص زمانہ اور خاص وقت کے ساتھ مخصوص

دلیل چہام

ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے ایک ہی زمانہ میں مختلف اقوام کی طرف متقدمین بھیجے گئے۔ اور ارسال رسل اور انزال کتب کا سلسلہ جاری تھا تا کہ ہر قوم پر ان احکام کو اُمت تک پہنچانے جو من جانب اللہ اس وقت اور اس زمانہ اور اس قوم کے مناسب اس پر نازل کئے گئے ہیں۔ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلوة والعت الف تیجہ چونکہ نہایت اکمل اور غایت درجہ معتدل اور کمال ہے۔ ابدی اور دائمی شریعت ہے۔ کسی زمانہ اور کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس لئے شریعت محمدیہ پر نزول شریح کا سلسلہ ختم ہو گیا۔

چنانچہ انجیل یوحنا باب ۱۴ ورس ۱۶ میں ہے :-

”میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار کہہ ابد تک تمہارے

ساتھ رہے“ الخ۔

اور قدیم نسخوں میں بچائے مددگار کے فارقلیط کا لفظ ہے، جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور باذنی ہمیشہ رہنے کی معنی یہ ہیں کہ وہ نبی آخری نبی ہو گا اور اس کی شریعت آخری اور دائمی شریعت ہوگی جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ شریعت محمدیہ قرآن اور حدیث کا ہمیشہ رہنا صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ اور جس نبی کی شریعت ابدی اور دائمی ہے گویا کہ وہ نبی بھی ابدی اور دائمی ہے۔

اور توراہ سفر پیدائش باب ۴۹ میں ہے کہ:-

در یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ یہوداہ سے ریاست
کا عھد ہونا ہوگا اور نہ حکم ان کے پاؤں کے درمیان سے جانا رہے گا۔ جب تک
کہ شیلہ نہ آوے اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی یا آتی

شیلہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور اس جملہ میں کہ قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی
عموم بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہ ہوگا بلکہ عالم
کی تمام اقوام کے لئے نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔

شریعت موسویہ اور عیسویہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عمومیت اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ
کر سکے انجیل میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے:-

کہ میں صرف نبی اسرائیل کی بھیلوں کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اور علیٰ بذاتِ اوریت نے بھی کہیں
اپنی تعلیم کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ جا بجا نبی اسرائیل ہی کو خطاب کیا گیا ہے۔

دلیل پنجم | شریعت محمدیہ صدرا اول سے لے کر اس وقت تک برابر محفوظ ہے جس شان
سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کی حفاظت فرمائی اگر اس کی شان حفاظت

کی نزاکت نکالی جاتے اور تمام دنیا کے مذہبوں اور ملتوں پر تقسیم کی جاتے تو غنی ہو جائیں مگر
افسوس کہ قسام ازل نے شریعت محمدیہ کی نزاکت حفاظت میں سے ایک نقیر اور قلمبر بھی ان کے
حصہ میں نہیں لگایا۔ جو فقیر کسی جیم کی وجہ سے صدقہ اور نزاکت سے بھی محروم کر دیا جائے اس
کے فقر کا کیا پوچھتا۔

اس لئے اہل کتاب کے ہاتھ میں نہ کوئی قابل وثوق شریعت ہے اور نہ قابل اعتماد کتاب
مجمول زمانہ کے جموں معنیوں کی جموں کتابیں ان جملہ جموں کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان پر رحم فرماتے۔ آمین یا رب العالمین۔

دلیل ششم: دنیا میں مذاہب بے شمار ہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ سب حق ہوں۔ یہ کیسے

ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا اقرار اور انکار توحید اور تثلیث، قیامت کا اتنا اور نہ ماننا دونوں حق ہوں۔ اگر دونوں حق ہوں تو اجتماع ضدین اور تعینیں لازم آتا ہے اور یہ کلمہ ممکن ہے کہ تمام مذاہب بائبل ہوں در نہ ارتجاع نقیضین لازم آتا ہے۔ لامحالہ ایک ہی مذہب ہی ہوگا اور اس کے سوا سب باطل ہوں گے۔ حق اور باطل ہونے کا ایک معیار تو وہ کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس مذہب کے اصول اور قوانین عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہوں وہ حق اور سچا ہے۔ اور جس مذہب کے اصول اور قوانین عقل اور فطرت کے خلاف ہوں، وہ ناحق اور باطل ہے۔

دوسرا معیار یہ ہے کہ جس مذہب نے حقوق اللہ اور حقوق نفس اور حقوق عباد کی صحیح اور مکمل تعلیم پیش کی ہو، وہی مذہب صحیح اور مکمل ہے۔ ساری بات شریعت اسلامیہ ہی پر صادق آتی ہے کہ جس میں ہر تمام و کمال حقوق مذکورہ بالا کی رعایت کی گئی ہے۔ اول حقوق اللہ کو بھیجے کہ جس مذہب میں سرے ہی سے خدا کے وجود کا انکار ہو یا خدا کے ساتھ اس کا شریک بھی مانا ہو، جیسے مجوسیوں کے نزدیک یزداں اور اہرمن اور نصاریٰ کے نزدیک اقاہم ثلاثہ باپ بیٹے روح القدس تین کے مجموعہ کا نام تھا ہوا۔ یا جو لوگ تینتیس کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہوں ان مذاہب نے خداوند ذوالجلال کی تشریح و تقدیس کا کیا حق ادا کیا۔ اور جس مذہب میں ربانیت اور ترک نکاح یعنی بے نکاح رہنا یا تھیا ٹھاٹھ کا سکھانا۔ تانوں اور مالوں کا بڑھانا عبادت ہو اس مذہب نے نفس کا کیا حق ادا کیا۔ شریعت محمدیہ نے نفس کے حقوق کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ مگر مخلوق نفس یعنی نفس کی خواہشوں اور لذتوں پر پابندی لگائی ہے۔ کھانا اور پینا اور سونا اور نکاح کرنا یہ نفس کا حق ہے۔ اس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے۔ اور سود خوری اور قمار بازی اور زنا اور حرام کاری یہ نفس کی شہوتیں اور لذتیں ہیں۔ شریعت محمدیہ نے شدت کے ساتھ ان سے روکا ہے اور یہی عقل سلیم کا مقتضا ہے کہ نفس کے حقوق و لذتیں ہمیں اور شہوات پر پابندی لگا دی جلتے اور جس مذہب میں گنہگاروں اور خطاکاروں کے بدلہ ایک معصوم اور بے گناہ کا قتل کرنا جائز ہو یا جس مذہب میں ایک قوم باوجود ان کی کرلے

کے پریشور کے نزدیک ناپاک ہو، تو اس مذہب نے انسانی حقوق کی کیا حفاظت کی۔

دلیل مہتمم | مذہب اسلام نے وجود میں قدم رکھتے ہی جس سرعت اور تیزی کے ساتھ دنیا پر اپنی صداقت اور حقانیت کا سکہ جمایا ہے، کوئی مذہب اس کی نظیر کو کیا

اس کا عشرِ عشر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سامنے صداقت اسلام کے دو سلسلے ہیں۔ ایک مذہبی اور دینی نشر و اشاعت اور دوسرا ملکی فتوحات، مذہبی اشاعت پر نظر کرنے سے توریث سفرِ استنار باب ۲۳ کی وہ بشارت سننے آجاتی ہے۔

• خداوند سینا سے آیا اور شعیب سے ان پر طلوع ہوا اور قارن کے پہاڑ سے جلوہ گر

ہوا الخ

مذہب اسلام کیا تھا۔ ایک روشن آفتاب تھا کہ فاندان کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ جس سے دم کے دم میں تمام عالم روشن اور منور ہو گیا اور تمام روتے زمین اس کے انوار و تجلیات سے جگمگا اٹھی۔

ملکی فتوحات کو دیکھئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیلابِ عظیم تھا کہ جس کے سلسلے فیروز کسریٰ کی بے پناہ سلطنتیں بھی نہ ٹھہر سکیں۔ چند ہی سالوں میں دنیا کی تمام حکومتوں کو تروبالا کر ڈالا۔ اور سب کا خاتمہ کر کے ایک نئی تہذیب اور نئے تمدن کا دور دنیا میں پھیلا دیا اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور ذوالقرنین کی خلافت و سلطنت کا نمونہ قائم کر دیا۔ جس طرح ان حضرات کی سلطنت مجزہ اور کرامت تھی اسی طرح اسلامی حکومت بھی مجزہ اور کرامت تھی۔

سرور عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کا عقلی ثبوت

اس مقام پر ہم حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا
مخلص ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جو تحقیق اور تدقیق کا ملقبی اور گمراہوں کے لئے پیغام ہدایت
اور نسخہ شفاء ہے وہ ہذا۔

نبی میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اخلاص اور محبت خداوندی ان کے
رنگ و پے میں اس درجہ جاری اور جاری ہو کہ ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو۔ سراپا
اطاعت ہو۔ ایک بات بھی ان میں خلافت مرضی خداوندی نہ ہو۔ اور قلب میں ارادہ معصیت
کی گنجائش ہی نہ رہنے کا نام عصمت اور معصومیت ہے اسی وجہ سے اہل اسلام حضرات
انبیاء کو معصوم کہتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ کے تقرب کے لئے سراپا اطاعت ہونا ضروری ہے
اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے اور مسند تقرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے
لہذا منصب نبوت و رسالت کے لئے کہ جس سے بڑھ کر بارگاہ خداوندی میں کون تقرب کا
مرئیت نہیں۔ معصومیت بدرجہ اولیٰ ضروری اور لازم ہوگی۔ لہذا مقررین بارگاہ خداوندی یہ
لئے یہ ضروری ہو گا کہ وہ ظاہراً اور باطناً خداوند ذوالجلال کے مطیع اور فرمانبردار ہوں۔ مگر چونکہ
خداوند علیم وخبیر ظاہر و باطن کا جہلنے والا ہے اس کے علم میں غلطی ناممکن ہے۔ اس لئے
انبیاء کرام منصب نبوت سے معزول نہیں ہوتے۔ حق تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنا مقرب بناتا
ہے جو ظاہراً و باطناً اس کے فرمانبردار ہوں۔ بخلاف دنیا کے بادشاہوں کے کہ ان کو فرمانبردار
اھرنے فرمان کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہوتی ہے۔ آج کسی کو مطیع سمجھ کر اپنا وزیر و مشیر
اور مقرب بناتے۔ ک اور بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل ہمارا مخالف ہے تو

اس کو معزول کر دیتے ہیں۔ دوم یہ کہ اخلاق حمیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ سوم یہ کہ عقل اور فہم میں کامل اور یکتا ہوں کیونکہ اول تو بد فہمی خود ایک ایسا عیب ہے کہ کیا کیئے۔ دوسرے تقرب مقربین خود اس غرض سے ہوتا ہے کہ بات کہے تو کچھ جائیں اور خود بھی تعمیل کریں اور دوسروں سے بھی کرائیں۔

الغرض نبوت کا مدار ان تین باتوں پر ہے۔ نبوت معجزات پر موقوف نہیں کہ جس میں معجزات دیکھے، اس کو نبوت عطا کی ورنہ خیر بلکہ معجزات نبوت پر موقوف ہیں۔ نبوت کے بعد عطا کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو بھی ان کی نبوت کا یقین آجائے۔ اور معجزات نبی کے حق میں بمنزلہ مسند اور دستاویز کے ہوتے ہیں۔ اس لئے اہل عقل کو چاہیے کہ اول عقل کامل اور اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ پر نظر کریں اور عقل اور فہم، اخلاق اور اعمال کو میزان عقل میں تولیں اور پھر بولیں کہ کون نبی ہے اور کون نہیں۔ مگر عقل اور اخلاق میں دیکھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور اعلیٰ پایا۔ عقل اور فہم میں اولیت اور افضلیت کے لئے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ ہدایت خود امی تھے جس ملک میں پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنبھالا بلکہ ساری عمر گزاری۔ وہاں نہ علوم دینی کا پتہ تھا نہ علوم دنیوی کا نشان نہ کوئی کتاب آسمانی نہ کوئی کتاب زمینی۔ پھر ایک شخص امی نے ایسے ان پڑھے ملک میں ایسا دین اور ایسا آئین اور ایسی لاجواب کتاب پیش کی کہ جس نے عرب کے جاہلوں کو الیاس یعنی علوم ذات و صفات خداوندی میں جو تمام علی سے مشکل ہے اور علم خدادات اور اخلاق اور علم سیاسیات اور علم معاملات اور علم معاش و معاد میں رشک اربطو اور افلاطون بنا دیا جس کے باعث جملہ عرب حکماء عالم ہو گئے۔ چنانچہ ان کے کمال علمی پر آج تک اہل اسلام کی بے تعداد تصانیف شہادت دے رہی ہیں۔ کوئی تخلص تو ہسی کہ ایسے علم کس قوم اور کس فریق میں ہیں۔ جس کے فیض یا نعمت اور تربیت یا فتنہ شاگردوں کا یہ حال ہے تو سمجھ لو کہ ان کے استاد اول اور معلم اقل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا

اور اخلاق کی یہ کیفیت کہ آپ کہیں کے بادشاہ نہ تھے، امیر نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، نہ تجارت کا سامان تھا نہ زراعت کا ایسے افلاس تھا کہ عرب کے لوگوں کو ایسا مسخر کر لیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے، وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دو روز کا ولولہ تھا۔ بخل گیا۔ ساری عمر اسی کیفیت سے گذاری۔ یہاں تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑا۔ آپ کی محبت میں سب پر خاک ڈال کر اپنوں سے آمادہ جنگ و سپار ہوئے کسی کو آپ مار کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ یہ تسخیر اخلاق نہ تھی تو یہ زور شمشیر کس تنخواہ سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ ایسے اخلاق کوئی بتاتے تو یہی کہہ سکتے ہیں تھے۔ یہ تو عقل اور اخلاق کی کیفیت تھی۔ زہد کی یہ حالت تھی کہ جو آیا وہی ٹھایا نہ کھایا نہ پینا۔ نہ مکان بنایا، تو پھر کون عاقل کہہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام تو نبی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوں۔ ان کی نبوت میں کسی کو تامل ہو کہ نہ ہو پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اہل عقل و انصاف کو ذرہ برابر تامل کی گنجائش نہیں۔

آپ کے کمالات علمی جو آفتاب کی طرح روشن ہیں اور ہر خاص و عام کو نظر آتے ہیں، ان سے صاف ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء کے قائلہ سالار اور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل اور سب کے خاتم ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ حضرات انبیاء سے جو کمالات اور معجزات ظہور میں آئے وہ سب عطیہ الہی اور فیض خداوندی ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی استاد جامع کمالات سے مختلف شاگرد فیض یاب ہو کر آئیں اور پھر کسی شاگرد سے معقول کا اور کسی سے منقول کا اور کسی سے طب کا اور کسی سے ہندسہ اور حساب کا فیض جاری ہو تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ استاد کی فلاں کمال نے اس میں ظہور کیا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کہ جن کو بارگاہ خداوندی سے فیض حاصل ہے ان کے مختلف کمالات اور مختلف معجزات کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی خدا تعالیٰ کی کون سی صفت سے مستفید ہے اور وہ نبی خدا کی کون سی صفت سے مستفید ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے معجزہ معصا سے صفت تغلیب و تبدل کا سراغ نکلتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ احیاء موقیٰ و شفا امراض سے جان بخشی کے مضمون کا پتہ چلتا ہے۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علیہ اور خاص کر معجزہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صفت علم سے مستفید ہیں اور بارگاہ علمی میں باریاب ہیں۔ اور یہ سب کو معنوم ہے کہ علم وہ صفت ہے کہ تمام صفات اپنی کارگزاری میں اس کی محتاج ہیں۔ مگر علم اپنے کام میں کسی صفت کا محتاج نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ارادہ و قدرت وغیرہ بغیر علم اور ارادہ کے کام نہیں کر سکتیں۔ روٹی کھانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ روٹی ہے، کوئی اور شے نہیں۔ مگر روٹی کا جانتا اور سمجھنا کھانے کے ارادہ پر موقوف نہیں۔ القصد علم کو اپنے معلومات کے تعلق میں کسی صفت کی ضرورت نہیں۔ مگر باقی صفات کو اپنے تعلقات میں علم کی حاجت ہے۔ غرض جو صفات غیر سے متعلق ہوتی ہیں ان سب میں اول علم ہے اور صفات متعلقہ بالغیر کے تمام مراتب صفت علم ہی پر ختم ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ نبی جو صفت علم سے مستفید ہو اور بارگاہ علمی تک باریاب ہو۔ وہی نبی انبیاء سے مراتب میں زیادہ اور تیر میں سب سے اول اور سب کا سردار ہوگا۔ اور سب اس کے تابع ہوں گے۔ اور اسی پر کمالات کے مراتب منتہی اور ختم ہوں گے۔ اس لئے وہ نبی خاتم الانبیاء بھی ضرور ہوگا۔ اور جس طرح وزیر اعظم پر تمام عہدوں کے مراتب ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کے احکام توڑ نہیں سکتا۔ ایسے ہی خاتم مراتب نبوت کے اوپر کوئی عہدہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں جو ہوتا ہے وہ اسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے احکام اور اس کے احکام کے ناسخ ہوں گے۔ اور دوسرے حکام کے احکام اس کے احکام کے ناسخ نہ ہوں گے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ وہ نبی خاتم زمانی بھی ہو۔ اس لئے کہ اس کا حکم سب کے بعد اور اخیر میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی نے دعا سے نہایت نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بجائے دعویٰ خاتمیت یہ فرمایا کہ صرف میرے بعد جہاں کا سردار آنے والا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی

خاتمیت کا انکار کیا بلکہ خاتم الانبیاء کے آنے کی بشارت دی۔ کیونکہ سب کا سردار خاتم الحکام ہوا کرتا ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا۔ تفصیل کے لئے حضرت ناظرین حجۃ الاسلام اور مباحثہ شاہجہانپور کی طرف مراجعت کریں۔

سورہ عالم سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

افضلیت پر عیسائیوں کا ایک اعتراض اور اس کا جواب باصوات

عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے۔

اول: کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم بتول سے روح القدس کے پھونک مارنے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس خارق عادت طریقہ پر ان کی ولادت کو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا ہے یہ دلیل اس امر کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کرام میں ایک خاص شان امتیازی حاصل ہے جس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔

دوئم: یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باذن الہی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مازاد اندھوں کو اچھا کرتے تھے اور بیماروں کو شفا بخشتے تھے اس قسم کے معجزات کسی اور نبی کو نہیں دیتے گئے اور نہ اس قسم کے معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے معلوم ہوا کہ مسیح بن مریم تمام انبیاء سے افضل تھے۔

سوم: یہ کہ نبوت و رسالت کے لئے طہارت اور نراہت لازم ہے اور تمہارے نبی (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پابند شہوات تھے کہ متعدد بیویاں رکھتے تھے بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شہوات نفسانیہ سے بالکل پاک اور منزہ تھے۔

چہارم: یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے اور وہاں

زمرہ ہیں اور اسی پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔
 اور تمہارے نبی یعنی مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر
 میں مدفون ہوئے اور ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے بہتر ہے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اور حضرت عیسیٰ
 کی اس افضلیت کے چار شاہد ہیں اول شاہد ولادت دوم شاہد معجزات سوم شاہد صفات
 چہارم شاہد وفات۔

اب جواب باصواب سنئے

اس مدعی نے اپنے اس دعوئے کے ثبوت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے
 افضل ہیں چار شاہد (دگواہ) پیش کیے ہیں اب آپ ایک محمدی عالم سے گواہوں کی ترتیب
 کے مطابق۔ جواب دعویٰ سنئے۔

جواب دعویٰ سے پہلے ایک نہایت مختصر گزارش

وہ گزارش یہ ہے کہ جب آپ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور ان کی وفات کو تسلیم کرتے ہیں
 تو پھر ان کو خدا کیسے مانتے ہیں خدا کی ولادت اور پیدائش عقلاً محال ہے اور خدا کی موت
 اس کی ولادت سے بڑھ کر محال ہے پیدا ہونے والی ذات اور مرنے والی ذات خدا نہیں ہو
 سکتی آپ سے بعد ہمدردی و خیر خواہی ہی نیاز مندانہ درخواست ہے کہ اس مختصر گزارش
 پر ضرور غور فرمائیں گے۔ تاکہ آپ پر حق واضح ہو جائے۔ اب آپ اپنے شاہدوں کو گواہوں

(شہاد اول کا جواب)

حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ - مطلق ہے جس طرح چاہے کسی کو پیدا کرے اس کی حکمتیں ہیں اس نے کسی کو کسی طرح پیدا کیا اور کسی کو کسی طرح - کسی خاص طریقہ پر پیدا کرنا افضلیت کی دلیل نہیں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے مختلف طریقوں پر پیدا کیا تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی خاص صورت اور خاص ہیئت کی پابند نہیں ملائکہ کو محض نور سے اور جنات کو نار سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو ماروٹین سے بلا ماں باپ کے خود اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مسجود ملائکہ بنا یا اور روستے زمین کی خلالت ان کو عطا کی اور حضرت حواء کو بغیر ماں کے محض ایک مرد سے پیدا کیا۔ پس اگر حضرت عیسیٰ کا بلا باپ کے پیدا ہونا دلیل افضلیت ہے تو ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونے یا ہمیں اور حضرت عیسیٰ اپنے تخلیق و تکوین میں حضرت حواء کے مشابہ ہیں جس طرح حضرت حواء بغیر ماں کے پیدا ہوئیں اسی طرح حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے بلکہ ایک اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام - حضرت حواء کے برابر ہوئے۔ حضرت حواء بغیر ماں کے پیدا ہوئیں اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس اعتبار سے دونوں برابر ہوئے۔ رہا یہ سوال کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تو ذکر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ذکر نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب

یہ ہے کہ یہودیے بہود چونکہ حضرت مریم کو مشہم کرتے تھے اور معاذ اللہ حضرت مسیح کو ولد الزنا بتلاتے تھے اس لئے یہودیوں کی تکذیب اور تردید کے لئے حق تعالیٰ نے حضرت مریم

سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا قصہ بیان فرمایا تاکہ مریم صدیقہ کی براہت اور نزاہت اور طہارت اور کرامت معلوم ہو جائے۔ بخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے نسب مطہر میں کسی کو بھی کوئی کلام نہ تھا نہ آپ کی والدہ ماجدہ میں اور نہ آپ کے والد ماجد کے بارہ میں کسی کو کوئی شبہ تھا جس کی کتاب الہی میں تردید اور تکذیب کی جاتی۔ البتہ جب دشمنوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کی طہارت پر ذرا تردید کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی دس آیتیں ان کی براءت و نزاہت میں نازل فرمائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عائشہ صدیقہ براءت و نزاہت میں مریم صدیقہ کا نمونہ ہیں۔

نصاری کا بلا باپ کے پیدائش پر فخر کرنا اور اس کو موجب افضلیت قرار دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی دیہاتی خود رو گھانس کو پھیل اور گلاب کے پودوں پر اس لئے ترمیح دے کہ یہ گھانس خود بخود آگیا ہے۔ کسی مالی اور باغبان کے عمل کو دخل نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم عذراء سے پیدا ہوتے جو کنواری تھیں اور قابل ولادت تھیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بوڑھی اور باندھنی سے پیدا ہوئے جن کے شوہر بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے جن کا قصہ سورہ آل عمران میں مفصل مذکور ہے پس کیا اس طرح کی ولادت حضرت یحییٰ کے افضلیت کی دلیل ہو سکتی ہے اور کیا اس بناء پر حضرت یحییٰ کو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام سے افضل قرار دیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ کسی خاص طریقہ پر ولادت اور پیدائش دلیل افضلیت کی نہیں علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک خاص اعجازی شان سے ہوئی اور آپ کی ولادت کے وقت ایسے عجیب و غریب خوارق کا ظہور ہوا کہ جو کسی نبی کی ولادت کے وقت ظاہر نہیں ہوتے مثلاً آپ کی ولادت کے وقت ایک نور کا ظاہر ہونا اور بتوں کا اترنا ہو جانا اور نوشیران کے محل کے چوہ کنگروں کا گر جانا وغیرہ وغیرہ کتب سیرت میں مذکور ہے جس سے آنحضرت کی غلو شان ظاہر ہوتی ہے۔

(شاہد دوم) معجزات) کا جواب)

حق جیل شانہ نے ہر نبی کو اس زمانہ کے مناسب معجزات عطا کئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر کا زور تھا اس لئے ان کو عصا اور ید میضا کا معجزہ عطا کیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بادشاہت عروج پر تھی اس لئے ان کو عرش بلقیس کے متعلق ایسا معجزہ دیا گیا کہ کوئی شاہی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے نیز سلیمان علیہ السلام کو تسخیر ریاح اور تسخیر جن کا معجزہ دیا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تاکہ سلاطین عالم سمجھ جائیں کہ یہ شخص اگرچہ ظاہر میں بادشاہ ہے مگر درحقیقت اللہ کا نبی اور اس کا برگزیدہ بندہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا اس لئے ان کو احیاء موتی اور ایڑا اکہ و ابرص کا معجزہ عطا کیا گیا جس سے تمام اطباء عالم عاجز تھے اور اب بھی عاجز ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے معجزات عطا کئے گئے حتیٰ معجزات کے علاوہ ایسے روحانی اور علمی معجزات عطا کئے گئے کہ ہوا اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں عطا کئے گئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ احیاء موتی کا ہے سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مردہ مقتول۔ گاتے کے گوشت کا ٹکڑا لگا دینے سے زندہ ہو گیا اور ان کا عصا کبھی ثعبان مبین (اڑدھا) بنا اور کبھی اس کے مارنے سے دریائے نیل میں بارہ راستے بن گئے جس سے بنی اسرائیل صحیح سالم گذر گئے اور حزقیل علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مردہ ہمارے سو سال کے بعد زندہ ہوا۔ اور حزقیل اور ایسع اور الیاس علیہم السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا اور کبھی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گہوارہ میں کلام کیا۔

اور آنحضرت سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بھی

بعض مردے زندہ ہوتے اور بہت سے مریض شفا یاب ہوئے جیسا کہ شفا ر قانی عیاض اور زر قانی شرح مواہب اور خصائص کبریٰ للسیوطی میں تفصیل کے ساتھ ان معجزات کا ذکر ہے کہ کتنے مردے حضور پر نور کے دست مبارک پر زندہ ہوئے اور کتنے مریض آپ کے ہاتھ سے شفا یاب ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت چھوڑی وہ سارے عالم کی حیات ابدی کا سامان ہے اور قیامت تک نوع انسانی کے لئے مشعل ہدایت کا کام دے گی۔ شفاء امراض کا فائدہ وقتی ہے اور شریعت کا فائدہ دائمی ہے۔ نصاریٰ شفاء امراض اور احیاء موتی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت یسح کے ان معجزات سے مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچا۔

جواب :- یہ ہے کہ یہ اصولی غلطی ہے انبیاء کرام کے معجزات کے متعلق یہ سوچنا کہ ان سے ظاہری طور پر مخلوق خدا کو نفع پہنچا یہ نادانی ہے معجزات دنیاوی فوائد اور منافع کے لئے نہیں عطا کیئے جاتے بلکہ منکرین اور معاندین پر حجت قائم کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں کہ معاندین ان حقائق کو دیکھ کر اپنے عجز کا اقرار کریں اور گردن تسلیم انبیاء کرام کے سامنے جھکا لیں اور ان کی صداقت کا اقرار کریں اور سمجھیں کہ یہ معجزات حق تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے ہاتھ پر یہ صداقت کے نشان ظاہر ہو رہے ہیں معجزات سے مقصود اعجاز خدا ہے اس لئے حق تعالیٰ نے ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ قسم کے معجزات عطا کئے اس لئے کہ اگر تمام انبیاء کرام ایک ہی قسم کے معجزات دیئے جاتے تو لوگ شبہ اور تردد میں پڑ جاتے اور سرد عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی اور آخری رسول تھے اس لئے من جانب اللہ آپ کو ہر نوع اور ہر جنس کے معجزات عطا کئے گئے تاکہ تمام عالم پر آپ کی نصیحت اور برتری واضح ہو جائے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

ایچہ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری

شاہد سوم (طہارت و نزاہت) کا جواب!

بے شک نبوت و رسالت کے لئے طہارت و نزاہت لازم ہے مگر یہ امر مسلم ہے کہ انبیاء کرام جنس بشر سے ہوتے ہیں نہ کہ جنس ملائکہ سے ابوالانبیاء یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد خداوندی ہے انی خالق بشوا من حین : اور نکاح لو انہم بشریت میں سے ہے جس طرح کھانا اور پینا نبوت و رسالت کے منافی نہیں اسی طرح نکاح بھی نبوت کے منافی نہیں حیرت کا مقام ہے کہ نصاریٰ کے نزدیک کھانا اور پینا الوہیت کے تو منافی نہ ہو اور نکاح نبوت و رسالت اور شان عظمت کے منافی بن جاتے۔

نکاح قوت بشریہ کا کمال ہے اس سے اخلاق و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے جس طرح کسی کا ناقابل نکاح ہونا ایک انسانی نقص اور عیب ہے۔ ازدواجی تعلق۔ بقاء نسل انسانی کا ذریعہ ہے اور میوی اور بچوں کی تعلیم و تربیت جیسی عظیم ترین عبادت کا وسیلہ ہے۔ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت حسنہ ہے سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام جن کو حق جل شانہ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مسجود ملائک بتایا ان کی زویہ مطہرہ حضرت حواء کو فقط حضرت آدم سے پیدا کیا جس طرح حضرت عیسیٰ کو مریم صدیقہ سے پیدا کیا اور جنت میں حضرت آدم سے ان کا نکاح کیا معلوم ہوا کہ نکاح شان نبوت و رسالت اور شان خلافت کے خلاف نہیں حضرت آدم علیہ السلام آسمان میں مسجود ملائک بنے اور پورے روئے زمین کے خلیفہ بنے۔ اور جن اور انس حتیٰ کہ فرشتے ان کے زیر فرمان رہے اور زمین پر اترنے کے بعد اولاد ہوئی اولاد کی تربیت بھی کرتے رہے اور تمام روئے زمین کا انتظام بھی کرتے رہے اور ان پر اللہ کی وحی بھی نازل ہوتی رہی اور تبلیغ و دعوت بھی کرتے رہے معلوم ہوا کہ ازدواجی تعلق تبلیغ و دعوت میں حائل نہیں۔ حضرت مسیح کو باوجود نکاح سے مجرور رہنے کے یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے اور نہ وہ اس قدر تبلیغ کر سکے ہم یہ نہیں کہہ سکتے

کہ حضرت مسیح نے جو ساری عمر تہجد اختیار کیا وہ صرف تبلیغ و دعوت کی خاطر تھا یا کسی اور حکمت اور مصلحت پر مبنی تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بیویاں تھیں ایک سارہ زوجہ باجرہ جن سے نکاح کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر اسی سال کی تھی۔ تیسری قطورہ جن سے حضرت ابراہیم نے بالکل اخیر عمر میں وفات سے چند روز پہلے نکاح فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے چار نکاح کئے اور حضرت موسیٰ نے دو نکاح کئے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ تمام عالم کے لئے تھی آپ نے حق کی دعوت و تبلیغ میں جو مصائب و آلام برداشت کئے وہ ظہر من الشمس ہیں مشرکین اور یہود اور نصاریٰ اور مجوس اور صابئین اور دھریہ تمام عالم کا یکے وقت مقابلہ کیا اور نصاریٰ نجران اور شام پر توحید کو واضح کیا اور تثلیث کو باطل کیا اور باوجود ازدواجی زندگی کے کسی دعوت و تبلیغ میں کمی نہیں آئی بلکہ تمام انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر دنیا کو خدا کی طرف کھینچ لیا اور ازدواجی زندگی اور خانگی معاشرے کے احکام اور آداب کی دنیا کو تعلیم دے گئے جس کا انجیل میں کوئی باب نہیں۔ قرآن و حدیث میں والدین کے آداب و حقوق کا بیان ہے انجیل میں نہیں تفصیل کے لئے دیکھو احياء العلوم توریت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے نکاح میں سو عورتیں تھیں اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں ایک ہزار بیویاں تھیں اور توریت میں ہے کہ مرد جس قدر عورتوں کا خراج برداشت کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے غرض یہ کہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نصاریٰ نے پولوس کے کہنے سے ایک عورت سے زائد نکاح کو ناجائز اور حرام سمجھا اور تمام انبیاء کے خلاف پولوس کے حکم کو اپنا دین بنا لیا۔

علماء نصاریٰ پہلے ان حضرات انبیاء کرام کے متعلق بتلائیں کہ جن کے متعدد نکاح توریت سے ثابت ہیں ان کے متعلق علماء نصاریٰ کا کیا فتویٰ ہے اس کے بعد ہم سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج کے متعلق سوال کریں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ کلمح سے پاکیزگی اور علیحدگی شرائط نبوت پر سے نہیں اور نہ ممکن تبلیغ دین میں
بارج اور مزالم ہے حضرت مسیح سے پہلے سے انبیاء گذرے اور بہ نسبت حضرت مسیح کے لوگ
ان سے بہت زیادہ مستغیر اور مستقیض ہوئے باوجودیکہ وہ انبیاء سابقین اہل و عیال بھی رکھتے
تھے کمال تعالیٰ۔

وَلَقَدْ ارْسَلْنَا رَسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً
تَحْقِيقاً بِمَنْ نَعَىٰ اَنْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
اور ان کے لئے بیویاں اور اولاد عطا کیں۔

شان لم یلد ولم یولد صرف حق تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے نہ کہ انسان اور بشر کے لئے سرور
عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اہل و عیال رکھنے کے۔ حضرت مسیح سے
کہیں زیادہ تبلیغ کی اور پورے جزیرۃ العرب کے جہل کو علم سے بدل دیا اور ان کی شرک اور بت
پرستی کو توحید و تفریح سے بدل دیا۔

شہاد چہارم۔ وفات کا جواب

وفات کے اعتبار سے اگر موازنہ کیا جائے تو نصاریٰ کے عقیدہ کی بناء پر حضرت مسیح
نے دشمنوں کے ہاتھ سے مقہور و مصلوب ہو کر اہل اہل کتے ہوئے جان دی اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور اصحاب میں یصد مسرت و ابتهاج اللہم الرفیق الاعلیٰ
کہتے ہوئے دنیا سے رحمت ہوئے۔

نصاری کے زعم فاسد کی بناء پر حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ذلت آمیز اور باہت انگیز جلیبی

موت واقع ہرئی وہ کسی چوراہہ قزاق کو بھی نہیں پیش الٰہی مسلمان کی زبان اور قلم تو اس کے تصور سے بھی کاہتی ہے۔

اور اگر نصاریٰ حضرت مسیح کو اس بناء پر افضل بتاتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھاتے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مدفون ہوئے تو یہ دلیل افضلیت کی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ نصاریٰ کے نزدیک ایسا علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھاتے گئے مگر وہ دونوں اس وجہ سے حضرت مسیح کے برابر نہیں ہو گئے اور نہ وہ دونوں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے افضل ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ رفع الی السماء یعنی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں اور نہ رفع الی السماء افضلیت کی دلیل ہے اور حضرت عیسیٰ السلام جب زمین پر تشریف فرما تھے تو اس وقت بھی وہ آسمان کے فرشتوں سے افضل تھے اور حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے صیوط اور نزول کے بعد بھی ملائکہ علویین سے افضل ہوں گے نیز عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء یہود کے قتل و صلب سے حفاظت کے لئے تھے کہ وہاں زندہ سلامت رہ کر بوقت حاجت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حکم و عدل ہو کر آسمان سے نازل ہوں اور جبال کو قتل کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الی السماء یعنی معراج جسمانی بطور اعزاز و اکرام تھا لہذا من ایتنا انہ هو السميع البصیر۔

خلاصہ کلام

یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی خصوصی امتیاز اور خصوصی فضیلت عطا کی تاکہ لوگوں میں اس کی فضیلت ظاہر ہو اور لوگ اس کی نبوت و رسالت کو قبول کریں اور اس کو فرستادہ خدا سمجھیں۔ ہر گلے لارنگ و بوئے دیگر امت اور ایسے فضائل و کمالات کہ جن سے تمام انبیاء کرام پر فضیلت ثابت ہو سکے وہ صرف سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے گئے جن کی تفصیل میراث اور علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے اور اس ناچیز نے اپنی تالیف

(۳) علماء یهود اور نصاریٰ کے نزدیک حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی کیا دلیل ہے۔ اور نصاریٰ کے نزدیک ان حضرات کا نبی اور رسول ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟

(۴) ایمان کی تعریف کیا ہے؟

(۵) کیا کسی نبی پر ایمان لانے کے لئے فقط اس نبی کی تصدیق کافی ہے یا اس کے تمام احکام کی تصدیق ضروری ہے؟

(۶) اگر کوئی شخص کسی نبی کو نبی تو سمجھنا ہے مگر اس کی لائی ہوئی کتاب یا شریعت یا اس نبی کے متعلقین کردہ احکام یا کسی ایک حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو ایسا شخص مومن ہے یا کافر؟

(۷) انبیاء و مرسلین سب ہی اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔ مگر یا یہ ہمہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم ؑ کا حضرت اسحاق اور یعقوب سے افضل ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوشع سے افضل ہونا تمام علماء یهود اور نصاریٰ کو مسلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فضیلت کا معیار کیا ہے کہ جس کی بناء پر یہ کہا جاسکے کہ فلاں نبی اور رسول فلاں پیغمبر سے افضل ہے اس معیار کی توضیح فرمائی جائے۔

(۸) حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کی تعداد کس قدر ہے۔ انانجیل سے ان کا حوالہ دیا جائے۔

(۹) اگر کسی نبی کے معجزات حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے سو گنا زیادہ ہوں تو حضرت نصاریٰ (اس نبی کو حضرت مسیح علیہ السلام سے افضل اور برتر مانیں گے؟

(۱۰) کسی کتاب کو کتاب الہی یا کلام الہی کہنے کا کیا معیار ہے؟

(۱۱) علماء نصاریٰ کے نزدیک توریت یا انجیل کس اعتبار سے قرآن کریم سے افضل اور بہتر ہے؟

(۱۲) کیا انجیل باوجود ہزار ہا اختلاف کے معتبر اور مستند ہونے میں قرآن کریم سے دیکر جس پر تعریف یا

چودہ سو سال کا عرصہ گزر جانے پر بھی ایک نقطہ اور ایک شوشہ کا فرق نہیں آیا، نازد باد ثوق اور

مستند ہے۔

(۲) توریت و انجیل یا اور دنیا کی کوئی کتاب حفاظت میں قرآن کریم سے بڑھی ہوئی ہے کہ جس کے بے شمار حافظ دنیا کے ہر خطہ میں موجود ہیں اور جس کے لئے ہر حافظ کا سینہ ہی خود توریت و انجیل بنا ہوا ہے کیا علمائے یہود و نصاریٰ قرآن کریم کی طرح توریت و انجیل کا کوئی کچا پکا حافظ دنیا کے کسی کونے میں دکھلا سکتے ہیں؟

(۳) یا توریت اور انجیل با اعتبار علوم اور معارف کی جامعیت کے قرآن کریم سے بڑھی ہوئی ہے۔

(۴) یا توحید کی تعلیم توریت اور انجیل میں قرآن سے زیادہ بلند ہے۔

(۵) یا تعلیم اخلاق کے اعتبار سے توریت و انجیل کا پایہ قرآن کریم سے بلند ہے۔

(۶) یا حقوق اللہ یا حقوق العباد کی توضیح و تفصیل توریت و انجیل میں قرآن کریم سے زیادہ موجود ہے

(۷) یا تدبیر منزل اور تدبیر ملکی انفرادی اور اجتماعی معاشرت اور تمدن کے اصول کی توریت و انجیل قرآن کریم سے زائد ذمہ دار اور کفیل ہے۔

(۸) یا توریت و انجیل میں ظاہری اور باطنی امراض کی توضیح اور پھران کی علامات کی پوری پوری

تشریح قرآن کریم سے بڑھ کر ہے۔

(۹) یا توریت و انجیل با اعتبار فصاحت و بلاغت حلاوت و شیرینی کے قرآن کریم سے بڑھ

کر ہے۔

(۱۰) ذکر الہی کے طریقے اور بارگاہ خلوت و بندگی میں التجا و التماس کے جو آداب قرآن و حدیث

نے بتلا دیئے۔ کیا دنیا کی کوئی کتاب اس کا نمونہ پیش کر سکتی ہے؟ فَتِلْكَ عَشْرًا كَامِلَةً .

(۱۱) حضرت مسیح علیہ السلام کس شان میں سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے

بڑھے ہوتے ہیں۔

(۱۲) کیا کوئی مسیحی یا یہودی حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا ایک کلمہ سند متصل کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ بخلاف پیروان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے کہ وہ اپنے نبی امی کا بر قول اور ہر فعل اور ہر حرکت اور سکون عبادت اور استراحت استیجا اور طہارت سکوت اور تکلم، ضحک اور تبسم کو اسانید مسلسلہ اور زنایت متصلہ حدیثاً فلاں بن فلاں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

(۱۳) جس طرح امت محمدیہ نے قرآن و حدیث کی توضیح و تشریح کی تھا طرہ قسم قسم کے علوم ایجاد کئے مثلاً اسماء الرجال، معرفۃ الصحابۃ الثابعتین، علم الحدیث، علم تفسیر اصول فقہ و اصول حدیث، اصول تفسیر علم البلاغت، علم النحو، علم الصرف، غریب القرآن و غریب الحدیث، علم الکلام، علم الفقہ علم الاخلاق، علم اسرار الشریعت، کیا کوئی امت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟

(۱۴) علمائے اسلام نے قرآن و حدیث کے علوم و معارف نکات و لطائف کا جو دریا بہا یا گیا علماء یہود و نصاریٰ کی طرح قوریت و انجیل کے علوم و معارف کا کوئی ادنیٰ اور معمولی سا نمونہ پیش کر سکتے۔ (۱۵) کیا کوئی امت امت محمدیہ کے فقہاء و مجتہدین، جیسے ابی حنیفہ اور شافعی کے اور ابو یوسف اور محمد بن حسن وغیرہم کی فہم و فراست اور تفقہ اور اجتہاد اور استنباط اصول و فروع میں کوئی ادنیٰ ہی ایک نظیر بھی پیش کر سکتی ہے۔

(۱۶) اور حفظ و ضبط میں احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین، بخاری و مسلم، شمس الدین ذہبی اور ابن حجر عسقلانی کا کوئی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔

(۱۷) یا کوئی امت اپنے پیغمبر کی جان نثاری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نمونہ دکھلا سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو محمد رسول اللہ پر اپنا جان و مال، گھر اور در، کنبہ اور برادری، ماں اور باپ اور اولاد سب ہی کو آپ پر قربان کر دیا۔ اور موجودہ انجیل کی بناء پر معاذ اللہ حضرت مسیح کے حواریوں نے نصاریٰ کے اعتقاد کی بناء پر اپنے خدا کو تیس درہم میں فروخت کر کے ایک گھمار کا کھیت خرید لیا۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔

(۱۸) حضرت مسیح علیہ السلام صرف نبی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یا تمام عالم کے لئے۔

(۱۹) حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا اپنے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے۔ انجیل میں کسی ایک جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہو کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا تو اس کا حوالہ دیا جائے۔

(۲۰) حضرت مسیح اگر خاتم الانبیاء تھے، تو فارقلیط اور روح حق کے آنے کی بشارت دینے کا کیا مطلب ہے۔ اور حضرت مسیح کے بعد علماء نصاریٰ فارقلیط کے کیوں منتظر رہے۔ اور بہت سے لوگوں نے فارقلیط ہونے کا کیوں دعویٰ کیا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح خاتم النبیین نہ تھے ورنہ ان کے بعد ایک نبی کے ظہور کے انتظار کے کیا معنی۔

(۲۱) انجیل کے سو سال قبل کے مطبوعہ نسخوں میں فارقلیط کا لفظ موجود ہے مگر حال کے نسخوں میں نہیں رہا۔ کیا کسی کمیٹی کو کتاب الہی میں کسی تغیر و تبدل کا کوئی حق حاصل ہے۔

(۲۲) توریت و انجیل کے نسخے مختلف کیوں ہیں؟

(۲۳) توریت و انجیل کس زمانہ میں لکھی گئیں۔ اور کس نے لکھی۔ اس میں یہود و نصاریٰ کا کیا اختلاف ہے؟

(۲۴) ان چار انجیلوں کے علاوہ اور بھی انجیلیں لکھی گئیں نصارے کے نزدیک سواتے ان چار انجیلوں کے باقی انجیلوں کے غیر معتبر ہونے کی کیا دلیل ہے اور کس بنا پر ان کو غیر مستند قرار دیا گیا۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَقَّ لَدَيْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ اَبِيهِمَا وَ صَحَابِهِمْ اَجْمَعِينَ وَ عَلَيْنَا وَ عَرَضْنَا
اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

حسن الحدیث

فہم ابطلانہ التلیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیْکٌ فِی السُّلْکِ وَّلَمْ یَکُنْ لَهُ وَّلِیٌّ
مِّنَ الدُّنْیَا وَکَبِیْرًا تَکْبِیْرًا - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الرَّحْمٰنِ
الَّذِیْ یَجِدُوْنَ مِنْ مَّکْتُوبَاتِ عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَةِ وَ الْاِنْجِیْلِ وَیَعْلَمُهُا عُلَمَاءُ بَنِیْ اِسْرٰئِیْلَ - وَ
عَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَارْدًا جِهًا وَذُرِّیًّا یَا اٰیةَ اَجْمَعِیْنَ وَعَلِیْنَا مَعَهُمْ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِنَ وَیَا اَكْرَمَ
الْاَكْرَمِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

قیٰ اهل ان کتاب نعالوا الی کلیمۃ سواہ
بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ذکا
شیرک بہ شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا
اربابا من دون الله فان تولوا فقلوا
انہم ہدوا و ابائنا مسلمون۔

اسے اہل کتاب آؤ میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک
ایسے امر کی کہ جو ہم میں اور تم میں مسلم ہے وہ یہ کہ
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور نہ کسی کو
خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے اور نہ خدا کے
سوا ایک دوسرے کو رب بنائیں گے پس اگر اہل کتاب

اس صریح حق اور واضح ہدایت سے اعراض اور دوگردانی کریں تو لوگ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان
ایک خدا کے پرستار اور فرمانبردار ہیں۔

اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند ذوالجلال وحصہ لاشریک لہ ہے نہ ذات میں کوئی اس
کا شریک ہے اور نہ صفات میں اور نہ کوئی اس کے مشابہ اور مانند ہے وہ بے مثل اور بے چون
وچگون ہے اور نہ کسی کے ساتھ متحد ہے اور نہ وہ کسی میں حلول کئے ہوئے ہے جسمانیت اور
صورت اور شکل سے پاک اور منزہ ہے جہت اور مکان اور زمان سب سے بالا اور برتر ہے۔
جسم ہو یا صورت اور شکل ہو یا جہت اور مکان ہو یا وقت اور زمان زمین ہو یا آسمان
سب اسی کی مخلوق ہے۔

یہ ایسا صاف اور واضح عقیدہ ہے کہ بے شمار عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے اور اس پر

تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع ہے۔

نصاری زبان سے تو توحید کا اقرار کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے توحید کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں بلکہ کسی نہ کسی درجہ میں ہر مذہب والے مجبوراً توحید کا اقرار کرتے ہیں۔

لیکن آگے چل کر اس میں ایسا تصرف اور ایسی تحریف کی گئی ہے کہ حقیقت ہی بدستور ہوتی ہے چنانچہ نصاریٰ ایک طرف تو زبان سے توحید کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف الوہیت مسیح کے قائل ہیں اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ توریث اور انجیل میں کسی جگہ لفظ تثلیث موجود نہیں اور نہ حضرت عیسیٰ یا کسی حواری نے یہ تعلیم دی کہ تثلیث کا عقیدہ رکھو اگر بایں ہمہ نصاریٰ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جوہر واحد کے تین اقنوم (حصہ اور جز) ہیں اسب رباب، ابن ربیثا، روح القدس یعنی جبریل امین اور یہ نہیں بلکہ ایک خدا ہوا اور بعض عیسائی بجاتے روح القدس کے حضرت مریم کو تیسرا اقنوم قرار دیتے ہیں اور ان کو خدا کی والدہ کے نام سے پکارتے ہیں اور یہ دعوائے گتے ہیں کہ اسے ہمارے خدا کی والدہ ہم پر رحم کر اور ہمیں رزق دے غرض یہ کہ نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ جوہر واحد کے تین اقنوم ہیں ایک تین ہیں ہے اور تین ایک ہیں ہے اور وہ اس کو توحید فی الثنویت اور تثلیث فی التوحید کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ایسی بھری بھریاں ہے کہ جس کا نہیں خود بھی پتہ نہیں۔

نصاری کو خود اس کا اعتراف ہے کہ اس عقیدہ کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں اور نہ توریث اور انجیل کی کوئی صریح شہادت ہے کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم خدا کے تین اقنوم مانو اور تثلیث کا عقیدہ رکھو حالانکہ مذہب نصاریٰ میں عقیدہ تثلیث بنیادی عقیدہ ہے اور اصل ایمان اور ملذمات ہے یہ عقیدہ نہ حضرت مسیح سے منقول ہے اور نہ کسی حواری سے اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید حقیقی ہے جو بے شمار عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے اور نصرانیت کا بنیادی عقیدہ تثلیث ہے جس پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ

نقلی اور اس درجہ گول مول ہے کہ بڑے بڑے پادری اس کے مقررین کہ ہم اس تثلیث کے کچھنے اور سمجھانے سے قاصر اور عاجز ہیں یہ ایسا سائل ہے کہ نہ عاقل کے عقل میں آسکتا ہے اور نہ وحشی اور غافل کے حلق کے نیچے آتا جاسکتا ہے دنیا میں عیسائی مشن کا جال بچھا ہوا ہے اور لوگ عیسائی بن رہے ہیں سو اس کی وجہ یہ نہیں کہ عیسائی مذہب کوئی عقلی اور فطری مذہب ہے اور عقل اور فطرت کے مطابق ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت و ثروت کی فراوانی کی وجہ سے دن اور رات کا جال بچھا ہوا ہے اس لئے شہوت پرست اس جال میں پھنس رہے ہیں اور زن و زنا ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے جس شہوت پرست کو چاہو جال میں پھنسا لو اور جس چیز کی الوہیت اور اہمیت کا اس سے اقرار کرنا چاہو اقرار کر لو۔

اَقْرَأْ آيَاتِ هٰذَا الَّذِي اَنْشَأَ الْاِنْسَانَ

بجلا تو نے اس شخص کو دیکھا بھی ہے جس نے خواہش

ہو اے۔

جدھر نفسانی خواہش اسے لے جاتی ہے ادھر دوڑا چلا جا رہا ہے اور جہاں اسے رکوع و سجود کے لئے اشارہ کرتی ہے وہاں رکوع اور سجدہ میں چلا جاتا ہے اسے حق اور باطل سے کوئی بحث نہیں نفسانی خواہش نے اس کو اندھا اور بہرا بنا رکھا ہے۔

زن اور زنا کا لالچ دے کر جس چیز کی دعوت دی جائے وہ تبلیغ نہیں بلکہ وہ اغواء ہے۔ تبلیغ وہ ہے کہ بدلائل اور بڑھین کے ذریعہ سے جو۔ دلیل و برہان کی قوت اور طاقت سواتے مذہب اسلام کے کسی مذہب کے پاس نہیں۔

عیسائیت میں بہت سے فرقے ہیں زیادہ مشہور چار فرقے ہیں۔ یعقوبیہ۔ اور ملکانیہ اور نسطوریہ اور مرتوسیہ ان میں سے فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ۔ مسیح کو عین خدا کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات عینی میں حلول کیا ہے اور اس کی ساتھ متحد ہو گیا ہے اور فرقہ نسطوریہ اور مرتوسیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا تین اقنوم سے مرکب ہے یعنی اس کے تین جزی ہیں۔ باپ۔ بیٹا روح القدس ان میں سے ہر ایک خدا ہے اور ان تینوں کا مجموعہ مل کر ایک

خدا ہے۔

اور بعض نصاریٰ تثلیث کے تو قائل تھے مگر بجائے روح القدس کے حضرت مریم کو تثلیث میں داخل کرتے تھے عقیدہ تثلیث کا بانی پولوس ہوا جس نے نصاریٰ میں یہ عقیدہ پھیلا دیا۔

نصاریٰ میں جب عقیدہ تثلیث شائع ہوا تو آریوس وغیرہ نے بڑے زور سے اس عقیدہ کی تردید کی آریوس اسکندریہ کا ایک بڑا نامی شخص تھا وہ علی الاعلان حضرت مسیح کی الوہیت سے انکار کرتا تھا آریوس نہ حلول کا قائل تھا نہ اتحاد کا اور نہ تثلیث کا آریوس یہ کہتا تھا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مخلوق ہیں مگر افضل المخلوقات ہیں بیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندہ اور رسول تھے اور اپنے زمانہ میں افضل الخلائق تھے آریوس کا بھی یہی عقیدہ تھا آریوس کا یہ عقیدہ جب لوگوں میں شائع ہوا تو اہل تثلیث کو فکدہ مانگیر ہوئی اور شہر نائیس میں قسطنطین شاہ روم کے سامنے مجلس مناظرہ منعقد کی آریوس نے اپنے عقیدہ توحید کی شرح اور تفصیل کی۔ مناظرہ نے طول پکڑا بالآخر مجلس کی اکثریت سے مسئلہ تثلیث طے ہوا۔ اور شاہ قسطنطین نے عقیدہ تثلیث کی حمایت کی اور حکم جاری کیا کہ جو شخص تثلیث سے انکار کرے گا اس کا مال ضبط کیا جائے گا اور اس شخص کو جلا وطن کر دیا جائے گا تب اکثر لوگوں نے بادشاہ کے خوف سے تثلیث کو قبول کیا اور علماء نصاریٰ نے بادشاہ کے خوف سے عقیدہ تثلیث پر دستخط کر دیئے اس وقت سے تثلیث کا سلسلہ چلا اور اس عقیدہ تثلیث پر جو متفقہ تحریر تیار کی گئی اس کا نام امانت رکھا گیا۔ اس امانت کی خیانت کو علامہ آلوسی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو روح المعانی ص ۲۳ ج ۶ پارہ ۸ ششم تحت تفسیر ولا تقولوا ثلاثہ۔ والجواب الفیج لما لفقہ عبد المسیح از ص ۱۶ ج ۱ تا ص ۲۱ و نوید جاوید ص ۳۵۵ مصنفہ مولانا سید ابوالمنصور۔

یونی ٹیرین فرقہ کے لوگ بھی الوہیت کو صرف خدا کے لئے مانتے تھے اور حضرت مسیح

کو صرف انسان اور الہام یافتہ کہتے تھے لیکن اب عام طور پر نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ تین ہیں ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک روح القدس پھر یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں اور جو نصاریٰ آریوس کی طرح توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ قلیل ہیں۔ جو نصاریٰ۔ الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح اور تثلیث کے قائل ہیں۔ اہل اسلام کے ساتھ ان کا نزاع ان دو مسئلوں سے شروع ہوتا ہے۔

اول مسئلہ توحید باری تعالیٰ۔ دوسرا مسئلہ اثبات رسالت محمدیہ علی صاحبہما الف الف صلاة والفقہ الفتحیہ اور نصاریٰ کا جو فرقہ۔ توحید باری تعالیٰ کا قائل ہے اور الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح اور تثلیث کا قائل نہیں بلکہ حضرت مسیح کو خدا کا برگزیدہ بندہ اور رسول مانتا ہے تو اہل اسلام کا نزاع اس فرقہ سے مسئلہ توحید میں نہیں بلکہ رسالت میں ہے اس فرقہ سے اگر گفتگو کی جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ تم حضرت عیسیٰ کو کس دلیل سے نبی اور رسول مانتے ہو جو دلیل بھی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی بیان کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دلائل نبوت اور براہین رسالت سب سے بڑھ کر نکلیں گے۔ اس طرح آپ کی نبوت و رسالت بسہولت ثابت ہو جائیں گی۔

زیر نظر رسالہ نصاریٰ کے ان فرقوں کے رد میں ہے کہ جو الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح اور حلول اور اتحاد اور تثلیث حقیقی کے قائل ہیں۔

نصاریٰ کا یہ عقیدہ تثلیث اگرچہ بدیہی البطلان ہے لیکن عام لوگوں کی ہدایت اور بصیرت کے لئے ایک مختصر تحریر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں جس میں تثلیث کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے باطل کیا گیا ہے اللہ محمد کو اور میری اولاد کو اور احباب کو اور تمام اہل اسلام کو اس نام پر استقامت نصیب فرمائے اور نصاریٰ کو ہدایت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اور اس رسالہ کا نام احسن الحدیث فی ابطال التثلیث تجویز کرتا ہوں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَرَعِظْنَا بَعْدَ إِذْ

فصل اول

مشتمل بر خلاف عقل بودن توحید فی التثلیث و تثلیث فی التوحید

نصارعی جس طرح اس کے قائل ہیں کہ خدا حقیقتاً تین ہیں۔ اب اور ابن اور روح القدس اسی طرح اس کے بھی قائل ہیں کہ تینوں حقیقت ہیں ایک ہیں اور ان تینوں کو اقانیم ثلثہ کہتے ہیں۔ توحید بھی حقیقی مانتے ہیں اور تثلیث بھی حقیقی مانتے ہیں۔ حقیقت کی رو سے خدا کو ایک بھی کہتے ہیں اور حقیقت ہی کی رو سے خدا کو تین بھی کہتے ہیں۔ لیکن اہل عقل خوب جانتے ہیں کہ ایک اور تین کا حقیقتاً ایک ہونا دن کے رات اور رات کے دن ہونے سے زائد محال ہے بلکہ ایسا ناممکن اور محال ہے کہ کسی عاقل کو اس کے محال ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا کسی مذہب کے بطلان کے لئے یہ کافی نہیں کہ اس کا بنیادی عقیدہ ہی تمام اہل عقل کے نزدیک محال اور باطل ہو۔

نخست اول چوں نہد معمار کج تاثریامی رود دیوار کج

را حیرت تو یہ ہے کہ ایک اور چار کا ایک اور پانچ کا ایک اور چھ کا ال غیر ذلک حقیقتاً ایک ہونا نصاریٰ کے نزدیک بھی محال ہے۔ ایک عدد دوسرے عدد سے بالکل مغایر ہے مگر نہ معلوم ایک اور تین میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ دونوں عدد تو باہم متحد ہو جائیں اور اس کے سوا کوئی عدد بھی دوسرے عدد کے ساتھ متحد نہ ہو سکے۔ نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ توحید و تثلیث کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے مگر توحید۔ تزیع اور تخفیس و تسدسین وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی یہ خاصہ صرف تثلیث کا ہے کہ توحید اس کی ساتھ جمع ہو سکتی ہے کسی اور عدد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی عیسائیوں کی یہ ایک مجذوبانہ بڑھے جس پر کوئی دلیل نہیں اور اگر ہے تو

لائیں اور تینوں اور دکھلائیں۔

(۲) علاوہ ازیں ایک تین کے لئے مجزبے اور تین ایک کے لئے کل ہے اور جزرہ کا کل ہونا اور کل کا جزرہ ہونا ایسا بدیہی محال ہے کہ جس میں کسی قسم کا بھی تردد نہیں ہو سکتا۔

رس نیز واحد بسیط ہے تین کی طرح چند اتحاد (اکائیوں) سے مرکب نہیں پس مرکب اور غیر مرکب کا کیسے اتحاد ہو سکتا ہے۔

(۳) نیز ایک تین کا ثلث یعنی تثنائی ہے پس اگر ایک اور تین متحد ہوں تو اس اتحاد کی وجہ سے جس طرح ایک تین کا ثلث ہے اسی طرح ایک اپنا بھی ثلث اور تثنائی ہوگا اور کسی شے کا اپنا ثلث ہونا ایسا ظاہر البطلان ہے جس سے غالباً بچے بھی بے خبر نہ ہوں گے۔

(۵) نیز جب جزرہ اور کل متحد ہوتے تو جس طرح کل قابل تقسیم ہے اسی طرح جزرہ بھی قابل تقسیم ہوگا۔ اور اس تقسیم کے بعد جو اجزاء پیدا ہوں گے اس اتحاد کی وجہ سے وہ بھی قابل تقسیم ہوں گے۔ غرض یہ کہ اسی طرح ایک سلسلہ چلے گا اور واجب الوجود کا غیر متناہی اجزاء سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔

(۶) نیز جب ایک اور تین متحد ہوتے اور ایک تین سے جزرہ ہونے کی وجہ سے مقدم ہے اور تین کل ہونے کی وجہ سے مؤخر ہے۔ سو جب ایک اور تین متحد ہوں گے تو مقدم کا مؤخر اور مؤخر کا مقدم ہونا لازم آئے گا بلکہ شے کا خود اپنے سے مقدم ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ عقلاً محال ہے۔

(۷) نیز جب اتانیم ثلاثہ میں سے ہر ایک اقنوم ایک مستقل اور علیحدہ ذات ہے اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا اور مخصوص نام ہے جو دوسرے پر نہیں بولا جاتا تو پھر یہ کہاں باقی رہی تین علیحدہ علیحدہ اور مستقل خدا ماننا تو حید کی صریح نقیض ہے اور تعدد و تجاؤد اور تعدد قدامت کا اقرار اور اعتراف ہے۔

(۸) نیز اقنوم ابن محدود ہے اور اقنوم اب غیر محدود ہے اور نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ اقنوم ابن - اقنوم اب کے ساتھ متحد ہے اور تمام عقلا اس کے قائل ہیں کہ محدود کا غیر

محدود کے ساتھ متحد ہونا عقلاً محال ہے۔

(۹) نیز نصاریٰ کے نزدیک تثلیث بھی حقیقی ہے اور توحید بھی حقیقی ہے اور ظاہر ہے کہ توحید حقیقی حقیقی وحدت کو مقتضی ہے اور تثلیث حقیقی حقیقی کثرت کو مقتضی ہے اور کثرت حقیقیہ اور وحدت حقیقیہ ایک دوسرے کی ضد ہیں پس نصاریٰ کا توحید اور تثلیث دونوں کو حقیقی ماننا اجتماع ضدین کا قائل ہونا ہے جو باجماع عقلاً باطل ہے پس جو تثلیث کا قائل ہے وہ کسی طرح موحد نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) بقول نصاریٰ اگر ذات باری تعالیٰ میں تین اقانیم پائے جائیں کہ جو ایک دوسرے سے بالکل جدا اور ممتاز ہوں تو لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ کے لئے کوئی حقیقت واقعہ نہ ہو اس لئے کہ چند اجزاء سے مل کر حقیقت واقعہ جب بنتی ہے کہ جب اجزاء میں باہم علاقہ افتقار اور ارتباط کا ہو اگر دو یا تین پتھروں کو پاس پاس ملا کر رکھ دیا جائے تو ان تین پتھروں سے کوئی مرکب حقیقی نہ تیار ہوگا بلکہ وہ ایک محض مرکب اعتباری ہوگا پس اگر باری تعالیٰ تین اقانیم سے مرکب ہو کہ جن میں سے ہر ایک واجب الوجود ہو اور ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہو تو ان اجزاء واجبہ سے مل کر کوئی مرکب حقیقی نہ بنے گا بلکہ ایک مرکب اعتباری بنے گا۔

(۱۱) نیز مرکب ترکیب میں اجزاء کا محتاج ہونا لازم آئے گا جو عقلاً محال ہے۔

(۱۲) اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ نصاریٰ خدا کے تین جزو مانتے ہیں اور ہر جزو کو خدا ہی کہتے ہیں اور پھر ہر خدا کو پورا اور مکمل بھی مانتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جب خدائی میں سے ایک جزو کم ہو گیا تو خدائی نام تمام اور ناقص رہ گئی اور اگر یہ کہیں کہ اگرچہ ایک جزو کم ہو گیا مگر خدائی پھر بھی مکمل رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدائی کا یہ جزو فالتوا اور بے کار تھا سو یہ پہلے محال سے بھی برہو کر محال ہے کہ خدا ہی فالتوا اور بے کار ہو۔

۱۳-۱۲۔ نیز ترکیب سے پہلے تفریق ضروری ہے متفرقات کو جمع کر دینے کا نام ترکیب ہے۔ اور پھر یہ سب انجام عقلا کے نزدیک فنا اور تفریق ہے پس نصاریٰ کے مذہب پر واجب الوجود کی حقیقت سوائے جمع اور تفریق کے کیا نکلی۔

پادریوں کی طرف سے اقا نیم ثلاثہ کی تاویل اور اہل اسلام کی طرف سے اس کا جواب

اہل اسلام بحسب نصاریٰ سے یہ کہتے ہیں کہ تثلیث تو توحید کی مزیح نقیض ہے تو پھر توحید اور تثلیث کا قائل ہونا اجتماع نقیضین کا قائل ہونے سے تو اس کے جواب میں بعض پادری یہ کہتے ہیں کہ یہ تین اقا نیم مستقل ذوات اور اشخاص کا نام نہیں بلکہ یہ تین اقا نیم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جن سے مقسود اللہ کا وجود اور نطق اور حیات ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اقنوم علم (یعنی حضرت مسیح) اور اقنوم حیات (یعنی روح القدس) کو باری تعالیٰ سے وہ نسبت ہے کہ جو روشنی اور شعاع اور حرارت و تمازت کو آفتاب سے نسبت ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ توحید اور تثلیث میں فقط اجمال اور تفصیل کا فرق ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تعدد اعتباری ہے تعدد حقیقی نہیں لہذا اقا نیم ثلاثہ کے ماننے سے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا۔

جواب

یہ سب مزیح مغالطہ اور فریب اور کھلا ہوا مجادلہ اور مکاریہ ہے۔

اول

حضرت مسیح اور روح القدس کا علیحدہ علیحدہ ذات ہونا مشاہدہ سے معلوم ہے اور خود

نصاری کو اس کا اقرار اور اعتراف ہے کہ اقاہم ثلاثہ میں سے ہر اقنوم ایک جوہر مستقل ہے اور یہ بھی تسلیم ہے کہ اقنوم اب علت ہے اور اقنوم ابن معلول ہے پس باوجود اس تعدد شخصی اور جوہری کے یہ کہنا کہ اقاہم ثلاثہ محض اسماء و صفات خداوندی کا نام ہے صریح دروغ ہے اور تعدد شخصی مان لینے کے بعد اس کو تعدد اعتباری یا تعدد صفاتی کہنا بالکل غلط ہے۔

اور اقنوم ابن اور اقنوم حیات کو جو آفتاب کی روشنی اور حرارت سے تشبیہ دی ہے وہ بھی غلط ہے اس لئے کہ آفتاب کی روشنی اور گرمی سے اگر وہ نور اور حرارت مراد ہے کہ جو ذرات شمس اور قرص آفتاب کے ساتھ قائم ہے تو وہ آفتاب کی صفت ہے اور اسی کے ساتھ قائم ہے اس سے جدا اور علیحدہ نہیں۔

اور اگر روشنی اور گرمی سے وہ شعاعیں اور حرارت مراد ہے کہ جو آفتاب سے نکل کر زمین اور درود لیوار پر پڑتی ہیں تو یہ اعراض ہیں کہ جو آفتاب سے نکل کر زمین وغیرہ کے ساتھ قائم ہیں اور یہ اعراض اور آثار آفتاب کا عین ہیں۔ اور نہ آفتاب کے ساتھ قائم ہیں اور نہ آفتاب کی صفت ہیں اور نہ بنفسہ اور بذاتہ قائم ہیں بلکہ آفتاب کا اثر ہے جو آفتاب سے نکل کر دوسری چیز (یعنی درود لیوار) کے ساتھ قائم ہے اور شعاع اور حرارت جو ابہر نہیں بلکہ اعراض ہیں جو غیر شمس کے ساتھ قائم ہیں زمین کے ساتھ جو چیز قائم ہے وہ آفتاب کی صفت نہیں بلکہ صفت آفتاب کا ایک اثر ہے جو اس سے نکل کر زمین پر واقع ہوا ہے پس اقنوم ابن اور اقنوم حیات کو یہ کہنا کہ یہ آفتاب کے شعاعوں اور حرارت کے مشابہ ہیں بالکل غلط ہے اس لئے کہ شعاع اور حرارت کا وجود عرضی ہے جوہری نہیں اور اقنوم ابن اور اقنوم حیات کا وجود نصاریٰ کے نزدیک وجود جوہری ہے اور جب ان کا وجود جوہری ہو تو لازم آئے گا کہ صفت علم اور

صفات حیات خدا تعالیٰ سے جدا اور منفصل ہیں اور صفات خداوندی کا خدا تعالیٰ سے جدا ہونا یا اتفاق عقلا و بحال ہے اور پھر تین مستقل ذوات کو خدا ماننے کے بعد توحید کا دعویٰ کرنا اجتماع نقیضین کا قائل ہونا ہے۔

دوم

یہ کہ صفات خداوندی اور اسما الہی تو غیر محدود اور غیر محدودہ در غیر متناہی ہیں پس صفات خداوندی کو اقامت ثلاثہ میں منحصر کر دینا صریح نادانی ہے۔
وجود اور علم اور حیات کی طرح۔ قدرت اور ارادہ اور تسبیح اور بصر اور کلام اور تکوین و تخلیق وغیرہ وغیرہ یہ بھی باجماع عقلاء صفات خداوندی ہیں تو نصاریٰ ان صفات کو اقامت گیر نہیں کہتے تین کی کیا تخصیص ہے۔

سوم

یہ کہ صفات خداوندی ذات باری تعالیٰ کے لئے لازم ہیں اس کی اولاد نہیں اور نہ اس سے پیدا ہوئی ہیں اور نصاریٰ اثبات کے قائل ہیں کہ اقنوم ابن۔ اقنوم اب سے پیدا ہوا اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے تو اگر اقنوم ابن۔ نصاریٰ کے نزدیک کسی صفت خداوندی کا نام ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا صفت کو موصوف کا بیٹا کہنا اور موصوف کو صفت کا باپ کہنا عقلاً جائز ہے۔ موصوف اور صفت کے درمیان۔ علاقہ اتصاف کا ہوتا ہے نہ کہ ولادت کا۔ دنیا میں سوائے نصاریٰ کے موصوف اور صفت میں علاقہ تولد و تناسل کا کوئی عاقل قائل نہیں۔

علاوہ ازیں۔ نصاریٰ اقامت ثلاثہ کی تفسیر میں حیران اور سرگرداں ہیں اقنوم اب کے متعلق کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ ذات خداوندی مراد ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ وجود مراد ہے اور کبھی

یہ کہتے ہیں کہ جو دہ معنی کرم مراد ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ قائم بنفسہ اور قائم بذاتہ مراد ہے جس کو سریانی زبان میں کائن کہتے ہیں۔

اور اقنوم ابن سے کبھی کہتے ہیں کہ کلمہ مراد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ علم مراد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ حکمت مراد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ نطق مراد ہے۔

اور اقنوم ثالث سے کبھی کہتے ہیں کہ حیات مراد ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ قدرت مراد ہے غرض یہ کہ عجیب تخیر ہے۔

بہر حال اقنوم سے جو بھی مراد لو نصاریٰ کی توجیہ نہیں چلتی اقنوم ابن سے خواہ کلمہ مراد لو یا علم و حکمت مراد لو یا نطق مراد لو ان میں سے کوئی چیز بھی ذات اور وجود کا بیٹا نہیں کہلا سکتی نصاریٰ نے اقاہم ثلاثہ کی جو تفسیر کی ہے وہ نہ لغت سے ثابت ہے اور نہ انبیاء سابقین سے منقول ہے اور نہ حضرت مسیح اور حواریین سے مروی ہے اور نہ عقل سے ثابت ہے اور نہ کسی کتاب سماوی کے نقل سے ثابت ہے محض ان کی ایک خیالی پلاؤ ہے جس سے آج تک کسی مسیحی کو بھی شکم سیری حاصل نہیں ہوئی۔

(۴)

نیر لفظ ابن۔ کتب سماویہ میں۔ بمعنی صفت خداوندی کبھی بھی استعمال نہیں ہوا اور نہ کسی نبی نے خدا کی کسی صفت علم یا قدرت یا حیات وغیرہ کو خدا اور معبود اور الہ اور ابن اللہ نہیں کہا پس نصاریٰ کے نزدیک جب اقنوم ابن معنی علم و حکمت خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو اقنوم حیات یعنی روح القدس کیوں خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا اقنوم ابن اگر خدا کا پہلا بیٹا ہے تو اقنوم حیات خدا کا دوسرا بیٹا ہو جائے گا جب خدا کے لئے ایک بیٹا ہونا ممکن ہو گیا تو دوسرا بیٹا ہونا کس دلیل سے محال ہے اور جب اقنوم علم یا اقنوم کلمہ خدا کا مولود اور ابن ہو سکتا ہے تو اقنوم حیات کیوں خدا کا مولود اور ابن نہیں ہو سکتا۔

بلکہ

اس طرح تو خدا کی ہر صفت - خدا کا بیٹا اور معبود ہو سکتی ہے اور خدا کی بے شمار صفتیں ہیں تو اس حساب سے خدا کے بے شمار بیٹے ہو سکتے ہیں لہذا نصاریٰ نے جو صفت علم اور صفت کلمہ کو خدا اور ابن اللہ کہنے کے لئے مخصوص کیا اس تخصیص کی وجہ بتائیں۔

نیز تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ صفات کا وجود جوہری نہیں بلکہ وجود عرضی ہوتا ہے پس اگر نصاریٰ کے نزدیک صفت علم اور صفت حیات کا وجود جوہری اور قائم بنفسہ ہو سکتا ہے تو حق تعالیٰ کی باقی غیر محدود صفات کا وجود کیوں جوہری نہیں ہو سکتا۔

(۵)

نیز جو مولود ہوتا ہے وہ مخلوق اور حادث ہوتا ہے پس اگر اقنوم علم خدا کی صفت اور خدا کا بیٹا بھی ہے تو صفت خداوندی کا مخلوق ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ عقلاء کا اتفاق ہے کہ صفات خداوندی مخلوق نہیں ہوتیں۔

(۶)

نیز تمام نصاریٰ اس پر متفق ہیں کہ حضرت مسیح ایک مستقل ذات ہیں اور خدا تعالیٰ کے مساوی اور ہم رتبہ ہیں تو پھر اقنوم مسیح کو یہ کہنا کہ وہ محض ایک صفت کا نام ہے صریح بھوٹ ہے۔ صفت موصوف سے علیحدہ ہو کر موجود نہیں ہوتی۔ نصاریٰ یہ نہیں سمجھتے کہ صفت اپنے موصوف سے جدا جسم ہو کر چلا پھرا نہیں کرتی حالانکہ حضرت عیسیٰ کا چلنا اور پھرنا اور کھانا اور پینا اور پھانسی پانا نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے۔ صفات موصوف سے علیحدہ ہو کر موجود نہیں ہوتیں صفت تو موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔

۷ — ۸ — ۹ — ۱۰

نیز حضرت عیسیٰ کا مریم خدا کے شکم سے پیدا ہونا اور ان کا کھانا اور پینا اور پھرنا یہود کے ہر پادریوں ان کا صلیب پر لٹکایا جانا اور قبر میں دفن ہونا یہ تمام چیزیں نصاریٰ کے نزدیک

مسلم میں ہیں اگر اتنوم ابن نصاریٰ کے نزدیک محض ایک صفت خداوندی کا نام ہے تو یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ تم معاذ اللہ۔

(۷)

خدا تعالیٰ کی صفت ایک عورت کے شکم سے پیدا ہو سکتی ہے۔

(۸)

اور پھر وہ صفت مخلوق اور مزوق بھی ہو سکتی ہے۔

(۹)

اور پھر وہ صلیب پر بھی لٹک سکتی ہے۔

(۱۰)

اور پھر صلیب سے اتار کر قبر میں دفن بھی کی جا سکتی ہے۔

(۱۱)

نیز اتنوم علم اور اتنوم کلمہ کا رحم مادر میں قرار کیڑنا اور ایک عورت کا اس سے حاملہ ہونا لازم آئے گا جس کے ماننے کے لئے دنیا میں کوئی دیوانہ بھی نہ ملے گا مگر نصاریٰ ان سب محالات اور خرافات کے ماننے کے لئے دل و جان سے تیار ہیں

(۱۲)

تیز نصاریٰ کے نزدیک روح اللہ بمعنی حیات پیدائش عالم سے پہلے پانی پر حرکت کرتی تھی تو کیا نصاریٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفت بھی پانی پر حرکت کیا کرتی ہے۔

(۱۳)

تیز نصاریٰ کے نزدیک حق تعالیٰ اور حضرت مسیح ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں تو نصاریٰ یہ بتلائی کہ حضرت مسیح کے ساتھ ذات خداوندی متحد ہے یا کوئی صفت خداوندی اگر یہ کہیں کہ ذات خداوندی۔ حضرت مسیح کے ساتھ متحد ہے تو پھر حضرت مسیح کو باپ کہنا چاہتے نصاریٰ ان کو

خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں یا یوں کہیں کہ وہی باپ ہے اور وہی بیٹا ہے اولاً تیرا بالکل باطل اور مہمل ہے۔ اور ثانیاً یہ کہ باپ۔ یعنی حق تعالیٰ نصاریٰ کے نزدیک حضرت مریم سے مقدم ہیں تو حضرت مسیح اور حق تعالیٰ شانہ جب متحد ہوئے تو حضرت علیؑ بھی حضرت مریم پر مقدم ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بیٹے کا والدہ پر مقدم ہونا تمام عقلاء کے نزدیک باطل ہے۔

اور اگر نصاریٰ یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت مثلاً کلمہ یا علم و حکمت وغیرہ۔ حضرت مسیح کے ساتھ متحد ہے تو یہ بھی باطل ہے خدا تعالیٰ کی کسی صفت کا اس سے جدا ہونا اور پھر کسی مخلوق کے ساتھ اس کا متحد ہونا عقلاً محال ہے۔

(۱۴)

تیرا اگر نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح محض ایک صفت خداوندی ہیں تو پھر نصاریٰ ان کو خداوند کیسے کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے علم اور قدرت اور حیات وغیرہ وغیرہ کسی صفت کو خدا اور معبود اور مسجود نہیں کر سکتے۔ نیز جس طرح نقص صفت کو خدا اور معبود نہیں کر سکتے اسی طرح کسی صفت کو خالق کائنات بھی نہیں کر سکتے پس نصاریٰ ایک طرف تو اقنوم مسیح کو مقدم صفت بتلاتے ہیں اور دوسری طرف اس کو خالق کائنات اور رازق کائنات بھی مانتے ہیں کیا یہ جمع بین الضدین نہیں کیا نصاریٰ کے نزدیک صفت بھی خالق اور رازق ہو سکتی ہے۔

(۱۵)

نیز نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح واقعہ صلیب کے بعد تین دن قبر میں رہے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔

تو اگر نصاریٰ کے نزدیک اقنوم ابن محض ایک صفت کا نام ہے تو معاذ اللہ۔ کیا دشمنان خدا خدا تعالیٰ کی کسی صفت کو پیکر صلیب پر لٹکا سکتے ہیں اور معاذ اللہ کیا خدا کی صفت مر کر قبر میں دفن کی جا سکتی ہے اور معاذ اللہ کیا خدا کی کوئی صفت کبھی زندہ ہوتی ہے اور کبھی مردہ ہوتی ہے اور زندہ ہونے کے بعد۔ باپ کے دائیں جانب جا کر بیٹھ جاتی ہے معاذ اللہ وہ

صفت پہلے ہی سے بھاگ کر کیوں نہ باپ کے پاس جا بیٹھی تاکہ دشمنوں کے طمانچور سے اور ان کے ہٹوکنے اور کانٹوں سے محفوظ ہو جاتی۔

(۱۶)

بیزنٹینوں نے کبھی تو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور کبھی ان کو عین خدا کہتے ہیں اور کبھی خدا کے مساوی اور ہم مرتبہ کہتے ہیں اور کبھی ان کو خدا کی صفت قرار دیتے ہیں یہ عجیب تعارض اور تناقض ہے بیٹا باپ کے نہ برابر ہوتا ہے نہ اس کا عین ہوتا ہے باپ مقدم ہوتا ہے اور بیٹا موخر۔ اور مقدم اور موخر کا عین ہونا عقلاً محال ہے پھر یہ کہ جو چیز عین ہو گی وہ مساوی نہ ہوگی۔ مساوت۔ غیریت کو مقتضی ہے جو عینیت کی ضد ہے بیٹا بھی ماننا اور باپ کے ہم مرتبہ بھی ماننا اجتماع نقیضین کا قائل ہونا ہے اور نہ صفت موصوف کے برابر ہو سکتی ہے۔

(۱۷)

پھر عجائب میں سے ہے کہ نصاریٰ اقنوم کلمہ (عیسیٰ علیہ السلام) کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد مانتے ہیں مگر اقنوم حیات (روح القدس) کو حق تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں مانتے حالانکہ اقنوم حیات بھی ایک اقنوم صفت ہے نصاریٰ اس تریج ملا مرج کی وجہ تریج بتلایا

(۱۸)

نصاریٰ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اقنوم علم اور اقنوم حیات اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں۔ اور ایک طرف ان کو قائم بذاتہ اور مستقل ذات بھی مانتے ہیں۔

تو کیا نصاریٰ کے نزدیک صفات کا جوہری ہونا اور قائم بذاتہ ہونا عقلاً ممکن ہے۔ تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ صفات کا وجود جوہری نہیں ہوتا۔ صفت کہتے ہی اس کے

(۱۹) ہیں کہ جو موصوف کے ساتھ قائم ہو۔

بیزنٹینوں نے تمام انابتیں میں حضرت مسیح کی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا مذکور ہے پس اگر حضرت مسیح

عینِ خلد تھے تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور اگر مسیح بن مریم کوئی مستقل ذات نہ تھے بلکہ محض ایک صفت خداوندی تھے تو سوال یہ ہے کہ کیا صنات خداوندی بھی خدا سے موصوف کی عبادت کرتی ہیں۔

(۲۰)

یہ عقیدہ امانت جو شاہ قسطنطین کے سامنے اکابر علماء کے اتفاق سے طے ہوا اس میں خود تناقض ہے دیکھو۔ الجواب الصحیح ص ۲ ج ۲ جو توحید اور تثلیث دونوں پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے۔

اور تمام انبیاء کے تشریحات اور تعلیمات کے صریح خلاف ہے اس لئے کہ کتب سابقہ توحید کی تعلیم سے بہرہ نہیں۔

ایک عجیب حکایت

یوحیٰ انہ تنصرو (من العجوس) شرارۃ
اشخاص و تلمذوا علی بعض القسین و
عندہم العقائد الضروریۃ کا سیمما
عقیدۃ التثلیث کا نہ تھا اس آئین
عندہم و اساسہ و کونوا فی خدمتہ
و جانا و محب من احیاء هذا القیس؟
سارہ عن تنصوفنا شرارۃ اشخاص
تنصروا فتنازل هذا المحب هل تعدوا
شیئا من العقائد الضروریۃ فتال
نخره و ظنبا و احدا منہم نیری محبہ

حکایت ہے کہ مجوس میں کے تین آدمی نصرانی بنے اور کسی پادری کے شاگردی میں داخل ہوئے اس پادری نے ان تین اشخاص کو سبکی مذہب کے ضروری عقائد کی تعلیم دی خصوصاً عقیدہ تثلیث ان کو اچھی طرح سمجھایا اور بتلایا کہ چونکہ عقیدہ تثلیث ان کے مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے پتہ پتہ یہ تین آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس پادری کی خدمت میں رہ پڑے انھوں سے اس پادری کا کوئی دوست بغرض ملاقات آگیا دوست نے پادری سے پوچھا کہ کیا

اس مدت میں کوئی نصرانی بھی بنا ہے۔ پادری نے کہا ہاں تین آدمی نصرانی بنے ہیں اس دوست نے پوچھا کہ کیا ان اشخاص نے مسیحی مذہب کے کچھ ضروری عقائد بھی سیکھ کے لئے ہیں پادری نے کہا۔ ہاں اور ان تین میں سے ایک کو بلایا تاکہ دوست کو دکھلائے کہ یہ کیسا لائق ہو گیا جب وہ شخص حاضر ہو گیا تو پادری نے اس سے عقیدہ تثلیث کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ بیان کرو اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ خدا تین ہیں۔ ایک آسمان میں ہے اور دوسرا خدا مریم عذراء کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور تیسرا خدا (یعنی روح القدس) وہ ہے کہ جو کبوتر کے شکل میں دوسرے خدا (سیح بن مریم) پر نازل ہوا جبکہ دوسرا خدا بیٹس کا ہو گیا۔ یہ سن کر پادری کو غصہ آ گیا اور اس کو نکال دیا اور کہا یہ بالکل نادان اور احمق ہے بعد ازاں دوسرے شاگرد کو بلایا اور اس سے عقیدہ تثلیث کے متعلق سوال کیا اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ خدا تین تھے۔ جن میں سے ایک کو تو صلیب دے دی گئی اور وہ مر گیا اب صرف دو خدا باقی رہ گئے ہیں اس پر بھی پادری صاحب

سوال عن عقيدة التثليث لا نهاء
 رأس الدين فقال انك علمتوني ان
 الاله ثلاثة احد هم هو في السماء و
 الثاني تولد من بطن مريم العذراء
 عليهم السلام والثالث الذي نزل في
 صورة الحمام على الاله الثاني بعد ما
 صدار ابن ثلثين سنة فغضب القسيس
 وطرده وقال هذا الجاهل ثم طلب اخوه
 منهم وساله فقال انك علمتني ان الاله
 كانوا ثلاثة وصدب واحد منهم
 فالباقي الالهان فغضب عليه القسيس
 ايضا وطرده ثم طلب الثالث وكان
 ذكيا بالنسبة الى الاولين وحرصا
 في حفظ العقائد فساله فقال يا مولاي
 حفظت ما علمتني حفظا جيدا وفهمت
 فهمها كاملا بفضل الرب المسيح ان
 الواحد ثلاثة والثلاثة واحد
 وصدب واحد منهم فهات الكلي
 لاجل الاتحاد انتهى . كذا
 في كتاب الفاسق بين المخلوق
 والمخلوق ص ٢٩٥ و كذا في

از جنواب انفسیہ لہما لغفتہ عبد
نسیح ص ۵۳

نصہ آیا اور دھکم دسے کر اس کو نکال دیا
پھر تیسرے شاگرد کو بلایا یہ تیسرے بہ نسبت
پہلے دس کے کچھ سمجھا دیا تھا اور بڑا شوقین اور
مخفی تھا عقائد کو خوب یاد کرتا۔ پادری نے
اس سے کہا کہ تم عقیدہ تثلیث کو بیان کرو

اس تیسرے شاگرد نے کہا کہ آپ نے مجھ کو جو سکھایا ہے اس کو میں نے خداوندی
مسیح کی عنایت اور برکت سے خوب اچھی طرح سمجھ کر یاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک
تین ہیں اور تین ایک ہیں جن میں سے ایک صلیب دے دیا گیا
اور مر گیا پھر ایک کے مارے جانے سے تینوں خدا ایک ہیں اور باہم متحد ہیں لہذا
ایک کا مرنا سب کا مرنا ہے ورنہ پھر باہم اتحاد نہ رہے گا۔ (حکایت ختم ہوئی)

بلکہ

یہ کہو کہ صلیب کی وجہ سے نصاریٰ کا تعلق بھی معدوم اور فنا ہو گیا اور ان کا نبی اور رسول
بھی معدوم اور فنا ہو گیا کیونکہ نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح خدا بھی ہیں اور رسول بھی تو حضرت
مسیح کے موت سے نصاریٰ کے پاس نہ تو خدا ہی رہا اور نہ رسول ہی رہا اور نہ روح القدس اس
لئے کہ حضرت مسیح کی موت سے روح القدس بھی مر گئے اتحاد کی وجہ سے جب ایک خدا تو
تینوں خدا مر گئے اب نصاریٰ کا کوئی خدا باقی نہیں رہا اور نہ کوئی رسول اور نہ روح القدس۔

بلکہ

توحید و تثلیث بھی نہ رہی اس لئے کہ معاذ اللہ جب خدا ہی نہ رہا تو پھر توحید اور تثلیث
خود بخود نہ رہے گی کیونکہ توحید و تثلیث کے مسئلہ کا تعلق تو خدا تعالیٰ سے ہے اور جب خدا ہی نہ
رہا تو توحید و تثلیث کا مسئلہ بھی ختم ہوا۔

معاذ اللہ معاذ اللہ کیا خدا تعالیٰ مجسم ہو سکتا ہے

اسلام کا عقیدہ

اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عز و الجلال بے مثال اور بے چون و چگون ہے تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے جسمیت اور ولادت اور صورت اور شکل اور زمان اور مکان اور حد جہت سے پاک اور منزہ ہے تمام کائنات کا وہی مبداء ہے اور وہی منتہا ہے جو الاولیٰ والاخر والظاہر والباطن وہی لامیت ہے اس کی عظمت اور جلال کی کوئی حد اور نہایت نہیں اور اس کے سوا ہر چیز فانی ہے اور ایک حد رکھتی ہے کہ اس حد سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔

ہر چہ اندیشی پذیر اسے فناست وآنکہ در اندیشہ ناید آن خدا است

نصاری کا عقیدہ

نصاری کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے تین اقنوم (حجم) ہیں ایک باپ، دوسرا بیٹا، تیسرا روح القدس اور ان میں ہر ایک خدا ہے اور تینوں کا مجموعہ مل کر ایک خدا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مریم کے پیٹ میں جسم پکڑا اور بندہ دل کی ابدی نجات کے لئے اپنے اختیار سے مقتول اور معلوب ہوا اور ملعون ہو کر نین دن و نرغ میں رہا اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا اور باپ کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گیا اور قیامت کے قریب پھر آسمان سے اتارے گا تاکہ بندوں کو جزا دے اور مزادے مسیحی۔ یسوع کو محض خدا نہیں کہتے بلکہ خدائے مجسم کہتے ہیں یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ مسرت سے لے کر پیر تک غلط ہے۔

نصاری نے نہ تو شرک میں کوئی گسر چھوڑی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تہلیل

وتوہین میں کوئی دقیقہ اٹھا رکھا۔

نصارئ نے حضرت عیسیٰ کو خدا ٹھہرایا تو ایسا عاجز خدا ٹھہرایا کہ جس نے بندوں کے ہاتھ سے طمانچے کھاتے اور مقتول اور مصلوب ہوا اور اتنی بھی قدرت نہ ہوئی کہ خدا۔ اپنے بندوں سے نکل کر کہیں بھاگ ہی جاتے اور جس کو خدا کا نبی اور رسول بتایا اس کو ملعون اور دوزخی بھی قرار دیا۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اگر نبی بھی ملعون اور دوزخی ہو سکتا ہے تو پھر نبی اور اس کے کافر میں کیا فرق رہا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ تھے کہ جو بغیر باپ کے مریم صدیقہ کے شکم سے پیدا ہوئے اور اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دی اور جب یہودیوں نے سودان کی دشمنی پر تل گئے اور ان کو پکڑنے کے لئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندہ کو آسمان پر اٹھالائیں اور حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہی دشمنوں میں سے ایک شخص کو حضرت مسیح کا ہمشکل بنا دیا یہودیوں نے حضرت مسیح کو قتل کر ڈالا اور حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھلے گئے اور قیامت کے قریب مسیح دجال کے قتل کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے۔

یہ مضمون قرآن کریم کی آیات صریحہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے جس پر علماء اسلام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور اس ناچیز نے بھی کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ اور القول المحکم فی نزول عیسیٰ بن مریم اور لطائف الحكم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم یہ تین کتابیں لکھی ہیں جو چھپ گئی ہیں۔ ان کو دیکھ لیا جائے نصاریٰ انصاف سے بتلائیں کہ اہل اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و تکریم میں کیا کمی کی اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذلیل اور تحقیر میں کیا کسر باقی چھوڑی۔

لے :- اسی مجموعہ میں یہ کتابیں شامل ہیں۔

عقیدہ تجسیم کے بطلان کے دلائل

اب اس تمسید کے بدہم تصاریفی کے اس عقیدہ تجسیم کے بطلان کے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو خوب واضح ہو جائے کہ تصاریفی کا یہ عقیدہ خدا تعالیٰ سے مریم کے پیٹ میں جسم بکڑا اور کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر بندوں کی ابدی نجات کے لئے مقتول اور مصلوب ہوا اور ملعون ہو کر تین دن تک قبر میں رہا الخ کہ یہ عقیدہ کس درجہ مہمل اور باطل ہے۔ یہ ناپجیر اہل اسلام۔ اور تصاریفی سب سے درخواست کرتا ہے کہ توجہ اور التفات کے ساتھ ان دلائل کو سنیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ دلائل اور براہین۔ اہل اسلام کے لئے موجب بصیرت ہوں گے اور تصاریفی کے لئے باعث ہدایت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

(۱)

تصاریفی۔ حضرت عیسیٰ کے بارہ میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجسم ہو کر شکم مریم سے نمودار ہوا ہندو لوگ بھی رام چنڈ اور کرشن اور اپنے اوتاروں کی نسبت بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مختلف عورتوں کے پیٹ سے ان اوتاروں کی صورت میں مجسم ہو کر نمودار ہوا۔

عیسائی لوگ بتلائیں کہ ان کے اس عقیدہ میں اور ہندوؤں کے اس عقیدہ میں کیا فرق ہے کہ تم تو خدا کو مولود اور مجسم مان کر موصد کلاؤ۔ اور ہندو۔ خدا کو مولود اور مجسم مان کر مشرک اور بت پرست کلاؤ۔

(۲)

معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کیا عقلاً یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کسی عورت کے رحم اور شکم میں مجسم ہو جائے اور پھر اس کی شرمگاہ سے اس کی ولادت ہو سبباً وَتَوَالِي عَمَّا يَصِفُونَ۔

(۳)

نیز جو مولود ہوگا وہ والد اور والدہ کی فرج ہوگا اور ولادت میں ان کا محتاج ہوگا اور ظاہر ہے کہ جو فرج ہوگا وہ اصل کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا پس ثابت ہوا کہ کوئی مولود خدا اور معبود نہیں ہو سکتا۔

نیز مولود - والد کا جنم ہوتا ہے جو والد کے اس جنم سے پیدا ہوتا ہے کہ جو والد کے جسم سے بطریق شہوت جدا ہو کر رحم مادر میں مستقر ہوا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالکلیہ پاک اور منزہ ہے۔

معلوم نصاریٰ کے عقل پر کیا پردہ پڑا۔ کہ خدا تعالیٰ کو شکم مریم سے مولود مانا اور پھر اس کو خدا اور معبود بنایا نیز جو مولود ہوگا وہ جسم بھی ہوگا اور جسمیت الوہیت کے منافی ہے اس لئے کہ جسم وہ ہے جو اجزاء سے مرکب ہو اور جسم کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کیلئے کوئی حد اور نہایت ہو اور اس کے لئے کوئی مکان اور زمان اور جہت ہو۔

اور اللہ تعالیٰ ان سب امور سے پاک اور منزہ ہے نہ وہ مرکب ہے کہ جو ترکیب میں اپنے اجزاء کا محتاج ہو اور نہ اس کے لئے کوئی حد اور نہایت ہے مکان اور زمان اور جہت سب اسی کی مخلوق ہیں وہ سب سے بالا اور برتر ہے اور وہی تمام کائنات اور ممکنات کو محیط ہے۔

یہ ناممکن اور محال ہے کہ کسی عورت کا شکم یا رحم خدا کو اپنے احاطہ میں لے سکے سبحانہ و تعالیٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔

(۴)

عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹا باپ سے متولد ہوا اور ان دونوں سے روح القدس متولد ہوئے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح تو خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور روح القدس خدا کے پوتے ہیں بیٹے کا بیٹا پوتا ہی تو ہوتا ہے۔

(۵)

نیز نصاریٰ کے نزدیک جب خدا تعالیٰ باپ ہوا اور مسیح خدا کے بیٹے ہوئے۔
اور حضرت مریم ان کی والدہ ہوئیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت مریم معاذ اللہ
خدا تعالیٰ کی زوجہ ہوئیں کیونکہ بیٹے کی ماں باپ کی زوجہ ہی تو ہوتی ہے اسی بنا پر یہ حق
تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

تَبْدِئُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَىٰ يَكُونُ لَكَ
وَدَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَقَّقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ عِزًّا عَبْدُكَ وَكَأَنَّ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ وَكَلِيمٌ۔

وہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے
اس کے اولاد اور فرزند کہاں اور نہ اس کی کوئی
بیوی ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی
ہر چیز کو جاننے والا ہے جس ذات کی یہ شان
ہے وہی تمہارا خدا اور معبود اور پروردگار ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا خالق

ہے پس اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا کارساز اور نگہبان ہے۔

نصاریٰ تے حیار ہی۔ جب حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور مریم صدیقہ ان کی والدہ
ہیں تو گویا کہ نصاریٰ درپردہ حضرت مریم کو خدا بیوی قرار دے کر زن و شوئی کے تعلقات کے
قائل ہونا چاہتے ہیں امید تو یہی ہے کہ نصاریٰ اس کی جسارت نہ کریں گے۔ تو پھر چاہیے کہ
نصاریٰ عقیدہٴ ابنیت سے توبہ کریں تاکہ اس ایہام سے بھی محفوظ ہو جائیں۔

(۶)

نیز حضرت عیسیٰ کا وہ جسم جو شکم مریم سے پیدا ہوا وہ اسی جنس کا جسم تھا جو تمام بنی آدم
کا ہوتا ہے پس اگر اس جسم میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول جائے تو جسم فرعون اور جسم نمرود
میں خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول کس دلیل سے محال ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کسی بشر اور کسی رحم
کے ساتھ مخصوص نہیں۔

اخیر زمانہ میں دجال نفا ہر ہوگا اور الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور حضرت عیسیٰ اس کے قتل کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ نصاریٰ بتلائیں کہ اس کے کاذب اور دجال ہونے کی کیا دلیل ہے اس کے جسم میں بھی نصاریٰ کے طریق پر خدا تعالیٰ کا حلول اور نزول جائز ہے اور دجال بھی حضرت مسیح کی طرح مردوں کو زندہ کرے گا نصاریٰ بتلائیں کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ مسیح بن مریم کی الوہیت تو حق ہے اور مسیح دجال کی الوہیت باطل ہے پس اگر عیاذ باللہ حضرت مسیح بن مریم خود ہی الوہیت تھے تو دوسرے مدعی الوہیت کے قتل کے لئے کیوں آسمان سے نازل ہوں گے۔

اور سامری اگر اپنے گوسالہ کے متعلق یہ کہے کہ *هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مَوْتِنِي* تو نصاریٰ کے نزدیک سامری کے اس دعوے کے باطل ہونے کی کیا دلیل ہے۔

اور ہندو لوگ جو اپنے اوتاروں کو خدا مانتے ہیں اور گائے اور بکھڑے کی پوجا کرتے ہیں تو نصاریٰ ان کو کس دلیل سے کافر اور مشرک بتلاتے ہیں۔

نصاریٰ حضرت مسیح کی الوہیت کی جو تاویل کریں گے وہی تاویل ہندو اپنے اوتاروں کے متعلق اور دجال کے پیرو دجال کے بارہا میں کر لیں گے نصاریٰ اپنی تاویل میں اور ان کی تاویل میں فرق بتلائیں۔

(۷)

نیز نصاریٰ کے نزدیک حق تعالیٰ جب کسی بشر کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے تو کسی فرشتہ کے ساتھ کیوں متحد نہیں ہو سکتا بشر جسمانی اور کثیف ہے اور فرشتہ نورانی اور لطیف ہے۔

(۸)

نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ باوجود ابن آدم ہونے کے جب لاہوت اور ناسوت سے مرکب ہو کر خدا اور معبود ہو سکتے ہیں تو کوئی اور ابن آدم بھی لاہوت اور ناسوت سے مرکب ہو کر کیوں خدا نہیں ہو سکتا۔

(۹)

جو ہر قدیم کا یا صفت قدیم کا ایک ممکن اور حادث ذات میں حلول عقلا محال ہے پس نصاریٰ کا یہ کہنا کہ کلمہ جسم مسح کے ساتھ مل کر خدا ہو گیا سراسر باطل اور غلط ہے۔

(۱۰)

اقنوم قدیم اور اقنوم حادث اور علیٰ ہذا لاہوت اور ناسوت باجماع عقلا۔ دو متباہین اور متضاد حقیقتیں ہیں اور جس طرح جو ہر قدیم اور جو ہر حادث کی ذات اور حقیقت میں کلی اختلاف اور بتابین ہے اسی طرح ان دونوں کی صفات میں بھی کلی بتابین ہے پس نصاریٰ نے بتلائیں کہ وہ باوجود بتابین حقائق اور باوجود اختلاف اوصاف کس طرح۔ لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کے قائل ہو گئے۔

(۱۱)

نصاریٰ کے نزدیک اگر خداوند قدوس مجسم ہو سکتا ہے تو نصاریٰ بتلائیں کہ کیا جو ہر مجرد گوشت، اور پوست اور خون بن سکتا ہے اور الوہیت منقلب بانسانیت ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی عاقل اس کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا البتہ ہندوستان کے ہندو۔ صلوان اور دھوتی پر شاداں سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خداوند قدوس۔ لگائے اور پچھڑے کے قالب میں بلکہ بندر کے قالب میں بھی آ سکتا ہے اور اس طرح الوہیت منقلب بحیوانیت ہو سکتی ہے الغرض سامریان مصر اور سامریان ہند اس عقیدہ میں نصاریٰ کے ہم نوا ہیں۔

(۱۲)

نیز تمام نصاریٰ کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ مریم عذرا کے بطن سے پیدا ہوئے شیر خوارگی کے زمانہ کے بعد وہ جوان ہوئے اور کھاتے پیتے تھے اور پریشاب و پاخانہ کرتے تھے اور سوتے تھے اور جب یہودیے بہود نے ان کو قتل اور

صلیب کے لئے پکڑنا چاہا تو حضرت مسیح بھاگتے تھے اور خدا تعالیٰ سے خلاصی اور ربائی کی دعا مانگتے تھے۔

معاذ اللہ کیا واجب الوجود بھی ان حاجات اور تغیرات کا محل بن سکتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عجبا للمسیح بین النصارى د الی ای والد تسبوه

تعجب ہے نصاریٰ سے کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں آخر کیسے باپ کی طرف انکو منسوب کرتے ہیں

اسلموا الی الیہود وقت لواء انہم بعد قتله صلیبوا

نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ یہود نے حضرت مسیح کو قتل کر کے صلیب پر چڑھایا۔

واذ کان ما یعقولون حفت وصحیحاً فاین کانوا ابود

اگر یہ بات صحیح ہے تو نصاریٰ بتلائیں کہ ایسی مصیبت کے وقت باپ کہاں تھا کہ جیسے بیٹے کی کوئی مدد نہ کی

حین خلقی ابنہ دھین الاعادی اتراکا ارھنوا ام اغضبوا

اور اپنے بیٹے کو دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا نیز نصاریٰ یہ بتلائیں کہ یہود کے اس فعل سے حضرت

مسیح راضی تھے یا ناراض۔

فلئن کان راضیاً باذ انہم فاحمدوہم لانہم عند ربوہ

پس اگر حضرت مسیح یہود کی اس ایذا رسانی اور تذلیل سے راضی تھے تو نصاریٰ کو چاہیے کہ یہود کے

ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے حضرت مسیح کے نشا کو پورا کیا۔

ولئن کان ساخطاً فانزکوہ واعبدوہم لانہم غلبوا

کذا فی الفارق بین المخلوق والخالق ص ۱۳۹

اور اگر حضرت مسیح یہود کے اس فعل سے ناراض تھے تو نصاریٰ کو چاہیے کہ حضرت

مسیح کو چھوڑ کر یہود کو اپنا معبود بنائیں اس لئے کہ یہود اپنے ارادہ میں حضرت مسیح پر غالب

آئے اور جو خدا پر بھی غالب آجاتے تو وہ خدا سے بھی بڑھ کر خدا ہوگا۔

فصل دوم

مشکل پر سہ اولہ ابطال تثلیث

دلیل اول :- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ
 الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ
 رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ هُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ
 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا
 النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ
 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
 ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا وَاحِدٌ
 فَلَئِمَّ لَمُؤْمِنًا لَمَّا يَقُولُونَ لَيْسَ مِنْ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 أَكَلَا يَعْتَوِبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ
 إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
 وَأَهُمْ صَدِيقَةٌ إِنْ كُنَّا لِلْكَفَرِ
 أَنْظَرْنَا لَيْسَ مِنْكُمْ نَبِيٌّ نَبِيٌّ
 الْكُفْرَ أَتَىٰ يَوْمَئِذٍ قُلُوبَهُمْ
 دُونَ اللَّهِ مَا لَكَ يَا مَلِكُ لَنْ نَقْرَأَ

خدا کی قسم کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ
 مسیح بن مریم خدا ہیں۔ حالانکہ مسیح یہ کہتے تھے
 کہ اسے نبی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرو
 جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ تحقیق جو
 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانے اس پر اللہ نے
 جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے
 اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں اور
 بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ
 تین ہیں کا تیسرا ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا
 کوئی معبود نہیں اگر یہ اپنے کفر سے باز نہ آئے
 تو ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا اللہ کی طرف
 کیوں نہیں رجوع کرتے اور خدا سے کیوں نہیں
 استغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت
 والا اور رحم والا ہے۔ مسیح بن مریم صرف اللہ
 کے ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے
 رسول گذر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقیہ
 ہیں اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

تَفَعَّاتٌ اللَّهُ هُوَ الشَّيْبِيُّمُ الْعَيْلِيُّمُ - خور کو کرو کہ ہم کس طرح سے دلائل بیان کرتے

(سورہ مائدہ پارہ ششم) ہیں اور وہ کہاں سیدھے راستے سے پہنچے جاتے

ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو کہ جو تمہارے کسی نفع اور مضر کا مالک نہیں اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں نصاریٰ کے ایمان باللہ کی کیفیت بیان فرمائی اور یہ بتلادیا کہ عقیدہ تملیث عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور خود حضرت مسیح کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور مختلف طریقوں سے عقیدہ تملیث کا بطلان ظاہر فرمایا۔

اول یہ کہ حضرت مسیح مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوئے جس کو ساری دنیا جانتی ہے اور ظاہر ہے کہ معاذ اللہ خدا عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیدائش۔ الوہیت کے بالکل منافی اور مباین ہے پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پہلے سے موجود نہ تھا بعد میں موجود ہوا اور ظاہر ہے کہ جو عدم کے بعد موجود ہوا وہ حادث ہے اور خدا تعالیٰ حادث نہیں ہوتا خدا کے لئے قدیم اور ازلی ہونا ضروری ہے۔

دوئم۔ یہ اگر حضرت مسیح معاذ اللہ خود خدا تھے تو بنی اسرائیل کو یہ کیوں کہتے تھے کہ اے بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ چنانچہ انجیل مرقس کے بارہویں باب کی اسیسویں آیت میں ہے یسوع نے اس کے جواب میں کہا کہ سب حکموں میں اول یہ ہے کہ اے اسرائیلی سن ہمارا خدا ایک ہی خدا وند ہے اور تو اپنے خدا سے ساری دل اور ساری جان اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھا انتہی مختصر یعنی خود حضرت مسیح خدا تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اپنے مرئوب ہونے کا اعتراف کرتے تھے پس تم ان کو کیسے خدا بناتے ہو۔

سوم یہ کہ وَفَا مِنْ رِزْقِهِ الْاِلٰهَ وَاحِدًا یعنی خدا تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جو تمام کائنات

کا بننا اور مشق ہوتا ہے۔

اسی پر تمام انبیاء اور عقلاء کا اتفاق ہے تو ریت اور انجیل باواز بلند اسکی شہادت دے رہی ہیں کہ خدا کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے اور ایک خدا کی عبت کی جائے اور ظاہر ہے کہ تثلیث تو حید کی صریح نقیض ہے۔ نتیضین کو حق سمجھنا اور دونوں نقیضوں پر ایمان لانا نصاریٰ ہی کو مبارک ہو۔

اگر عقیدہ تثلیث حق ہے اور مدار نجات ہے بغیر اس کے نجات نہیں ہو سکتی تو اس کی کیا وجہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح تک ہزاروں پیغمبر آئے مگر کسی ایک نے بھی صراحتہً تو کیا اشارہً بھی اس عقیدہ کی طرف متوجہ نہ کیا۔ شریعت موسویہ کو جو حضرت مسیح کے زمانہ تک کے تمام انبیاء کے لئے واجب الاطاعت رہی اس میں کیسے عقیدہ تثلیث کا نام و نشان نہیں حتیٰ کہ حضرت مسیح نے بھی کبھی اس عقیدہ کو صراحتہً نہ بیان فرمایا۔ علماء نصاریٰ کو خود اس کا اعتراف ہے کہ حضرت مسیح نے مسئلہ تثلیث کو رموز اور اشارات ہی میں بیان کیا۔ ایک مرتبہ بھی صراحتہً یہ نہ فرمایا کہ خدا تین اقنوم ہیں۔ ایک باپ اور ڈا ایک بیٹا اور ایک روح القدس اور تینوں ایک ہیں۔ غرض یہ کہ نہ تو حضرت مسیح نے اس مسئلہ کو سمجھایا اور نہ ان کے بعد آج تک روح القدس نے نازل ہو کر کسی کو سمجھایا۔ نبی اسرائیل کی بھینس یوں نبی بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو ہدایت دے۔ آمین۔

چہ چہ مارم ہر یہ کہ حضرت مسیح بھی خدا کے اور رسولوں کی طرح خدا کے رسول اور برگزیدہ بندے تھے
 انْ هُوَ الْاَحَدُ اَنْهَمُنَا اَقْلِيَّةً وَجَعَلْتَا
 فَكَلَّا كَيْبِي اِسْتَوَانِيْل .
 مسیح بن مریم صرف اللہ کے بندے ہیں جن پر مہلے اپنا فضل کیا اور نبی اسرائیل کے لئے ایک نمونہ بنایا۔

جس طرح کے خوارق اور معجزات حضرت مسیح سے ظاہر ہوئے اسی طرح کے معجزات دوسرے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی ظہور میں آئے۔ معجزات کا ظاہر ہونا الوہیت کی دلیل نہیں بلکہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔

اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت آدم اور ملائکہ کرام اس شان میں حضرت یسح سے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور اگر مردہ کو زندہ کرنا خدائی کی دلیل ہے تو حضرت الیاس اور حضرت الیسع کا مردوں کو زندہ کرنا کتاب السلاطین باب ۷ میں مذکور ہے۔ اور اگر آسمان پر اٹھایا جانا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت ایلیاء کا آسمان پر اٹھایا جانا دوسری کتاب السلاطین باب دوم میں مذکور ہے۔ اور فرشتے تو دن رات آسمان پر آتے اور جاتے ہیں۔ اگر محض آسمان پر جانا الوہیت کی دلیل ہے تو فرشتوں کو بھی خدائنا لینا چاہیے۔ وہ بھی آسمان پر آتے جاتے ہیں۔

چونچم وریہ کہ کلنا یا کلان الطعام۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

یعنی حضرت یسح کھانے اور پینے کے محتاج تھے اور خدائی اور حقیقاً کا جمع ہونا دن اور رات کے جمع ہونے سے ناممکن ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اسی کے محتاج ہوں وہ کسی کا محکوم نہ ہو اور سب اسی کے محکوم ہوں اس پر کسی کا زور نہ چلتا ہو اسی کا زور سب پر چلتا ہو۔

قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ الْفُقَرَاءُ

إِلَى اللَّهِ وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ۔ (سورہ فاطر)

وَاللَّهُ الْعَلِيمُ ذَاتُ الْفُقَرَاءِ۔ (سورہ محمد)

اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر طرح بے نیاز اور ہر حال میں محمود ہے۔ بشری مستغنی ہے اور تم محتاج ہو۔ غرض یہ کہ جس ذات کا یہ حال ہو کہ کھانا اور پینا، سونا اور چاگنا، بھوک اور پیاس، صحت اور مرض، موت اور حیات، گرمی اور سردی سب اس پر حکمران ہوں اور ان تمام حکومتوں کا اس پر دباؤ ہو۔ اور وہ ان سب کے ناز اور دیدہ کو سہتا ہو وہ کیا خدا ہو سکتا ہے۔ جو شخص غذا کا محتاج ہو گا وہ خدا کے وجود اور اس کے سلمان کا پہلے محتاج ہو گا۔

ایک دانہ حاصل کرنے کے لئے بغیر زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ہوا اور پانی اور گرمی اور سردی حتیٰ کہ بغیر کھاد یعنی نجاست کے کوئی چارہ نہیں۔

خلاصہ یہ کہ جو غذا کا محتاج ہوگا وہ حقیقت میں تمام عالم اور تمام موجودات کا محتاج ہو گا پس اگر معاذ اللہ خدا بھی کھانے کا محتاج ہو تو ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ خدا بھی اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہو۔ حالانکہ سب سے سنایا ہی تھا کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور سب خدا کے محتاج ہوتے ہیں مگر یہاں ماجرا برعکس نکلا کہ خدا ہی دوسروں کا محتاج اور دست نگر ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر خدا اور بندے میں کیا فرق رہا۔ بندہ کی طرح خدا بھی محتاج نکلا خدا کے لئے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس لئے کہ جتنی حکومت بڑھتی ہے اسی قدر بے نیازی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پس کیا اس احکم الحاکمین کے لئے ہر طرح سے استغناء اور بے نیازی ضرور نہ ہوگی تیسرے یہ کہ بشر غذا کا اس لئے محتاج ہے کہ اس کا وجود بغیر غذا کے تم نہیں سکتا اور وہ بغیر غذا کے موجود اور باقی نہیں رہ سکتا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ بشر کا وجود اصلی اور خاندانہ زاد نہیں ورنہ اپنا وجود تھامنے میں دوسروں کا دست نگر نہ ہوتا۔ جیسا کہ قرآن اور کواکب آفتاب کے دست نگر ہیں اس لئے کہ ان کا نور اصلی اور ذاتی نہیں بخلاف آفتاب کے کہ اس کا نور اصلی ہے۔ پس اگر خدا بھی غذا اور سامان غذا کا محتاج ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ خدا سے اپنا وجود آپ تم نہیں سکتا اور اپنے وجود میں غذا اور سامان غذا کا محتاج ہے۔ حیرت ہے کہ نور آفتاب باوجودیکہ عطاء الہی ہے پوری طرح اصلی نہیں پھر بھی وہ قرآن اور کواکب کے نور سے ہر طرح مستغنی اور بے نیاز ہے مگر خدا موجود اصلی ہو کر پھر بھی ادنیٰ ادنیٰ مخلوق کا اپنے وجود کے تھامنے میں محتاج ہے۔

سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا
 المحاصل خدائی اور احتیاج کا یکجا جمع ہونا صراحتاً باطل اور سراسر خلاف عقل ہے۔ قال
 اللہ عزوجل :- قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
 سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا
 اللہ اس سے بالکل پاک ہے وہ بالکل بے نیاز ہے
 سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے تمہارے پاس کوئی
 دلیل نہیں اللہ کے جانب غلط بات منسوب کرتے ہو۔
 فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا
 اتَّقُوا لَوْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اور اگر باوجود اس احتجاج کے حضرت مسیح کو معبود مان لیا جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ
حضرت نصاریٰ تو حضرت مسیح کو معبود مان کر خدا پرست کہلائیں اور ہندو سرپرست اور کھنڈیا جی کو
معبود مان کر مشرک اور بت پرست کہلائیں۔ علاوہ ازیں ایک ذات سر پاجیرو نیاز کو خدا ماننا
صرف خلافت عقل ہی نہیں بلکہ خلافت نقل یعنی تعلیم تورات کے بھی خلاف ہے۔

توراة سفر استثناء باب آیت اول

۱۔ اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تمہیں کوئی نشان یا معجزہ
دکھلاوے اور اس نشان یا معجزہ کے مطابق جو اس نے تمہیں دکھلایا۔ بات واقع ہو
اور تمہیں کچھ اؤہم غیر معبودوں کو جنہیں تم نے نہیں جانا پیروی کریں اور ان کی بندگی
کریں تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات پر کان مت دھریو۔
اور ساتویں آیت میں ہے۔

۲۔ اور وہ نبی اور خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے گا الخ۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مدعی الوہیت گو معجزے اور نشانات دکھلائے اور
سنت کے سبب مسیح بھی ہوں تب بھی وہ واجب القتل ہے پس اگر معاذ اللہ حضرت مسیح مدعی
الوہیت تھے تو پھر یہود کو ملزم ٹھہرانا صحیح نہ ہو گا۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنے زعم میں جو کچھ
حضرت مسیح کے ساتھ کیا وہ عین تورات کے مطابق کیا۔ نیز انجیل متی کے باب آیت میں جھوٹے
نبیوں اور مدعیین مسیحیت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ بڑے بڑے نشانات
دکھلائیں گے اور اس مسیح کا ذب یعنی دجال کا تذکرہ پولوس کے خط میں ہے۔ دیکھو پولوس کا درجہ
خط تھیلینیکیوں کے نام باب آیت ہشتم۔ اور اس دجال کی صفت اسی باب کی آیت چہارم
میں یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنے کو خدا اور معبود کہلاوے گا الخ۔ خلاصہ یہ کہ دجال اخیر زمانہ میں
ظاہر ہوگا اور اول نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر مدعی الوہیت ہوگا یہود اس کے ساتھ

ہوں گے اور اس کو مسیح کہیں گے۔ اس وقت حضرت مسیح بن مریم آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے اور اس مسیح کا ذب مدعی الوہیت کو قتل کریں گے پس اگر عیاذ ابا اللہ حضرت مسیح خود مدعی الوہیت تھے تو وہ دوسرے مدعی الوہیت کے قتل کے لئے کیوں آسمان سے نازل ہوں گے جس وجہ سے دجال واجب النقل ہے وہ وجہ نصاریٰ حاشا ثم حاشا جناب مسیح میں بتلاتے ہیں اور چونکہ کہ دجال ظاہر ہو کر الوہیت کا مدعی ہو گا اور طرح طرح کے کرشمے دکھائے گا۔ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور قیامت کے قریب حضرت مسیح آسمان سے نازل ہو کر اس کا مقابلہ فرمائیں گے اس لئے خداوند عالم نے حضرت مسیح کو اسیاد موتی کا معجزہ عطا فرمایا اور پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا۔

قَالَ رَبِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ
بِحَقِّي يَبْنَؤُا (سورہ مریم)
(حضرت مسیح نے فرمایا) تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں
اور اللہ نے مجھ کو کتاب (انجیل) دیا اور نبی بنا دیا
کہ خدا۔

ششم

یَا كُفَّارًا تَقْبَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
بِشْرِكٍ بِكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تُقْبَلُونَ (سورہ بقرہ)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پھوڑ کر ایسی شئی کی کیوں پرستش کرتے ہو جو تمہارے نفع اور ضرر کی مالک نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ خدا وہی ہو سکتا ہے کہ جو نفع اور ضرر کا مالک ہو اور بقول نصاریٰ حضرت مسیح نے جرج پہنچ کر صلیب پر جان دے دی۔ نہ اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ یہود کے ضرر کو اپنے سے ہٹا سکے نصاریٰ کے قول پر اگر واقعہ صلیب کو حق مان لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلا سے کہ معاذ اللہ تعالیٰ تو مغلوب ہوا اور بندے غالب آئے اَسَدُ غَنَمٍ لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَهًا سِوَا اللَّهِ

سَوَاءٌ لَّهُمْ سَوَاءٌ وَلَا كُفَّارًا تَقْبَلُونَ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ

ماہم : لفظ میں کفر اللہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے کتر تھے اور خدا کی برابر نہ تھے۔ اور جو کتر ہوگا

وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا کے لئے عقلاً ضروری ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہو۔
اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام خدا
تعالیٰ کے مقرب بندے اور نبی اور رسول تھے جو ان کی شان رفیع کی تنقیص کرے وہ بھی
کافر اور جو ان کو شریک الوہیت قرار دے کہ خداوند ذوالجلال کی تنقیص کرے اور خدا سے
قدوس کی شان توحید و تفرید پر داغ لگانے کا ارادہ کرے وہ بھی کافر ہے کسی نے کیا خوب
کہا ہے۔

اسمعتم ان الا لہ لِحاجۃ یتناول الماکول والمشروباً

کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ خدا بھی ماکولات اور مشروبات کا محتاج ہوتا ہے۔

وینام من تعب ویدعو اربہ - ویروم من حوالہجر صقیلاً

اور کیا خدا بھی کبھی تھک کر سوتا ہے اور خدا سے دعا مانگتا ہے اور دوپہر کی گرمی میں قیلوہ کے
لئے جگہ ڈھونڈتا ہے۔

ویسہ الالہ الذی لم یستطع صدقاً لہ عنہ ولا تحویلاً

اور کیا خدا کو ایسا الم اور درد پہنچ سکتا ہے کہ جس کو خدا نہ ہٹا سکے اور نہ دفع کر سکے

یا لیت شعری حین مات بربکم من کان بالتدبیر عند کفیلہ

افسوس۔ نصاریٰ کے زعم میں جب حضرت یحییٰ صلیب پر مر گئے تو ان کے مرنے کے بعد اس عالم
کی تدبیر اور انتظام کس نے کیا۔

هل کان هذا الکون دبر نفسه من بعد اہم اثرا التقطیلاً

کیا یہ دفتر کائنات خود ہی اپنا مدیر تھا یا اسطبل اور بے کار عتبا

ذہموا الالہ فذی العیاد بنفسہ قاناہ لکن المقاتل المقتولا

نصاریٰ کا یہ زعم ہے کہ حضرت یحییٰ نے خود ہی اپنے ادارہ سے اپنے آپ کو بندوں کی نجات کے لئے
قربان کیا اور وہ خود ہی اپنے قاتل تھے اور خود ہی مقتول تھے۔ کذا فی جواب النفس ص ۱۵۸

دلیل دوم

مناظرۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانصارا میٰ نجران دربارۃ

الوہیت عیسیٰ بن مریم

محمد بن اسحاق وغیرہ سے منقول ہے کہ سورۃ آل عمران کے شروع کی تراسی آیتیں انصار کے نجران کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ نجران علاقہ یمن میں ایک شہر کا نام ہے جو اس زمانہ میں عیسائیوں کا علمی مرکز تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبر جب اطراف و اکناف میں پہنچی تو یہ خبر سن کر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مناظرہ اور مباحثہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اس وفد میں ساٹھ سوار تھے۔ جن میں سے چودہ آدمی خاص طور پر بڑے شریف اور معزز تھے۔ اور ان چودہ آدمیوں میں تین شخص ایسے تھے، جو ان کا مرجع الامر تھے۔ یعنی سب کا ماویٰ اور طباء تھے۔ تمام کام انہیں تین کے مشورہ سے ہوتے تھے۔ ایک ان کا امیر اور سردار تھا، جس کا نام عبدالمسیح تھا، جو بڑا ذریعہ اور ہوشیار اور ذی دانت تھا۔ اور دوسرا اس کا وزیر و مشیر جس کا نام آئیم تھا اور تیسرا ان میں کا سب سے بڑا عالم اور پادری تھا، جس کو جبر اور اسقف کہتے تھے۔ اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ شاہان روم اس پادری کی اس کے علم و فضل کی وجہ سے بڑی توقیر و تعظیم کرتے تھے اور عیسائے بادشاہوں اور امیروں کی طرف سے اس کو بڑی جاگیریں ملی ہوئی تھیں یہ لوگ حضرت مسیح کی الوہیت اور ابنیت کے قائل تھے۔ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ جب مدینہ منورہ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں گفتگو شروع ہوئی گفتگو کرنے والے یہی تین آدمی تھے۔ عبدالمسیح، آئیم، ابو حارثہ۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے استدلال میں یہ کہا کہ:-

- ۱ - عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔
- ۲ - عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو اچھا کرتے تھے۔
- ۳ - عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے۔
- ۴ - عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورق بناتے اور پھر ان میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر پھر زند بن جاتے اور ان تمام چیزوں کا قرآن کریم نے اقرار کیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ خدا تھے اور حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر اس طرح استدلال کیا کہ۔
- ۱ - وہ بلا باپ کے پیدا ہوئے، معلوم ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔
- ۲ - نیز حضرت عیسیٰ نے گوارا میں کلام کیا۔ ان سے پیشتر کسی نے گوارا میں کلام نہیں کیا۔ یہ بھی خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے۔

اور مسئلہ تثلیث یعنی حضرت عیسیٰ کے ثالث ثلاثہ ہونے پر یہ استدلال کیا کہ حق تعالیٰ جا بجا یہ فرماتے ہیں۔ قَعْنًا وَاَمْرًا وَاَسْمًا مُخْتَلِفًا وَّفَضِيحًا۔ ہم نے یہ کام کیا ہم نے یہ حکم دیا ہم نے یہ پیدا کیا ہم نے یہ مقدر کیا۔ یہ تمام صیغے جمع کے ہیں اور جمع کا اقل درجہ تین ہیں۔ پس اگر خدا تعالیٰ ایک ہوتا تو صیغہ جمع کا استعمال نہ ہوتا بلکہ بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعمال ہوتا اور یوں کہا جاتا قَعْنَتْ وَاَمْرَتْ وَاَسْمَتْ وَّفَضِيحَتْ میں نے کیا میں نے حکم دیا میں نے پیدا کیا میں نے مقدر کیا۔ یہ اس مایہ ناز و نغمہ کے استدلالات تھے جس کو اپنے علم پر فخر اور ناز تھا۔ جن کی حقیقت اہل عقل اور اہل فہم کی نظر میں ادہام اور خیالات سے زیادہ نہیں۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اور ارشادات کو سنئے۔

۱۔ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَاللِّسَانُ وَالْأَفْئِدَةُ وَالْأَرْجُلُ
وَهُوَ يُشَبِّهُنَّ بِأَقْوَابِ الْبُلْبُلِ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وفد نے کہا کیوں نہیں! اور یہ

سب کچھ نزدیک، مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ بے مثل اور بے چوں و چگون ہے۔ کوئی شے اسکے مشابہ نہیں۔

بار قال السنم تعلمون ان ربنا مئی لا یموت وان عیسیٰ یاتی علیہ القناء قالوا بئیی۔
 بعد ازاں آپ نے وفد سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے، کبھی بھی اس کو موت نہیں آسکتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مرد موت اور فنا آئے والی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے۔
 وفد نے اقرار کیا کہ بے شک یہ صحیح ہے، ایک نہ ایک وقت ان پر موت اور فنا ضرور آئے گی اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ پر موت اور فنا کا طاری ہونا ناممکن اور محال ہے۔
 (تنبیہ) نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ مصلوب و مقتول ہو کر مر چکے ہیں۔ لیکن حضور پرورد نے ان کے الزام کے لئے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے وہ خطا کیسے ہوتے کہ یہ امر خلاف واقعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے۔

بلکہ زندہ آسمان پر اٹھنے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور چند روز کے بعد وفات پائیں گے۔ جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے واضح ہے۔ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی کلمہ نکلا جو واقعہ کے موافق تھا۔ شذوذ واقع چیز کا نبی برحق کی زبان سے نکلنا مناسب نہیں۔ اگرچہ اس چیز کا ذکر محض بطور الزام ہو۔ اور عجیب نہیں کہ نصاریٰ نے اس کا اقرار اس لئے کیا ہو کہ وہ اتنی بات کو غنیمت سمجھے اور یہ خیال کیا ہو کہ ہمارے عقیدہ کے مطابق ہم پر الزام اور حجت اور بھی پوری ہو جائے گی۔ نیز نصاریٰ میں مختلف فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھتے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونے کے بعد وفات پائیں گے پس ممکن ہے کہ اس وفد کے لوگ اسی عقیدہ کے ہوں جو اسلام کے مطابق ہے۔

۴۔ قال السنم تعلمون ان ربنا قہم علی کل شیء یشکونہ ویجففہ ویبرقہ قالوا بئیی۔ قال فہل یموت عیسیٰ من پھر آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر چیز کے وجود کے بنانے والے اور اس کے معاف اور نگران اور ذوق رساں ہیں۔ انہوں نے

ذات شینثا قالوا ۱۔ کہا ہے شک۔ آپ نے فرمایا کہ تبارک کہ کیا عیسیٰ

علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز کے مالک اور قادر ہیں۔ یعنی کیا عیسیٰ علیہ السلام نے

بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے اور اپنی قدرت سے ان کے لئے سلمان بقا پیدا کیا ہے

انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان چیزوں پر قادر نہیں۔

۳۔ قال افسستم تعلمون ان الله لا يخفى ۲۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ

علیہ شئیء فی الارض ولا فی السبواء قالوا ۳۔ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں انہوں نے

بلی قال فهل يعلم عیسی من ذلك ۴۔ کہا ہے شک۔ آپ نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام

شینثا الاما علمه قالوا لا۔ کوان میں سے بجز اس چیز کے جس کا خدا تعالیٰ

نے ان کو علم سے رہا تھا۔ کوئی اور شے بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ یعنی اقارب

کیا کہ حضرت عیسیٰ عالم الغیب نہ تھے۔

۵۔ قال فان ربنا صبور عیسی فی الروح ۵۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ

علیہ السلام کی مریم کے رحم میں اپنی مرضی کے

کیف شاء۔ موافق صورت بتائی۔ نصاریٰ نے کہا ہاں۔

۶۔ السمکم تعلمون ان ربنا لا یاتکل ۶۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نہ کھاتا ہے

اور نہ پیتا ہے اور نہ پانخانہ اور پیشاب کرتا

ہے انہوں نے کہا ہے شک۔

۷۔ قال السمکم تعلمون ان عیسیٰ حملته ۷۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ

علیہ السلام کی والدہ اسی طرح حاملہ ہوئی، جیسا

طرح ایک عورت اپنے بچہ کو پیٹ میں رکھتی ہے

اور پھر اس کو جنمتی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام

پیدا ہوتے اور بچوں کی طرح ان کو خدا ہی گئی۔

اور پھر بڑے ہوئے اور وہ کھلتے اور پھٹتے تھے اور پیشاب اور پاخانہ کرتے تھے
وہ نے کہنے شک ایسے ہی تھے۔

قال فكيف يصحون هذا كما
زعمتم فخرجوا شرا ابوا الا جحودا
فانزل الله آية الله لا اله الا هو
الحق القيوم اخرجوه ابن جرير
وابن ابى حاتم عن الربيع -
تفسير درمنثور
القيوم الخ -

آپ نے فرمایا جب تم کو ان سب باتوں کا
اقرار ہے تو بتاؤ کہ ایسا ہو کر عیسیٰ خدا کیسے ہو
سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا زعم ہے پس آپ کے
اس ارشاد کے بعد انہوں نے حق کو خوب سچا بنا
لیا مگر جان بوجھ کر انکار کیا اللہ تعالیٰ نے
اس پر یہ آیتیں نازل فرمائیں اللہ لا الہ الا الہی

پوری آیتیں جو اس بارہ میں نازل ہوئیں وہ یہ ہیں۔

اللہ الله لا اله الا هو الحق القيوم نزل
عليك انك تآب بالحق مصدقا لما بين
يديه و انزل التوراة والينجيل من قبل
هدى للدين و انزل العزقان ان الذين
كفروا اياك الله لهم عدو شديد والله
عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه
شيء في الارض ولا في السماء هو الذي
يصدوكم في الارحام كيف يشاء لا
الاله الا هو العزيز الحكيم

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ ہے اور سارے
عالم کا کارساز اور گمان ہے اسی نے آپ پر
ایک برحق کتاب نازل کی جو تمام کتب سماویہ کی
تصدیق کرنے والی ہے اور اسی نے اس -
پہلے توریت اور انجیل اور زبور کو لوگوں کی ہدایت
کے لئے اتارا جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں
ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ بڑا
تیر دست اور بلند لینے والا ہے تحقیق اللہ یہ
کوئی شیء آسمان اور زمین کی پوشیدہ نہیں وہی

ہے کہ جو رحم مائد میں جس طرح چاہتا ہے صورت بنا لے اس کے سوا کوئی معبود نہیں
وہی غالب اور حکیم ہے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں دو مسئلوں کو بیان فرمایا ایک الوہیت مسیح کا ابطال اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات۔ اور نہایت بجا اور انتہائی کے ساتھ ہر مسئلہ کے دلائل اور براہین کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہم مسئلہ الوہیت مسیح کو لیتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . اللَّهُ كَمَا كُنِيَ مَجُودٌ نَحِينِ .

(۱) یہ دعویٰ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ خدا کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ ہو یعنی ازل سے لے کر اب تک زندہ ہو اور فنا کا اس پر طاری ہونا محال ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات حضرت مسیح پر صادق نہیں۔

(۲) دوم یہ کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کئی دم یعنی سارے عالم کا کارساز اور نگہبان اور محافظ اور رزاق وہی ہو۔ نصاریٰ کے زعم کے مطابق تو حضرت مسیح اپنی بھی حفاظت اور نگہبانی نہ کر سکے اور بھوکے پیادے صلیب پر جان دے دی۔ سارے عالم کا محافظ اور رزاق کہاں ہو سکتے ہیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ خدا وہ ہے کہ جو غالب اور قاہر ہو اور اپنے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لینے پر پورا پورا قادر ہو۔ اور نصاریٰ کے عقیدہ پر حضرت مسیح یہود سے اپنا انتقام نہیں لے سکے عجب نہیں کہ **وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ** . میں اسی طرف اشارہ ہو۔ دشمنوں کو مزا تو کیا دے سکتے اپنے آپ کو ظالموں کے پنجے سے بھی نہ چھڑا سکے بس ایک عاجز مخلوق کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا باپ اور بیٹے دونوں پر عیب لگانا ہے۔

(۴) چوتھے یہ کہ خدا کا علم اس درجہ محیط ہو کہ آسمان اور زمین کی کوئی شے اس پر پوشیدہ نہ ہو۔ **كَمَا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمٰوٰتِ** .

اور انجیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے چنانچہ انجیل لوقا کے چوتھے باب کے پہلے درس میں ہے۔

کہ یسوع روح القدس سے بھرا ہوا بدن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیان میں پھرتا رہا۔ اے

معلوم ہوا کہ حضرت مسیح عالم الغیب نہ تھے ورنہ کسی کی رہنمائی اور ہدایت کی کیا حاجت تھی۔ نیز انجیل لوقا کے باب ہشتم ورس ۴۳ میں ہے۔

کہ ایک بیمار عورت نے پیچھے سے آکر حضرت مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا فوراً اچھی ہو گئی حضرت مسیح نے دریافت کیا کہ کس نے مجھے چھوا؟ الیٰ آخروہ

پس اگر آپ عالم الغیب تھے تو پوچھنے اور تحقیق کرنے کی کیا ضرورت تھی خود بخود معلوم ہو جاتا۔

پانچویں یہ کہ خدا کی قدرت ایسی کامل ہونی چاہیے کہ رحم مادر میں جیسی صورت پیدا ہے ویسی ہی بنا سکے خواہ ماں اور باپ دونوں کے ملنے سے یا صرف عورت سے پیدا کر دے اس میں عیسائیوں کے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ جب حضرت مسیح کا کوئی ظاہری باپ نہیں تو بجز خدا کے کس کو باپ کہیں اس کا جواب ہو گیا کہ خدا کو قدرت ہے کہ جس طرح چاہے رحم میں تصویر بنائے اور ظاہر ہے کہ حضرت مسیح میں یہ قدرت نہ تھی خود انہی کی تصویر رحم مادر میں بنی پس وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے اس کے اثبات کی طرف بھی ان آیات میں عجیب طرح سے اشارہ فرمایا۔ وہ یہ کہ توریت اور انجیل کا کتاب الہی اور صحیفہ آسمانی ہونا اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا نبی اور رسول ہونا تم کو مسلم بنے پس جس دلیل سے توریت اور انجیل کا کتاب الہی ہونا اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا نبی اور رسول ہونا ملتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر قرآن کریم کے کتاب الہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔

قرآن کریم کہ جو علوم ہدایت، فصاحت اور بلاغت سعادت اور شقاوت، صحت اور

سیرت، مکالم اخلاق اور محاسن آداب، مہذب اور معاد، سیاست ملکیہ مدینہ کی تشریح اور تفصیل میں بے مثل اور بے نظیر ہے جس کا ہر حکم عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہے۔ تمام کتب آئینیہ کا مصدق ہے۔ اور تمام حضرات انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور لباب ہے۔ ایسی کتاب کے کتاب آہنی ہونے میں کیا شک ہے۔ اور جس نبی پر ایسی جامع کتاب نازل ہوئی ہو اس کے نبی اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تو فقط قرآن کریم ہی آپ کی نبوت کی کافی دلیل تھا۔ لیکن حق جل جلالہ نے قرآن کریم کے علاوہ اس قدر بے شمار آیات بیانات اور دلائل نبوت آپ کو عطا فرمائے کہ اگر تمام انبیاء و مرسلین کے معجزات جمع کئے جائیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب سے بڑھے رہیں گے۔

عجیب بات ہے کہ جو کتاب تمام کتابوں سے ہر شان میں اعلیٰ اور افضل ہو۔ اور جو نبی علوم ہدایت اور دلائل نبوت میں تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہو اس کو تو نہ مانا جائے اور جو کتاب قرآن کے ہم پلہ نہ ہو اور جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مرتبہ نہ ہو اس کو نبی مان لیا جائے یہ بعینہ ایسا ہی ہے کہ یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی مانا جائے اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کو نہ مانا جائے۔ یا حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو تو خدا کا پیغمبر مانا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے انکار کر دیا جائے۔

حکیم اجل خان کو تو طبیب حاذق مان لیا جائے مگر ابن سینا اور جالینوس کے طبیب تسلیم کرنے میں تامل ہو۔ ع بریں عقل و دانش بیاید گر سیت

دلیل سوئم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الْقَدِيمُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَكَذَلِكَ هُوَ كَلِمَاتُ الْإِسْلَامِ
 قل کہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ خدا جس کے متعلق تم دریافت کرتے

ہو اللہ ایسی ذات ہے کہ جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام صفات نقص سے پاک اور منزہ ہے اَحَدٌ وہ یکتا اور یگانہ اور بے مثل ہے کوئی اس کا شریک و سہم نہیں وہ اس شرکت کے عیب سے بالکل پاک ہے۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لفظ اللہ کو اس لئے مکرر لایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ذات باوجود واحد و بسیط ہونے کے تمام صفات کمال کو جامع ہے اور صَمَدٌ ہے یعنی وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں وہ اپنی تخلیق و کمون میں کسی مادہ اور روح اور کسی آلہ کا محتاج نہیں۔ صَمَدٌ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اسی کے محتاج ہوں وہی سب کا حاجت روا اور چارہ ساز ہو کہ یلِدُ و لِدُ یولد یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ یکتا اور یگانہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں نیز یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اس لئے کہ اگر کوئی خدا کا باپ یا بیٹا ہو تو جس طرح انسان کا بیٹا باپ کے ساتھ انسانیت میں شریک ہوتا ہے۔

اسی طرح خدا کا بیٹا بھی خدا کے ساتھ خدائی میں شریک ہو گا جو کہ احادیث اور اس کے وحدۃ لا شریک لہ ہونے کا سراسر خلاف ہے۔

نیز توالد و تناسل کا ہونا نشان صمدیت اور شان استغناء کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ اولاد اپنے پیدا ہونے میں باپ کی محتاج ہوتی ہے اسی طرح باپ نسل کے باقی رکھنے میں اور خدمت لینے میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے وَ لَمَّا كُنْتُمْ لَهَا كُفُوًا اَحَدًا۔ اور کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں جیسا کہ مجوس کہتے ہیں کہ عالم کے دو خالق ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ہمسر ہیں اور دونوں قوت اور قدرت میں ہم پلہ اور برابر ہیں ایک خالق نیز ہے جس کا نام ینداں دوسرا خالق شر جس کا نام ابرمن ہے۔ سُبْحَانَكَ وَنَعَالَى عَنَّا يَا مُتَّبِعُونَ۔

فصل سوئم

در بیان توحید از صحف انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

اس فصل میں ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ توریت میں کہیں ایک جگہ بھی لفظ تملیث موجود نہیں۔ تمام انبیاء کرام توحیدی کی تعلیم دینے چلے آئے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

وَمَا آذَنَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دَسْتُولِ الْآ
مُوحِي بِالْبَيِّنَاتِ آتَاهَا بِالْمِرَآةِ آتَا
فَاعْبُدُونِ - (سورۃ انبیاء)

ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس
کی طرف یہ حق بھیجتے تھے کہ میرے سوا کوئی
معبود نہیں پس میری پرستش کرو۔

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكَ نَحْنُ أَنشُرُكُمْ لِيُحْبَطَنَّ عَمَّا كَفَرْتُمْ
وَلَا تَكْفُرُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

آپ کی طرف اور انبیاء سابقین کی طرف یہ وحی
بھی گئی کہ اسے بندے اگر توشکر کرے گا تو
تیرے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور تو خاص میں

میں سے ہو جائے گا۔

توراة سفر استثناء باب آیت ۳۵ و ۳۶

یہ سب تجھی کو دکھلایا گیا۔ تاکہ توجانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔

توراة سفر استثناء باب آیت ۴

سن لے اسے اسرائیل خداوند ہمارا خدا کیا خداوند ہے۔

توراة سفر استثناء باب ۳۲ آیت ۳۹

اب دیکھو۔ کوئی معبود میرے ساتھ نہیں۔ اور میں ہی مارتا ہوں۔ اور میں ہی جلاتا ہوں۔ میں

ہی زخمی کرتا ہوں اور میں ہی چنگا کرتا ہوں۔ اور ایسا کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا ہو۔

زبور مقدس باب ۸۶ آیت ۹

تو بزرگ اور عجائب کام کرتا ہے۔ تو ہی اکیلا خدا ہے۔

زبور باب ۷۷ آیت ۱۳

اے خدا تیری راہ مقدس ہے کون معبود خدا کے مانند بڑا ہے۔

اول کتاب السلاطین باب ۱ آیت ۶۰

تاکہ زمین کے سارے گردہیں معلوم کریں کہ خداوند وہی خدا ہے اور اسکے سوا اور کوئی نہیں۔

توراہ سفر استثناء باب ۳ آیت ۲۴

اے مالک خداوند آسمان پر یا زمین پر کون سا خدا ہے۔ جو تیرے کاموں کے مطابق یا تیری

قدرت کے موافق عمل کر سکے۔

کتاب اشعیاء باب ۴۳ آیت ۱۱

اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔

کتاب اشعیاء باب ۴۴ آیت ۱۴ و ۱۵

اور تیرے آگے سجدہ کریں گے۔ اور تیرے آگے منت کریں گے اور کہیں گے یقیناً تجھ میں ہے

اور کوئی دوسرا نہیں۔ اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں یقیناً تو ایک خدا ہے۔

کتاب اشعیاء باب ۴۶ آیت ۹

میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں۔

کتاب خروج باب ۵ آیت ۱۱

معبودوں میں خداوند تجھ سا کون ہے پاکیزگی میں کون ہے تیرا سا جلال والا۔

کتاب دوم سموئیل باب ۱ آیت ۲۲

اے خداوند کوئی تیرے مانند نہیں۔ اور تیرے سوا جہاں تک ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے

کوئی خدا نہیں۔

اول کتاب السلاطین باب آیت ۲۳

اور سلیمان نے اسرائیل ساری جماعت کی رو برو کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے

اور کہا۔ اے خداوند اسرائیل کے خدا تجھ سا کوئی خدا نہ اور آسمان میں ہے نیچے۔ ۱- اھ

کتاب اشعیاء باب ۴۰ آیت ۲۸

کیا تو نے نہیں جانا کیا تو نے نہیں سنا خداوند موابدی خدا ہے۔ زمین کے کناروں کا پیدا کرنے

والا وہ ٹھک نہیں جاتا۔ اور ماندہ نہیں ہوتا اس کے فہم کی تہاہ میں ملتی۔

کتاب یرمیاہ باب آیت ۱۰ تا آیت ۱۵

لیکن خداوند سچا خدا ہے۔ وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ زمین اس کے قبر سے

تھر تھرتی اور قومیں اس کی جلیا ہست کی برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ تم ان سے اس طرح کہو کہ جس

معیروں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہوں گے

اسی نے اپنی قدرت سے دنیا کو بنایا ہے۔ اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا ہے۔

فصل چہارم

در ابطال تثلث و اثبات توحید از اقوال جناب مسیح علیہ السلام

اس فصل میں ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ انجیل میں کسی جگہ بھی لفظ تثلث موجود نہیں اور

نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نہ ان کے کسی حواری نے کسی کو یہ تعلیم دی کہ تثلث کا عقیدہ رکھو۔

بلکہ انجیل میں جا بجا صاف صاف یہی تعلیم ہے کہ خدا تعالیٰ واحد لا شریک لہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ

کا ارشاد ہے۔

انہ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ

کہ مسیح بن مریم اللہ اور خدا ہیں حالانکہ حضرت مسیح

بْنِ مَرْيَمَ قَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ

فرماتے ہیں کہ اے نبی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو

اللَّهُ رَبِّي وَتَعْبُدُوا اللَّهَ فَقَدْ

سَعَوْا لَآئِدًا
عَدُوًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا
وَمَا
لِّلظَّالِمِينَ مِنْ أَصْحَابٍ

جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے تحقیق جو اللہ کے
ساتھ شریک کرے گا۔ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ
اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا

ٹھکانا جہنم ہے اور شرکوں کا کوئی مددگار نہیں۔

انجیل یوحنا باب ۲۰ آیت ۱۷

یسوع نے کہا کہ میں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔

انجیل یوحنا باب ۱۷ آیت ۳

ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے
تو نے بھیجا ہے۔ جانیں۔ اھ۔

خط کشیدہ جملوں سے صاف عیاں ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے
رسول ہیں۔ معاذ اللہ خدا نہیں۔

انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۲۸

اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے۔ ۲۹۔ یسوع نے جواب دیا۔ کہ اول
یہ ہے۔ ۳۰۔ ۱۔ اسرائیل بن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔

انجیل مرقس باب ۱۳ آیت ۳۲

اے اساتذ کیا خوب تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔

انجیل متی باب ۱۹ آیت ۱۷

تو مجھ سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے۔ نیک تو ایک ہی ہے انتہی ۱۲۔ یعنی تمام عیبوں سے
منزہ صرف ایک وحدۃ لا شریک لہ کی ذات پاک ہے۔

انجیل متی باب ۲۷ آیت ۴۶

یسوع نے بڑی آواز سے پلا کر کہا۔ ایللی ایللی لما شبتقنی۔ یعنی اے میرے خدا اے میرے

خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اھ۔

انجیل یوحنا باب ۱۴ آیت ۲۲

اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں۔ بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اھ۔

یعنی خدا کا کلام ہے۔ اور میں خدا کا رسول اور فرستادہ ہوں خدا نہیں ہوں۔

انجیل متی باب ۲۳ آیت ۹

زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ رکھو۔ کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اھ یعنی خدا

ایک ہی ہے۔

انجیل متی باب ۲۶ آیت ۳۶

یسوع نے شاگردوں سے کہا میں بیٹھے رہتا جب تک میں دعا مانگوں۔ اھ اور ظاہر ہے

کہ دعا مانگنا بندہ کی شان سے ہے خدا کی شان نہیں کہ وہ دعا مانگے۔

انجیل لوقا باب ۴ آیت ۸ اور ۹

یسوع نے کہا۔ لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر اھ

افسوس کہ نصاریٰ اپنا نصوص نہ رکھ اور دلائل عقلیہ کے مخالف ہیں اور شلیٹ میں بیٹھے جا

رہے ہیں۔ نصاریٰ میں ایک فرقہ یونی ٹیرین اس وقت بھی امریکہ اور لندن میں موجود ہے یہ گروہ

شلیٹ کا سخت منکر ہے صرف خدا کی عبادت کے قائل ہیں۔ اور یسوع مسیح اور مریم اور فرشتوں

کی عبادت کے قائل نہیں۔

فصل پنجم

در ابطال ادلہ الوہیت کہ از عہد جدید نقل میکنند
(دلیل اول)

انجیل یوحنا باب ۲۰ آیت ۲۸

تو مانے حضرت مسیح کو ان الفاظ سے خطاب کیا۔ اے میرے خداوند اے میرے خدا۔ اے
حضرت مسیح کے سامنے یہ الفاظ کہے گئے پس اگر حضرت مسیح خدا تھے تو یقیناً ان الفاظ کے استعمال
سے منع فرماتے۔

جواب

معاذہ بائبل میں لفظ خدا وسیع معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کبھی خدا بول کر مرشد اور ہادی
کے معنی مراد لیتے جاتے ہیں اور کبھی فرشتہ اور معلم اور استاذ اور رئیس اور نیک آدمی مراد ہوتے
ہیں۔ چنانچہ سفر خروج باب آیت اول ہے فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك ازباً
لفرعون۔ خدا نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لئے خدا بنایا۔
اس جگہ آلہ سے ہادی اور مرشد کے معنی مراد ہیں اور اردو تراجم میں اس طرح ترجمہ کیا
ہے فرعون کے لئے خدا بنایا اے۔ اگر خدا کے حقیقی معنی مراد ہوتے تو اس تاویل کی کیا حاجت تھی
اور زبور باب آیت ۶ میں ہے۔ میں نے تو کہا تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ اے اور
انجیل یوحنا باب آیت ۳۲۔ یسوع نے انہیں جواب دیا۔ الی قولہ ۳۴۔ کیا تم ہماری شریعت
میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو۔ الخ۔ اور اس آیت پر حاشیہ میں (زبور ۸۲ آیت سے) لکھا ہوا ہے
جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مسیح ان الفاظ سے نوشتہ زبور کو یاد دلارہے ہیں۔ اور ظاہر ہے

کہ اس مقام پر کہ تم خطبہ مواس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ تم خدا کے نیک بندے ہو۔ اور انجیل مرقس باب ۱۶ آیت ۷ میں ہے (اور کہا اسے رب) اس کے ہاشیر میں لکھا ہے۔

(یعنی اسے استاذ)

اور سفر پیدائش باب ۳۲ از آیت ۲۴ تا آیت ۳۱ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خدا سے کشتی کرنا مذکور ہے اور پھر یہ کہ حضرت یعقوب خدا سے کشتی میں غالب رہے اور ظاہر ہے کہ اس جگہ حقیقہً خدا سے کوئی کشتی مراد نہیں بلکہ فرشتہ یا کولہ اور معنی مراہٹے گئے ہیں اور سفر پیدائش باب ۱ آیت اول میں ہے۔ جب ابرام ننانوے برس کا ہوا۔ تب خداوند ابرام کو نظر کیا۔ اور آیت ۹ میں ہے پھر خدا نے ابرام سے کہا اور آیت ۱۵ میں ہے۔ اور خدا نے ابرام سے کہا اور آیت ۲۲ میں ہے اور جب ابرام سے باتیں کی چکا تب خدا اس کے پاس سے اوپر گیا۔ اور یعنی وہ فرشتہ جو حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا فارغ ہو کر آسمان پر چلا گیا۔ ان تمام مقامات اور آیات میں خدا سے فرشتہ مراد لیا گیا ہے۔

دلیل دوم۔ انجیل متی باب ۱ آیت ۱۷ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ (یعنی حضرت یسوع) میرا بیٹا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور ایسا ہی انجیل متی باب ۱ آیت ۶ میں ہے۔

جواب

بائبل میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے حضرات کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے پس اگر انہیں مستلزم الوہیت کو ہے تو یہ سب خدا اور اللہ ہونے چاہئیں۔ انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۱۸ آدم ابن اللہ۔ سفر خروج باب ۲۳۔ خداوند نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پلوٹھا ہے۔ اور کتاب یرمیاہ باب ۱ آیت ۹ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افراتیم میرا پلوٹھا ہے۔ یرمیاہ باب ۲۰ آیت ۲۰۔ افراتیم میرا بیٹا بلکہ پلوٹھا ہے۔ تواریخ اول باب ۶ آیت ۶۔ میں نے اسے (سیلمان) چن لیا کہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں۔ تواریخ اول باب ۱۰ آیت ۱۰۔ وہ (سیلمان) میرا بیٹا ہو گا۔ اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ زبور باب ۱۰۵ آیت ۵۔ یتیموں کا باپ

اور بیواؤں کا ولی اھ۔

آیات ذیل کے پڑھنے کے بعد غالباً کسی کو بھی اس میں اشتباہ نہ رہا ہوگا کہ خدا کا بیٹا بن کر یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ خدا کا نیک بندہ ہے جیسا کہ پولوس کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے۔
رومی باب آیت ۱۴۔ اس لئے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔

اور پولوس کا خط جو فلپیوں کے نام ہے۔ اس میں سے خدا کے بے نقص فرزند ہونے سے یہودیہ باب آیت ۱۴۔ اور اسی وجہ سے انجیل مرقس باب آیت ۹ میں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا۔ اور اسی مقام پر انجیل لوقا باب آیت ۳۷ میں ابن اللہ کی جگہ صالح اور راست یاد کیا گیا۔ اور اس وجہ سے انجیل متی باب آیت ۹ اور انجیل متی باب آیت اول اور انجیل متی باب آیت ۱۴ میں خدا کے فرزندوں سے نیک بندے مراد لئے گئے۔ اور انجیل یوحنا باب ۱۸ آیت ۳۶ میں شیطان کے بیٹوں سے شریر لوگ مراد لئے گئے بلکہ بعض مرتبہ شریروں کو بھی اس معنی سے کہ وہ بھی خدا کا بندہ ہے خدا کا بیٹا کہا گیا۔ جیسا کہ انجیل متی باب آیت ۱۱ میں ہے۔ پس جبکہ تم میرے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی طرح چیز دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے ملنگے والوں کو اچھی چیز کیوں نہ دے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ محاورہ بائبل میں جب لفظ ابن اللہ بولا جاتا ہے تو اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلق رکھنے والا جیسے آل فرعون سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرعون سے تعلق رکھنے والے اور فرزند نطن وطن سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق رکھنے والے پس معلوم نصاریٰ نے کس طرح حضرت عیسیٰ کو حقیقہً خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا۔

دلیل سوم۔ انجیل یوحنا باب آیت ۳۳۔ اس نے (یسوع علیہ السلام) ان سے کہا کہ تم نیچے کے ہو میں اور پرکا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اھ۔ یعنی میں خدا ہوں مجھ کو کر دینا میں آیا ہوں۔

جواب

اس قسم کا کلام حضرت مسیح سے حواریوں کے حق میں بھی منقول ہے۔ چنانچہ انجیل یوحنا باب ۱۹ آیت ۱۹ میں ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنیوں کو عزیز رکھتی۔ لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے علاوت رکھتی ہے انجیل یوحنا باب ۱۷ آیت ۱۶ میں ہے۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں اسی طرح وہ بھی دنیا کا نہیں اھ۔ پس جس دلیل سے حضرت مسیح کی الوہیت ثابت کی گئی وہی دلیل حواریوں کے حق میں بھی موجود ہے حضرت مسیح کی طرح ان کو بھی خدا ماننا چاہیے لہذا صحیح مطلب یہ ہے کہ میں خدا کا غالب ہوں اور تم دنیا کے طالب ہو۔

دلیل چہارم۔ انجیل یوحنا باب ۳۱ آیت ۳۱ میں ہے میں اور باپ ایک ہیں۔

جواب۔ اس قسم کا کلام حواریوں کے حق میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے۔

انجیل یوحنا باب ۱۷ آیت ۳۱

مجھ پر ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح اسے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں۔ اور دنیا ایمان لائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جاویں۔ اھ۔

دلیل پنجم۔ انجیل اربعین حضرت مسیح کا مردوں کو زندہ کرنا مذکور ہے۔

جواب۔ حذقیل علیہ السلام سے بھی ہزاروں مردوں کا زندہ کرنا ثابت ہے۔ جیسا کہ کتاب حذقیل کے باب ۳۷ آیت ۱۱ و ۱۲ میں ہے۔ اور ایلیا علیہ السلام سے کتاب سلاطین اول باب ۲۲ آیت ۲۲ اور ایسح علیہ السلام سے ہے سلاطین دوم باب ۳۳ آیت ۲۵ و ۲۶ میں مردوں کا زندہ کرنا مذکور ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا کو سانپ بنا دینا دنیا میں مشہور ہے۔

دلیل ششم۔ انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۱۹ میں ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے باپ کو دیکھا۔

جواب۔ ما سبق سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح اور حواریوں میں سب خدا کے ساتھ متحد ہیں۔

لہذا جس نے حرارین کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسو کا ایلچی یا پیغامبر ہوتا ہے تو اس کی تحقیر مولا کی تحقیر شمار کی جاتی ہے۔ اور اس کی تعظیم مولا کی تعظیم سمجھی جاتی ہے جیسا کہ انجیل متی باب ۲۰ آیت ۲۰ میں ہے۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اھ اور انجیل لوقا باب ۱۶ آیت ۱۶ میں ہے۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے۔ اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھ کو نہیں مانتا۔ اھ۔ اور انجیل متی کے باب ۲۵ آیت ۳۵ میں ہے۔ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں پرہیزی تھا۔ تو نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ بیمار تھا تم نے میری خبر لی۔ راستباز جواب میں کہیں گے

اے خداوند ہم نے کب تجھ کو بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا۔ اہ۔ بادشاہ ان سے جواب میں کہے گا۔ جو تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں سے کسی ایک کے ساتھ یہ کیا۔ اس لئے میرے ساتھ کیا۔ اھ۔ فقیر کے کھانا کھلانے کو اس کلام میں خدا کا کھلانا قرار دیا ہے تو کیا یہ فقیر اس استعارہ سے معاذ اللہ حقیقۃً خدا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مسیح کے دیکھنے سے حقیقۃً خدا کا دیکھنا اور حضرت مسیح کا خدا ہونا لازم نہیں آتا اور یہ کلام اسی طرح کا ہے۔

مَنْ كُتِبَ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ إِنَّ
الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک
اللہ کی اطاعت کی اے نبی کریم جو لوگ آپ سے
بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ
کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

وفي الصحيحين لا يزال عبدی يتقرب
إلی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته
كنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ
الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہ
ورجل الذی یشی بہا۔ اھ
بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ ہمیشہ نوافل
سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ
میں اس کو اس قدر محبوب بنا لیتا ہوں کہ اس کی
سمع بن جاتا ہوں کہ اس سے وہ سنتا ہے اور بصر
ہو جاتا ہوں کہ اس سے دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ

ہو جاتا ہو جاتا ہوں کہ اس سے پکڑنا ہے اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے حرکت کرتا یعنی اس کے تمام کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔

دلیل ہفتم۔ حضرت مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔

جواب۔ اس بناء پر حضرت آدم اور ملائکہ بھی خدا ہونے چاہئیں اس لئے کہ حضرت آدم اور ملائکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہی دلیل اگر الوہیت کی ہے، تو فرشتے اور حضرت آدم مسیح سے پہلے خدا ہونے چاہئیں۔

إِنَّمَنْتَنِي مَعِنَا اللَّهُ كَمَنْتَنِي آدَمَ۔ حضرت عیسیٰ کی شان خدا کے نزدیک آدم کی طرح ہے

نیز جس طرح اہل اسلام عالم کو حادث مانتے ہیں اسی طرح اہل کتاب بھی عالم کو حادث مانتے ہیں پس ابتداء جو نوعاً بھی حادث ہوگی وہ ضرور بغیر ماں باپ کے ہوگی۔ جیسا کہ توراہ سفر پیدائش باب اول آیت ۲ تا ۴ سے ظاہر ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل نہیں۔

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

فَحَمْدٌ اِدْرِيْسَ اِن كَانَ دَاهِلِيْ كَانَ لِلّٰهِ وَكَانَ هُوَ ذَا

اِهِيْنَ يَا رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

صدائے اسلام

مذہب دنیا میں بہت ہیں اور آپس میں مختلف اور متضاد ہیں نہ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ سب سچ ہیں اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سب جھوٹے اور باطل ہیں اس لئے کہ اجتماع نقیضین اور ارتقاع نقیضین دونوں ہی باتفاق عقلاء عالم ممنوع اور محال ہیں دنیا میں توحید کے بھی قائل ہیں اور شرک کے بھی۔ یہ ناممکن ہے کہ توحید اور عدم توحید دونوں ہی سچی ہوں یا دونوں ہی باطل ہوں لامحالہ دونوں میں سے ایک ہی سچی ہوگا۔

سچی و باطل کا معیار سوائے عقل سلیم کے اور کیا ہو سکتا ہے پس جس مذہب کے اصول اور عقائد اور قواعد عقل سلیم اور فہم مستقیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہوں گے وہ مذہب صحیح ہوگا اور جس مذہب کے اصول اور خاص کر بنیادی عقائد ہی سراسر عقل کے خلاف ہوں گے وہ مذہب بلاشبہ باطل ہوگا اور علیٰ تباہی مذہب مکارم اخلاق اور محاسن اعمال مثلاً عفت اور پاکدامنی کا علمبردار ہوگا وہ قابل قبول ہوگا اور جو مذہب بے حیائی اور بدکاری کا پتہ دیتا ہو تو وہ مذہب اہل حیاء اور اہل عفت کے نزدیک قابل نفرت ہوگا بلکہ اس قابل ہوگا کہ اس کو صلیب پر لٹکایا جائے اور اس کے خوب ٹھکانچے لگائے جائیں اور اس کے منہ پر تھوکا جائے اور پھر ہمیشہ کے لئے اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسے دنیا سے دانشمندو اور ہوشمندو میر سے آغوش میں آجائو تم کو ایسے اصول اور عقائد تک تعلیم دوں گا جو میں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہوں گے جس طرح چاہو ان کو عقل اور فطرت کی کسوٹی پر کس کر لینا اور پرکھ لینا اور پلٹ پلٹ کر ان کو دیکھ لینا اور دکھلا لینا اور تم کو ایسے مکارم اخلاق کی تلقین کروں گا کہ حیاء اور شرمساری اور عفت اور پاکدامنی اور حسن و خوبی میں ان کا جواب نہ ہوگا۔

اسے دنیا کے دانشمندو اور حیاء اور پاکدامنی کے طلبگار و ایسے دین (دینِ انبیت) سے

دور نہ ہو کہ جس میں شراب حلال ہو اور بے پردگی اور غیر عورتوں سے تعلق اور اختلاط اور رقص و سرود۔ اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور تمدن شمار کی جاتی ہے۔ افسوس کہ اسلام کے تعدد ازدواج پر نگہ نہ چینی کریں اور غیر محدود عورتوں سے تعلقات کو تہذیب اور تمدن بتلائیں آخر اس تمدن قوم کے فاضل حج یہ تو بتائیں کہ زنا کی کیا تعریف ہے کہ جس کو یہ کہا جاسکے کہ یہ زنا ہے نکاح نہیں شراب سے عقل جیسی نعمت عظمیٰ جاتی رہتی ہے اور بے پردگی سے نسب مخلوط اور مشکوک ہو جاتا ہے اور بے غیرتی اور بدکاری کا دروازہ کھل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ کی چالیس فیصدی آبادی غیر ثابت النسب ہے۔

اسلام نے پردہ کو فرض کیا اور غیر عورت پر نظر ڈالنے کو حرام کیا تاکہ اسلامی خواتین کا عفت مآپ چہرہ ناپاک نظروں سے محفوظ ہو جائے اور تاکہ ان کی اولاد مشکوک اور مشتبہ نہ رہے اور تاکہ بے حیائی اور بے غیرتی کا دروازہ بالکل بند ہو جائے اور حیاء اور غیرت ہی تمام مکارم اخلاق کا سرچشمہ ہے اور حیب سے نصارتی نے کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کا طریقہ رائج کیا ہے اس وقت سے دیکھ لیا جائے کہ اخلاق میں کس قدر تنزل آ گیا ہے لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی مائیں بننے لگی ہیں یہ سب انگریزی کالجوں کی برکات ہیں کہ جن کی وجہ سے دن بدن دنیا سے عفت اور حیاء اور پاکدامنی ختم ہوتی جا رہی ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر یہی رفتار رہی تو پھر دنیا کو نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے گی جس طرح ایک حیوان جس مادہ سے چاہے اپنی حیوانی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور اس کو ازدواجی رسوم اور لوازم کا بجا لانا ضروری نہیں اسی طرح عنقریب یہ یورپ کے مہذب اور تمدن انسان حیوان مطلق بن جائیں گے ان کو نکاح کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور اس وقت عورتوں کی بیسی اور بے بسی کا عجب حال ہو گا۔ عجب نہیں کہ ایسے مصیبت کے وقت میں چار چار عورتیں مل کر ایک مرد سے نکاح کی درخواست کرنے لگیں اور اسلام کے مسئلہ تعدد ازدواج کو حق تعلقے کی نعمت کبریٰ سمجھ کر سجدہ شکر بجالانے لگیں کہ اسلام نے ہماری اس مصیبت کا بہترین حل پیش کیا۔

اے دنیا کے دانشمندو اور ہوشمندو۔ ذرا انصاف تو کرو کہ اسلام جیسے مکمل اور مدلل اور مفصل مذہب کو تھپوڑ کر ایسے مذہب کی طرف کیوں جلتے ہو جس کا بنیادی عقیدہ ہی (توحید فی التلیث) سراسر عقل کے خلات ہو اور جس کو آج تک دنیا کا کوئی پوپ اور پادری نہ سمجھ سکا ہو اور نہ سمجھا سکا ہو کہ ایک تین اور تین ایک کیسے ایک ہو سکتے ہیں اور اس کا معاشرہ بیخیرتی اور بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہو اور اس کا کالج اخلاق کے حق میں فالج کا حکم رکھتا ہو اور اس کی دعوت کا آغاز زن اور زر سے ہوتا ہو ذرا سوچو تو سہی کہ نفس اور شیطان تم کو کس تباہی اور بربادی کے گڑھے کی طرف دھکیل کر لے جا رہا ہے زن اور زر کے ذریعے جس چیز کی دعوت دی جلتے گی وہ بلاشبہ نفسانی اور شہوانی ہوگی اور دنیا کے تمام حکماء اور غفلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ نفسانی خواہشوں کا اتباع دین و دنیا دونوں ہی کو تباہ اور برباد کرتا ہے تم کو چاہیے کہ اسلام کے عقلی اور نقلی دلائل اور براہین پر نظر کرو کہ وہ کس درجہ معقول اور پختہ ہیں۔ معقول کو قبول کرو اور غیر معقول سے دور بھاگو۔ اور نصرانی حکومتوں کی مادی طاقت اور قوت و شوکت پر نظر نہ کرو۔ محض حکومت اور سلطنت حقانیت کی دلیل نہیں۔

حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت میں حکومت یہودیوں کی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حکومت فرعون کی تھی اور حضرت ابراہیم کے وقت میں حکومت نمرود کی تھی فی زمانہ نصاریٰ کی حکومت یہود اور نمرود اور فرعون کی حکومت کا نمونہ ہے اور خلفاء راشدین کی حکومت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی حکومت کا نمونہ تھی۔ مسجد نبوی ہی خلفاء راشدین کا قصر حکومت اور ایوان خلافت تھا اور مسجد کعبہ اور مسجد کوفہ ای ان کی کرسی عدالت تھی اور اسی مسجد کا پتھر ان کی درگاہ اور خانقاہ تھی۔ ایسی حکومت تو حقانیت کی دلیل ہو سکتی ہے باقی یہود اور نمرود جیسی حکومت کو حقانیت کی دلیل بنانا کمال ابلی و نادانی ہے۔

خلفاء راشدین امیر مملکت بھی تھے اور مسلم شریعت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے مسجد کے امام اور خطیب بھی تھے امیر اور بادشاہ بھی تھے فقیر اور درویش بھی اسلام اور

مسلمانوں کے پاسان اور نگہبان بھی تھے عمامہ اور دستار کبیل اور گڈڑی ان کا شاہی اور امیری لباس تھا اور ایک وقت آدمی آدمی دنیا کے دو فرماں رواؤں یعنی قیصر و کسریٰ سے مصروف جماد تھے اور اونٹ چرانے والوں اور کبیل پوشوں کا لشکر دنیا کی مذہب اور تمدن قوموں کو کھلے بندوں میدانوں میں بچھاڑ رہا تھا اور ان کے خزانوں کو لاکھ مسجد نبوی کے صحن میں ڈالتا تھا اور فاروق اعظم اور عثمان غنی مسجد کے پورے پر بیٹھ کر ان تمدن قوموں کے خزانے فقراء و مساکین پر تقسیم کرتے تھے اسلام ایسی سلطنت کا حکم دیتا ہے اور ایسی حکمرانی کے طریقے بتاتا ہے کہ جہاں امیری اور فقیری ساتھ ساتھ چلیں یہ فقیر و مختار اپنے مسلمان امراء سلطنت اور وزراء مملکت کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر ترقی اور عزت مطلوب ہے تو خلفائے راشدین اور خلفاء نبوی امیر اور خلفاء عباسیہ اور شاہان مغلیہ کے طریقہ پر چلیں اور تین قوموں کو تمہارے بزرگوں نے کھلے بندوں میدانوں میں بچھاڑا تھا ان کی نضال تکریم وغیروں کی نقالی میں سوائے ذلت کے کیا رکھا ہے خوب سوچ لو اور سمجھ لو۔

عزیز بنیکہ از در گہش سر یافت بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

اب سنو اور غور سے سنو

اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ عیسائی اور ہندو بھی توحید کے مدعی ہیں مگر ان کی توحید خالص نہیں شرک کے ساتھ مل ہوئی ہے۔

اسلام کی توحید روز روشن کی طرح واضح ہے جو بے شمار دلائل عقلیہ اور نقلیہ اور قطریہ سے ثابت ہے۔

اسلام کا عقیدہ

یہ ہے کہ خداوند عالم جس نے اس عالم کو بنایا اور جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک اور ہمہ نہیں ہر قسم کے علیوں اور نقصانوں سے منزہ ہے

معاذ اللہ اگر خدا میں بھی کوئی عیب اور نقصان ہو تو پھر خدا اور بندوں میں کیا فرق رہے بندے
 اسی لئے تو خدا بننے سے محروم ہیں کہ ان میں قسم قسم کے نقصانات پاتے جاتے ہیں اور وجود
 کی باگ ان کے قبضہ میں نہیں کہ جو خوبی اور جو کمال چاہیں اپنے واسطے موجود کریں خدا کو
 خدا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اس کا وجود کسی کا عطیہ نہیں۔
 پس اگر خدا بھی بندوں کی طرح ناقص اور مجبور اور عاجز نہ ہو تو اس کو خدا بن بیٹھنے کا
 کیا استحقاق ہے۔

عیسائیوں کا عقیدہ

یہ ہے کہ خدا تین ہیں باپ (خدا تعالیٰ) اور بیٹا یعنی مسیح علیہ السلام اور روح القدس
 اور یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسیح بندہ بھی ہے اور مالک بھی
 ہے اور آدمی بھی ہے اور خدا بھی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ۔ خداوند قدوس اپنے مجدد
 جلال سے اتر کر مجسم ہوا اور ایک عورت کے رحم اور شکم میں داخل ہوا اور نو ماہ شکم مادر میں
 رہ کر عام بچوں کی طرح شرمگاہ سے اس کی ولادت ہوئی وہ رونا تھا اور ماں کا دودھ پیتا
 تھا اور پھر کھلنے اور پینے لگا اور بول بولاد کرنے لگا اور جب بڑا ہوا تو یہودی (جو اسی کے
 بندے اور مخلوق تھے) اس کے دشمن ہو گئے اور ان کو کپڑے پھانسی پر لٹکایا اور منہ پر ٹھوکا
 اور طمانچے مارے اور کانٹوں کا تاج سر پر رکھا اور نہایت ذلت کے ساتھ ان کو مارا اور عیسیٰ
 علیہ السلام خدا سے بہت آہ و زاری کے ساتھ فریاد کرتے تھے کہ ایٹھ ایٹھ۔ تو نے مجھے بے یار
 و مددگار کیوں چھوڑ دیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے تڑپ تڑپ کر صلیب پر جان دی اور
 تین دن قبر میں رہے اور بعد میں زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے اور باپ کے دائیں جانب
 جا کر بیٹھ گئے۔ نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خود خدا تھا خود بندوں کی نجات کے لئے مصلوب
 ہوا اور موعون ہو کر تین دن تک دوزخ میں رہا نصاریٰ کا عقیدہ مختصر اختتام ہوا جو آپ

حضرت نے من لیا کہ کیسا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔

نصاری کا یہ عقیدہ سراسر مہمل اور خلافت عقل ہے۔ کوئی ادنیٰ عقل والا بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک ہی ذات خدا بھی ہو اور بندہ بھی ہو عابد بھی ہو اور معبود بھی ہو تین ایک بھی ہوں اور ایک تین بھی ہو آج تک نصاریٰ اس توحید فی الثانیات پر نہ کوئی عقلی دلیل پیش کر سکے اور نہ نقلی تیزیہ ناممکن ہے کہ خداوند قدوس جو ہر طرح سے مقدس ہے اور ہر وجہ سے بے نیاز اور تمام عیبوں سے پاک ہے وہ عیسیٰ بن مریم بن کر اور مجسم ہو کر کسی عورت کے رحم اور شکم میں اترے اور پھر کھانے اور پینے اور بول و برباز اور بھوک اور پیاس اور خوشی و غم اور دیگر حوائج انسانی میں مبتلا ہو کہیں مولیٰ پر چڑھے اور دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول ہو کر معذب اور ملعون بنے اور گناہ گاروں کی نجات کے لئے کفارہ بنے اور سارے انسانوں کی لعنت اپنے اوپر اٹھائے اہل عقل بتلائیں کہ کیا خداوند قدوس کی اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہو سکتی ہے جو نصاریٰ نے کی حضرت عمرؓ کا قول ہے۔

لقد سبوا اللہ مسبباً ما سبواہا نصاریٰ نے خدا تعالیٰ کو وہ گالیاں دی ہیں کہ جو
سجد من نبشور۔ ہج تک کسی آدمی نے نہیں دی۔

نصاری کا یہ عجیب و غریب عقیدہ عقل اور سائنس کے لئے تنگ اور عار ہے کہ خدا کا ایک عورت کے پیٹ سے میل ہونا اور پھر اس کا لاپھارہ اور عجیب ہو کر چوروں کے ساتھ صلیب پر لٹکنا اور پھر تین دن تک مردہ پڑا رہنا مگر نصاریٰ کے نزدیک یحییٰ اور واجب الایمان ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلام کا عقیدہ

عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک تمام روتے زمین کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی طرح حق جل شانہ کے ہرگز یہ بندے اور رسول برحق تھے۔ نبی اسرائیلؑ مریمؑ کے بطن سے بغیر باپ کے

لغزہ: جبریلی سے پیدا ہوتے اور پھر قوم بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہود بے بہود نے جب ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھالیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ دَفَعَهُ اللَّهُ زَانِبًا
وَمَا كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

یعنی یہ امر قطعی اور یقینی ہے کہ یہود حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے

ان کو اپنی طرف آسمان پر اٹھالیا۔

بلکہ حضرت مسیح کے دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو حق تعالیٰ نے حضرت مسیح بن مریم کا شبیہ اور مشکل بنا دیا۔ یہود نے اسی شبیہ کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا اس طرح حق تعالیٰ نے یہود کو اشتباہ اور التباس میں ڈال دیا جیسا کہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ
شُبِّهَ لَهُمْ۔

اور یہود نے حضرت مسیح کو قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا لیکن ان کو من جانب اللہ اشتباہ میں ڈال دیا گیا۔

کہ حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مکان کے ایک دریچہ سے آسمان پر اٹھالیا اور حضرت عیسیٰ کے دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ کی ہمشکل بنا کر یہودی کے ہاتھ سے قتل کر دیا یہود خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا اور پھر حبیب اپنے آدمیوں کو شمار کیا تو ایک آدمی کم ہو گیا تو اختلاف اور اشتباہ میں پڑ گئے اسی بارہ میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ
بَنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا
صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ

یہود اس قول کی وجہ سے بھی ملعون ہوتے کہ بطور تفاخر یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح بن مریم کو جو رسول ہونے کے مدعی تھے ان کو قتل کر ڈالا حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط

بِهِ مِنْ عَدِيمِ الْإِيمَانِ الظَّنِّ وَمَا
 قَتَلُوا يَعْقِبْنَا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ
 اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔
 ہے یہود نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا
 لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ حضرت
 مسیح کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب

شک اور تردد میں پڑے ہو ہیں اصل حقیقت کا ان کو کوئی علم نہیں سولتے گمان کی پیروی کے
 کچھ نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ یہود نے عیسیٰ بن مریم کو قطعاً اور یقیناً نہیں قتل کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
 اپنی طرف آسمان پر اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے کہ اپنے برگزیدہ بندہ کو
 روح القدس جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ آسمان پر اٹھالیا اور دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو حضرت
 مسیح کے ہم شکل بنا کر دشمنوں ہی کے ہاتھ سے قتل کرا کر صلیب پر چڑھوا دیا اور دشمنوں کو قیامت
 تک کے لئے اشتباہ میں ڈال دیا۔

اور صحیح حقیقت اور صحیح معرفت سے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعہ آگاہ
 فرمادیا۔

یہ تمام مضمون قرآن کریم کی آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے
 جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تفصیل اگر درکار ہے تو اس ناچنبرے کے
 تین رسالوں کو ملاحظہ فرمائیں (۱) کلمۃ اللہ فی حیاة روح اللہ (۲) القول المحکم فی نزول عیسیٰ
 بن مریم (۳) لطائف المحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم۔ جن میں خاص طور پر آیات قرآنیہ
 اور احادیث نبویہ اور اجماع امت محمدیہ سے یہ ثابت کیا گیا کہ عیسیٰ بن مریم زندہ آسمان
 پر اٹھاتے گئے اور قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا جو قوم یہود سے ہوگا تو اسی
 وقت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے جو اس وقت
 یہود کا بادشاہ اور سردار ہوگا۔

کلمتہ ہر نکتہ اس میں ہے کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل
 کیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اور دجال جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوگا وہ بھی قوم یہود سے

ہوگا اور یہودی ہی اس کے متبع اور پیروہوں گے اس لئے حق تعالیٰ نے اس وقت
 تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور پھر قیامت کے قریب آسمان سے نازل
 ہوں گے اور دجال جو قوم یہودیوں سے ہوگا اور اس وقت یہودیوں کا بادشاہ اور سردار
 ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل سے ہو کر دجال کو قتل کریں گے تاکہ
 سب کو معلوم ہو جائے کہ جس ذات یعنی مسیح بن مریم کے نسبت یہودیہ کہتے تھے کہ ہم نے
 ان کو قتل کر دیا وہ سب غلط ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ آسمان پر
 اٹھالیا اور تمہارے اور تمہارے بادشاہ کے قتل کے لئے اس کو آسمان سے اتاریں گے۔

نصاری انصاف سے بتائیں

کہ سچے عیسائی ہم محمدی ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ حضرت علیؑ، الصلوٰۃ والسلام
 کو مقتول اور مصلوب اور ملعون مان کر دنیا بھر کے گناہوں اور پاپوں کا کفارہ ملتے ہیں اے
 علماء نصاریٰ۔ خدا را ذرا بتاؤ تو سہی کہ تم نے حضرت مسیح کی توہین و تذلیل میں کیا کسر چھوڑی۔
 اور مسلمانوں نے حضرت مسیح بن مریم کی تعظیم و تکریم اور ان کی عظمت و رفعت اور علوم و تربیت
 میں کیا فرگناشت کی۔ سچے عیسائی بتنا ہے تو محمدی ہو جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔



علامہ مسعودی حضرت مسیح بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں
لکھتے ہیں :-

هو عبد مقرب و نبی و رسول قد خضعه مولا
حضرت مسیح تو اللہ کے مقرب بندے نبی اور رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مخصوص بندہ بنایا تھا
ظہر منہ ذات و حباً
ان کی ذات کو پاک اور مُطہَّر بنایا پھر ان کو اپنی وحی اور علوم ہدایت سے سرفراز کیا
و بکن بدء مخلقة کلمة الله
و بکن بدء مخلوق براء
کلمہ رکن سے پیدا ہوئے اللہ کا کلمہ تھے بغیر باپ کے حضرت مریم بتول سے پیدا ہوئے
هكذا اثنان ربه خالق الخا
ق بکن کلهم فنعم الاله
خدا کی یہی شان ہے کہ جس کو چاہے کلمہ رکن سے پیدا کر دے خدا کی یہی شان ہے کہ کلمہ رکن سے پیدا کر دے
والا ناجيل شاهدات عنده
انما الله ربه لا سوا
تمام انجیلیں اس کی شاہد ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں
كان لله خاشعاً مستكيناً
راغباً رآهياً يرجي رضا
اور حضرت مسیح اللہ کے بندے تھے جو نہایت خشوع اور حضور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے
تھے اللہ کی محبت اور اس کی عظمت اور جلال کا خوف ہر وقت پیش نظر رہتا تھا ہر کام میں اللہ کی
رضا اور خوشنودی کی امید رکھتے تھے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہ تھے بلکہ خدا کے
عبادت گزار بندے تھے۔

ليس يحيى وليس يخلق الا
ان دعاه وقد اجاب دعاه
حضرت مسیح نہ کسی کو زندہ کرتے تھے اور نہ کسی کو پیدا کرتے تھے ان کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ
سے دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ خدا نہ تھے۔
انما اعل الجميع هو الله
ه ولكن على يديه قضا !

فاعل حقیقی اور اصل زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے بطور معجزات اور کرامت کبھی کبھی حضرت مسیح کے ہاتھ پر مردوں کو زندہ کیا اور اللہ کے کسی مقرب بندے کے ہاتھ پر اس قسم کے معجزات کا ظاہر ہونا ثبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ نہ کہ الوہیت کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السُّؤَالُ الْعَجِیْبُ فِی الرَّدِّ عَلٰی اَهْلِ الصَّلِیْبِ

ذیل میں فاضل ادیب شیخ احمد علی ملیحی مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فصیح و بلیغ قصیدہ مطلب تیز ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جس کو فاضل مرحوم نے السُّؤَالُ الْعَجِیْبُ فِی الرَّدِّ عَلٰی اَهْلِ الصَّلِیْبِ کے نام سے موسوم کیا تھا۔ یہ قصیدہ ۱۳۲۲ھ میں مصر سے شائع ہوا۔ علماء نصاریٰ سے آج تک اس عجیب سوال کا جواب نہیں ہو سکا اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور یہ انشاء اللہ بھی تینا اور تیرا گاہر رہا ہوں نہ کہ تعلیقاً فُلْیَا نُؤَا بَعْدَ فِیْمَ تَقْنَلِیْہِ اِنْ کَا نُؤَا صَادِقِیْنِ .

اَعْتَبَا دَعِیْسِی لَنَا عِنْدَکُمْ سُّؤَالُ الْعَجِیْبِ فَهَلْ مِنْ جَوَابٍ

اے عیسوی کے پرستارو ہمارا تم سے ایک عجیب سوال ہے پس کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے

اِذَا الْکَانَ عِیْسِی عَلٰی رَحْمِکُمْ اِلٰہًا قَدِیْرًا عِزًّا یُّرَاہِبُکُمْ

اگر تمہارے زعم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے قادر اور غالب اور مہیب و جلال والے تھے

فَکَیْفَ اَعْتَقَدْتُمْ بِاَنَّ الْاِلٰهَ کُوْدٌ اِذَا کُوْدًا بِالصَّلِیْبِ مَوْرَ الْعَذَابِ

تو پھر تم نے یہ عقیدہ کیسے قائم کر لیا کہ یہود نے ان کو صلیب دے کر تلخ عذاب چکھایا۔ کیا خدا

سے یہ قصیدہ منتخب التخیل لمن حرّفت التورات والانیجیل نعلامة المسعودی مطبوعہ مصر کے اخیر میں

بطور نکلہ طبع ہوا ہے ۱۲۔

کو بھی غلب چکھایا جاسکتا ہے۔

وَكَيْفَ اعْتَقَدْنَا نَمَّ بِأَنَّ الْإِلَهَ ۚ يَمُوتُ وَيَدْفَنُ مَحْتًا الْفَرَاتُ

اور کیا خدا بھی مر کر مٹی کے نیچے دفن کیا جاسکتا ہے

وَيَطْلُبُ مِنْ مَخْلِقِهِ شَرِبَتْ ۚ كَيْطُفِي عَنْ قَلْبِهِ إِلَّا لِيَهَابُ

اور کیا خدا بھی اپنی مخلوق سے پیاس بھانسنے کے لئے شربت کا پیالہ مانگ سکتا ہے

فَجَاءَ لَهُ وَاسِعًا تَمْرَهُمْ ۚ يَوْمَ لَا يُخَالِفُ لِلَّذِينَ الْفُرَاتُ

اور پھر کیا یہ ممکن ہے کہ خدا تو شربت مانگے اور اس کے بندے بجائے شربت کے سرکہ اور گڑا پانی لاکر خدا کو دے دیں۔

فَالْقَادِرُ فِي الْأَمْرِ جِنُّ بَعْضُ النَّاسِ ۚ ذَهَابَتْ سَخِيْفَةُ الظَّنِّ مَا ذَا الْبَيْتَابُ

اور پھر بندے اپنے خدا کو بعض وعداوت میں زمین پر ڈال دیں اور خدا تڑپ تڑپ کر پیاسا مچلتے

وَيُؤْتِيهِمْ ذُلًّا عَلَى سِرِّهِ ۚ مِنَ الشُّرُوكِ نَائِبًا يُشِيْبُ الْفُرَاتُ

اور کیا یہ ممکن ہے کہ بندے اپنے خدا کو ذلیل کرنے کے لئے کانٹوں کا آج اس کے سر پر رکھ دیں

أَسْأَلُ جِهَاتِي عَلَى سَخِيْبِي ۚ وَصَادَاتِي عَلَى وَجْهِهِ كَالْحِضَابِ

اور کیا یہ ممکن ہے کہ بندے خدا کو اس قدر خون آلودہ کریں کہ خون خدا کے رخساروں پر بہنے لگے

اور خدا کا چہرہ خون میں رنگین ہو جائے۔

وَقَدْ كَانَ يَبْهَمُ فِي وَجْهِهِ ۚ وَيُطْعَمُ فِي جَنْبِهِ بِالْعِصْرَابِ

اور کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کے چہرہ پر تھوکا جائے اور اس کے پہلو میں نیزہ مارا جائے۔

وَالَّذِي بَعْضُ الَّذِي قَدْ حَبْرِي ۚ عَلَيْهِ مِنَ النَّوْمِ طَبِيْعٌ وَشَابُ

یسود اور نصاریٰ کے زعم کے مطابق جو کچھ ماجرا پیش آیا اس میں کیا یہ کچھ نمونہ ہے۔

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا الْعُدَاؤُتِ ۚ إِلَهًا لَمْ تَسْتَعِزُّ مِنْ عِتَابِ

تغیب ہے کہ اس مجبوری اور لاچاری کے بعد ان کو خدا سمجھتے ہو اور مشرکاتے بھی نہیں۔

وَمَا هُوَ إِلَّا كَمَا تَلِيهِ عُبَيْدًا لِيَحَالِقَهُ ذُو الْقُرْبَاتِ

حالانکہ حضرت مسیح اور پیغمبروں کی طرح خدا کے ایک مقرب بندہ تھے

كَمَا قَالَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِتَقْصِيرِ حَمْرِ يُسْحَاقَ فِي الْبِكَتَابِ

جیسا کہ خود حضرت مسیح سے اس کا اقرار قرآن اور انجیل میں صراحتاً مذکور ہے

ذَكَوْكَانَ رَبًّا كَمَا تَزَعْمُونَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا الْكُشْفَ لِقَدَابِ

اگر حضرت مسیح خود خدا تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو پھر موت کا پیالہ ٹھلنے کی کس سے امید رکھتے تھے اور کس سے اپنی مصیبت ٹھلنے کی دعا مانگتے تھے کیا خدا میں دعا مانگا کرتا ہے۔

وَمَنْ ذَا الَّذِي رَدَّ رُوحَآءَهُ وَقَدْ كَانَتْ جَسْمَهُ بِالذِّهَابِ

اور مرنے کے بعد کس نے ان کی روح کو واپس کیا۔ کہہ ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی تھی

وَمَنْ كَانَ مِنْ بَعْدِهِ حَافِظًا نِظَاهَهُ الْوَجُودِ لِقَوْلِ الْإِيَابِ

اور ان کے مرنے کے بعد اس عالم کے نظام کا کون محافظ اور نگہبان تھا

أَدَبَتْ بِيَوْمِ الْبَيْتِ رَبِّي بِرَبِّهَا تَكْفَلْ أَمْ قَاتِلْ لِلْخِرَابِ

کیا کوئی اور خدا اس عالم کی تدبیر کا کفیل اور ذمہ دار ہوا یا یہ تمام عالم خراب اور برباد ہو گیا

وَهَلْ صَلْبُهُ كَانَ عَنْ رَدِّهِ وَالْإِعْلَامَ اسْتَدْحَقَّ الْعُقَابِ

نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارے زعم کے مطابق کیوں صلیب دی گئی۔ اگر کسی لغزش

کی بنا پر صلیب دیتے گئے تو لغزش کا صادر ہونا الوہیت کے منافی ہے اور اگر کوئی لغزش

نہیں ہوئی تو پھر بلا وجہ کیوں سزا کے مستحق ہوئے۔

وَهَلْ أَحْسَنَ الْعَوْمِ فِي صَلْبِهِ لِيَخْلِيصَ أَشْيَاخِيكَ وَالشَّبَابِ

نیز یہ بتلانے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح کو صلیب دی گیا یہ اچھا کام کیا کہ اس سے لوگوں کے

گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور تمام بوڑھے اور جوان گناہ کی لعنت سے رہا ہو جائیں۔

وَالْأَسَاؤُ بِجَلْبِ الْخَلَّاصِ لَكُمْ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابِ

یا برا کام کیا کہ تم کو گناہوں سے چھڑایا۔ تمہاری یہ بات نہایت عجیب ہے
فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ أَحْسَنُوا وَلَوْ لَا دُعِيَ عَائِشَةُ الصَّوَابُ

اگر تم یہ جواب دو کہ یہود کا یہ فعل نہایت مستحسن اور عین صواب تھا

أَقْلَ قَعَدَ مَ تَعَادُ وَ نَهَسُمُ وَمَنْ يَصْنَعِ الْخَيْرَ يُجِزِ الثَّوَابُ

تو پھر میں یہ کہوں گا کہ تم یہودیوں کے دشمنی کیوں رکھتے ہو جو خیر اور بھلائی کا کام کرے اس کو جہنم سے
خیر ملنی چاہیے نہ یہ کہ اس سے دشمنی کی جنتے۔

فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ أَجْرٌ مُمْسِكٌ يَصْلُبُ إِلَيْهِ وَيَبْسُ أَنْ مَصَابُ

اور اگر یہ کہو کہ انہوں نے خدا کو صلیب دے کر جرم کا ارتکاب کیا

أَقْلَ كَيْفَ هَذَا أَوْلَاكَ مَا تَخَلَّصْتُمْ مِنْ وَ حَبِئُوا النَّابُ

تو میں یہ کہوں گا کہ یہود اگر صلیب دے کر جرم کا ارتکاب نہ کرتے تو تم گناہوں کے برسے انجام
سے رہا نہ ہوتے یہودیوں کا یہ جرم ہی کفارہ کا سبب بنا۔

وَهَلْ دَعِيَ الصَّلْبُ أَمْ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ فَمَا هُوَ فَضْلُ الْخَطَابُ

نیز یہ بتلاؤ کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب دینے سے راضی تھے یا ناراض تھے اس بارہ میں کیا
قول فیصل ہے۔

فَإِنْ قَتَلْتُمُو صِدْقَهُ عَنْ رَضَى لِيَتَكْفِرُوا ذَنْبِ امْرِئِي مِنْهُ تَابُ

اگر یہ کہو واقعہ صلیب حضرت مسیح کی خوشی اور رضا مندی سے تھا تاکہ اس شخص کے گناہ کا
کفارہ ہو جائے جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی۔

وَ اعْرَفِي بِهِ اَدَمَ الْفَضْلِ مَنْ يَمُورًا كَمَا هِيَ اجْنِي قَدْ اَنَابُ

یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ ہو جاتے جنہوں نے لغزش کے بعد اپنے مولا
کی طرف رجوع کیا۔

وَسَامِعَهُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ ۖ وَذَٰلِكَ كُفْرًا بِمَا كُفِّرُوا ۚ

اور جن کو اللہ ہی نے اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق دی اور اپنے ہی فضل سے ان کی خطا کو معاف کیا اور خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا۔

فَإِنَّكُمْ كَذَّبْتُمْ عَلٰی رَبِّكُمْ ۖ

یٰۤاَصْحٰبِ الْكِتٰبِ لِمَا صَدَّقْتُمْ

فَقَدْ كَانَتْ يَدُ الرَّبِّ مِنْكُمْ ۚ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ سَمَوٰتِهِ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ سَمَوٰتِهِ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ سَمَوٰتِهِ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ سَمَوٰتِهِ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ سَمَوٰتِهِ

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ سَمَوٰتِهِ

اے باپ اگر میری رہائی ممکن ہو تو مجھ کو ان دشمنوں سے چھڑا اور نجات دے۔ ان سب

باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اس سے بالکل راضی نہ تھے۔

فَهٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰی اَنَّهُ

لَعَوْلَاكَ عَبْدٌ مُّبْتَلٰٓءٌ

وَهٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰی اَنَّهُ

نیز یہ عام موراس امر کی بھی واضح دلیل ہیں کہ تمہارا یہ قول کہ حضرت مسیح صلیب راضی تھے، بالکل غلط ہے۔

وَإِنْ قُلْتُمْ الصَّلْبُ فَهَمَّ اجْرٰٓءِي

فَيَا عَجُوْا سَرِيْعِيْنَ الْجَنَابِ

اور اگر یہ کہو کہ جبراً و قہراً ان کو صلیب دی گئی تو پھر خدا سے قادر و توانا کابندوں کے سامنے عاجز ہونا لازم آتا ہے۔

بِتَعْلِيْقِهِمْ قَوْقُ عُرْوَةِ الصَّيْبِ لَقَدْ جَاءَكَ الْعَنْ مِنْ كُلِّ بَابٍ
 کہ بندوں نے زبردستی خدا کو صلیب پر لٹکایا اور لعنت نے اگر ہر طرف سے خدا کو گھیر لیا
 اِحْيُوا سْؤَالِي وَلَا تُهْمِلُوْا فَاِنَّ الشُّكُوْتَ عَلَيْكُمْ يُعَابُ
 میرے اس سوال کا جواب دو آپ جیسے فضلاء کا نہ جواب دینا اور سکوت کرنا نہایت معیوب ہے
 وَهَاقَدْ نَصَحْتُ وَمَا رَدَّ جِيْ بِنُصْحِيْ لَكُمْ غَيْرَ حَسَنِ الثَّوَابِ
 میں نصیحت کر چکا اور خدا سے اجر اور ثواب کا امیدوار ہوں
 وَمَنْ لِيْ عَنِّيْ دِيْنَ حَيُّوْا لَوِ تَرَى وَاَنْ لَا تَمَآيْ هَوُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ
 اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر میرا خاتمہ ہو اور
 قیامت کے مصائب سے محفوظ رہوں آمین۔

فَاِنَّ تَقْبَلُوْكَ قَدْ اَمْتَصِدِيْ وَذِيْهِ سُرُوْرِيْ وَوَلِيْ يُسْتَطَابُ
 اگر تم میری اس نصیحت کو قبول کرو تو یہ عین مفسد ہے اور میری انتہائی مسرت اور
 خوشی ہے۔

وَإِلَّا كَأَنْتُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ وَقَدْ بَانَ مَا كَانَ خَلْفَ الْحِجَابِ
 ورنہ تم کو اپنا دین مبارک ہو۔ خوب سمجھ لو کہ حق سے پردہ اٹھ چکا ہے۔

الْجُنُونُ فُنُونٌ

انہی فاضل ادیب شیخ احمد علی ملیمی کا یہ دوسرا قصیدہ ہے جس کو فاضل مرحوم نے
 الجنون فنون کے نام سے موسوم کیا ہے وہ بھی ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے۔

قَوْمٌ عَيْبِيْ قَدْ نَعَا لَوْا فِيْهِ جَهْلًا وَصَلَا لَا
 نصاریٰ نے حضرت مسیح کے بارہ میں اپنی جمالت اور گمراہی سے بہت فلو کیا
 حَيْثُ قَالُوْا مَدُّ اَتَا هُمْ اَنْتَ رَبُّ قَالَ لَا لَا
 جب حضرت مسیح آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں حضرت مسیح نے فرمایا ہرگز نہیں

ہرگز نہیں۔

مَا أَنَا إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ رَبِّكَ

میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں

فَأَجَابُوهُ عِتَادًا لِّكَرِّمَتِي ذَا الْمَقَادِرِ

نصاری نے جواب دیا کہ ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانیں گے

إِنْ تَكُنْ مَا قُلْتَ حَقًّا وَصَحِيحًا لَا مَحَالَا

اگر یہ صحیح ہے کہ آپ خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں

كَيْفَ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ جِئْتَ يَا نُورًا سَلَاكًا

تو اسے نور مجسم و خطاب بہ حضرت مسیح (ع) اگر تو خدا نہیں تو پھر بغیر نکاح کے کیسے پیدا ہوا

قَالَ مَا هَذَا عَجِيبٌ بُوْرِيثِ الْفِكْرِ اسْتَبْعَاكَا

حضرت مسیح نے فرمایا یہ کوئی عجیب بات نہیں جس سے فکر کو نشوونما میں ڈالا جانے

مَا أَنَا إِلَّا كَجَدِّي أَدَمِ فِي الْخَلْقِ حَالَا

میں پیدائش میں اپنے جد امجد حضرت آدم کے مشابہ ہوان کی طرح بغیر باپ کے

پیدا ہوا ہوں۔

فَعَصَوْكَ شَمًّا فَسَلُّوا أَنْتَ رَبِّ لَأَجِدَاكَ

نصاری نے کہا۔ نہیں۔ ہم تو آپ کو خدا ہی مانیں گے

فَأَقْصِرِ الْقَوْلَ وَدَعَا يَا إِلَهَاتِنِ يَزَاكَا

اے مسیح آپ تو ان باتوں کو رہنے دیجئے آپ تو ہمارے خدا ہی ہیں

فَاعْجَبُوا يَا قَوْمِ مِنْهُمْ زَادَهُمْ تَرَفُّعًا حَتَاكَا

اے اقوام عالم نصاریٰ کی ان باتوں کو سنو اور تعجب کرو۔ اللہ تعالیٰ نصاریٰ کی

بد عقلی میں برکت اور ترقی دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱- اَعْبَادَ الْمَسِيحِ لَنَا سُؤَالٌ نُرِيدُ جَوَابَهُ مِنْكَ دَعَاةٌ
اے مسیح بن مریم کے پرستش کرنے والو! ہمارا تم سے ایک سوال ہے جو شخص ان کو
خدا کہتا ہو اس سے جواب چاہتے ہیں۔

۲- اِذَا مَا كِ الْاَلَاءُ يَصْنَعُ قَوْمٍ
جس خدا کو کوئی قوم اپنی تدبیر سے مار ڈالے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ خدا تو غالب ہونا ہے
مغلوب خدا نہیں ہوتا۔

۳- وَهَلْ اَرْضَاهُ مَا نَانُو لَمِنْهُ
فَبَشِّرْهُمْ اِذَا نَالُو اِمْرَانًا
اور نصاریٰ یہ بتلائیں کہ یہود کے اس ناپاک فعل (یعنی قتل و صلب کے جس کے آپ قائل ہیں)
نے حضرت مسیح کو خوش کیا یا ناراض کیا۔ اگر یہود نے اس فعل سے حضرت مسیح کی خوشنودی حاصل
کی ہے تو آپ کو چاہتے کہ یہود کو بشارت اور مبارک باد دیں۔

۴- وَانْ سَخِطَ الَّذِيْ فَعَلُوْهُ فِيْهِ
فَقُوَّتَهُمْ اِذَا اَوْهَتْ قُوَا
اور اگر حضرت مسیح یہود کے اس نازیبا فعل یعنی قتل اور صلب سے ناراض ہوتے تو پھر اس کا
مطلب یہ ہوا کہ ان کی قوت نے حضرت مسیح کی قوت کو کمزور بنا دیا۔ گویا کہ بندے خدا پر غالب
آگئے۔

۵- وَهَلْ بَقِيَ التَّوَجُّدُ بِلَا اِلٰهِ
سَمِيعٍ كَيْسَتْ جَدِيْبٌ لِمَنْ دَعَاةٌ
اور جب آپ کے نزدیک حضرت مسیح صلیبی موت سے مر گئے تو یہ بتلائیے کہ یہ عالم کون بغیر
خداوند سمیع و بصیر اور محبت الدعوات کے کیسے باقی رہا؟

۶- وَهَلْ سَخَلَتْ الظُّلْمَاتُ السَّبْعُ كَمَا
قُوِي تَحْتَ التُّرَابِ وَقَدْ عَدَاكَ
اور آپ کے نزدیک جب خدا صلیبی موت سے مر کر مٹی کے نیچے مدفون ہو گیا تو یہ بتلائیے

کہ یہ ساتوں آسمان کیا خدا سے خالی رہ گئے۔

۷۔ وَهَلْ عَلِمْتَ الْعَوَالِمَ مِنَ الْهِيَا يُدَبِّرُهَا وَقَدْ سَمِعْتَ يَدَاكَ

اور آپ کے نزدیک جب خدا کے دونوں ہاتھوں میں میخیں لگا دی گئیں تو کیا یہ سارے

جہاں اپنے تدبیر کرنے والے خدا سے خالی ہو گئے؟

۸۔ وَكَيْفَ اتَّخَذْتَ الزَّمْلَكَ عَنْهُ بِنَصْرِهِمْ وَقَدْ سَمِعُوا بِكِبَاكَ

اور آسمان اور زمین کے فرشتے حضرت یسح سے کیسے علیحدہ رہے۔ فرشتے صلیب پر ان

کے گریہ و بکا اور فریاد سنتے رہے مگر کوئی مدد نہ کی۔

۹۔ وَكَيْفَ أَطَّافَتِ التَّغَشَّيَاتُ حَمَلًا إِلَيْهِ الْحَقُّ مَشْدُودًا وَقَتَاةً

اور نصاریٰ یہ بتلائیں کہ چند کمریوں میں خدا کے اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی جس

حال میں دشمنوں نے شاہ کی گردن کو باندھ دیا تھا حالانکہ وہ صلیب کی کمری بھی اسی مخلوق تھی۔

۱۰۔ وَكَيْفَ دَنَى الرَّحْمَدُ يَدًا إِلَيْهِ حَتَّى يُخَالِطَهُ وَتَلْحَقَهُ إِذَا هَا

اور لوہے کی کیسے مجال ہوئی کہ خدا کے قریب جاتے اور اسکو تکلیف اور ایذا پہنچاتے

۱۱۔ وَكَيْفَ كَتَمْتُمْ آيَاتِي عِدَاةً وَطَالَتْ حَيَاتُ قَدْ صَفَعُوا أَقْفَاهَا

اور دشمن جو اسی خدا کے بندے تھے ان کو یہ کیسے قدرت ہوئی کہ اپنے ناپاک ہاتھوں کو خدا

کی طرف دراز کریں اور اس کے طملہ نیچے لگائیں۔

۱۲۔ وَهَلْ عَادَ الْمَسِيحُ إِلَى حَيَاتِهِ أُمُّ الْمُجَنَّبِي لَه رَبُّ سِوَاكَ

اور پھر مرنے کے بعد حضرت مسیح کس طرح دوبارہ زندہ ہوتے۔ وہ کون پروردگار ہے جس

نے ان کو دوبارہ حیات عطا کی۔

۱۳۔ وَيَا تَعْجَبًا لِقِيَرِ صَدْرِكَ رَبِّا وَاعْجَابٌ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاكَ

اور تعجب ہے اس قبر پر جس نے اپنے اندر خدا کو چھپا لیا۔ اور اس سے زائد تعجب

اس شکم مادر پر ہے جس نے اپنے احاطہ میں خدا کو محفوظ رکھا۔

۱۳۔ آفَاكَمْ هُنَاكَ تَسْعًا مِّنْ شَهْوَرٍ لَّدَى الظُّلُمَاتِ مِّنْ حَيْضٍ غَدَاةً
اور پھر نو مہینے تک پیٹ کی تار کیوں میں خدا کا قیام رہا اور خون مادر اس کی غذا رہی

۱۵۔ وَشَقَّ الْقَرْبَحَ مَوْلُودًا صَبِيغًا ضَعِيفًا قَاتِحًا لِلذَّيْ قَاتٍ
اور پھر شریک گاہ سے اس کی ولادت ہوئی ایسی حالت میں کہ منہ پستان کیلئے کھلا ہوا تھا

۱۶۔ وَيَا كُلُّ شَيْءٍ شَرِبْتُ مِنْ بِيَانِي يُبَدِّلُهُمْ ذَلِكَ هَلْ هَذَا إِلَه
اور پھر کھانا اور پینا اور بشری حاجتیں ان کے ساتھ لازم و ملزوم بنی رہیں کیا اتنی
حاجتوں والا بھی خدا ہو سکتا ہے۔

۱۷۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنَّا أَفْكَ النَّصَارَى سَيِّئَاتٍ كُلُّهُمْ عَمَّا أَوْتَرَاهُ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصاریٰ کے ان بہتانوں سے پاک اور بری ہے۔ قیامت کے دن
اس اذہا کی باز پرس ہوگی۔

اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے اور
رسول برحق تھے۔ جب ان کے دشمنوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت
جبرئیل کو بھیج کر زندہ اور صحیح و سالم آسمان پر اٹھایا اور وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ اور قیامت کے
قریب آسمان سے نازل ہونگے اور مسلمانوں کی مسجد میں اسکا نزول ہوگا اور مسلمان انکے ساتھ ہونگے
اور مسلمانوں کے پیشوا اور امام ہونگے اور تمام عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں وہ سب انکے
ہاتھ پر تائب ہونگے اور مسلمانوں کی طرح نصاریٰ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا برگزیدہ بندہ
اور رسول مانیں گے اور وہ جلال اور ہیولتوں کو قتل کریں گے تاکہ ان کے اس زعم فاسد کا کہ ہم نے
مسیح بن مریم کو قتل کر کے صلیب پر لٹکایا، باطل ہونا دنیا کے سامنے ظاہر جاتے۔

وَأَنحَرِدُ عَوَانِ انْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرَ خَلْقِهِ سَيِّدَانَا وَهَوْرَانَا

محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و علینا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔

۲۱ ذی الحجۃ الحرام ۱۳۸۰ھ ۱۱ جولائی ۱۹۶۰ء کان اللہ لہ و کان ہوئیلہ آمین۔

القول المحكم
في نزول علي بن مرتضى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَوَلَدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَٰلَتِهِ الْاَتْبَیْآءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآمُرًا وَنَهٰیہِمْ وَذُمًّا تَاٰتِیْمًا اَجْمَعِیْنَ
وَعَلَيْكُمْ سَامِعًا مِّنْكُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

تقاریف عمدت سے لے کر اس وقت تک تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وبارک وسلم جو نبی اسرائیل میں مریم عذراء کے بطن سے بغیر باپ کے نغمہ جبرئیل سے پیدا ہوئے اور پھر نبی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور یہودیوں سے یہود نے جب ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کو زندہ آسمان پر لے گئے اور جب قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا جو قوم یہود سے ہوگا اس وقت یہی عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ جو اس وقت یہود کا بادشاہ اور سردار ہوگا۔

نکتہ عملہ :- یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ان کو آسمان سے اس طرح اُتارے گا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ یہود بھڑبھڑ بولتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ وہ زندہ تھے آسمان سے نازل ہو کر تمہارے سردار کو قتل کریں گے اور تم سب کو ذلیل اور خوار کریں گے۔

تکمیلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر سے ہیں۔ کفار کے شر سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت معینہ کے لئے آسمان پر اٹھایا اور طویل عمر عطا فرمائی۔ جب عمر شریف ان مقام کے قریب ہوگی اور زمانہ وفات کا نزدیک ہوگا تو آسمان سے زمین پر اُتارے جائیں گے تاکہ زمین پر وفات ہو۔ کیونکہ کوئی انسان آسمان پر فوت نہ ہوگا۔ **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ**

وَفِيهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ -

ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔
(تکمہ ۳۴) دجال اولاً نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ عیسیٰ بن مریم
اس مدعی نبوت اور الوہیت کے قتل کے لئے آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے تاکہ معلوم
ہو جائے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مستحق قتل ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ
قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے اور انجیل بھی اس کی شاہد ہے
جیسا کہ ہم عنقریب اس کو ثابت کریں گے۔

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ احادیث
میں جس مسیح موعود کے نزول کی خبر دی گئی ہے اس سے اس کے مثل اور شبیہ کا آنا مراد ہے اور
وہ میں (یعنی خود مرزا) ہوں اور وہ مسیح بن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوتے تھے وہ
مقتول اور مصلوب ہوتے اور واقعہ صلیب کے بعد دشمنوں سے بھڑک کر کشمیر تشریف لاتے
اور ستاسی سال زندہ رہ کر شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے۔

افسوس اور صد افسوس

کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سفید بھوٹ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہیں مگر قرآن کریم
کی آیات، بیانات اور احادیث نبویہ پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں۔

یہ ناپسندیدہ اسلام کی ہدایت اور نصیحت کے لئے یہ مختصر رسالہ لکھ کر پیش کر رہا ہے جس میں
آنے والے مسیح موعود کی علامتوں اور نشانیوں کو قرآن اور حدیث سے بیان کیا ہے تاکہ مسلمان
کسی دھوکہ اور اشتباہ میں نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے
مسیح کی علامتیں بیان فرمائی ہیں مرزا صاحب میں ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔

مرزائیوں سے مخلصانہ اور ہمدردانہ استدعاء

اہل اسلام سے عموماً اور مرزائیوں سے خصوصاً نیا رنڈلانہ اور ہمدردانہ استدعاء کرتا ہوں کہ اس رسالہ کو خوب غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ مسیح موعود کی جو علامتیں احادیث میں آئی ہیں ان کا کوئی شمر بھی مرزا صاحب میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ دنیا فانی اور آتی جانی ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے خوب غور اور فکر کریں اور حق جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں کہ سے اللہ ہم کو صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرما اور اور مگر ای سے بچا اور قبول حق کی توفیق عطا فرما اور استقامت کی لازوال دولت سے مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین۔

اب میں دلائل شروع کرتا ہوں اور حق جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی رحمت اور عنایت کا طلب گار اور امیدوار ہوں۔

عَلَيْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْمَوْجِبُ الرَّحِيمُ مَا قَوْلُكَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَبِيدِهِ الرُّهْمَةُ التَّحْقِيقُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّيْمُ الْيَتِيمُ .

قرآن کریم

اولاً ہم قرآن کریم کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا اجمالاً ذکر ہے۔ بعد میں احادیث نبویہ کو ذکر کریں گے جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور اس درجہ تفصیل ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی تاویل کی گنجائش نہیں اور بعد ازاں اجماع امت نقل کریں گے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔

۱) قال تعالى وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ تَوْفِيقِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور نہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے حضرت

يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔
عیسیٰ پر ضرور ایمان لاتے گا اور قیامت کے

جمہور اہل علم کا قول ہے کہ اس آیت میں یہ اور قبل موت کی دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ناہج ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ "نہیں رہے گا کوئی شخص اہل کتاب میں مگر البتہ ضرور ایمان لے آئے گا (زمانہ آئندہ یعنی زمانہ نزول میں) عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے" چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔

"بیشک صحیح کس از اہل کتاب آلا البتہ ایمان آند عیسیٰ پیش از مردن او و روز قیامت عیسیٰ گواہ شد بر ایشان۔ (رقائد) مترجم می گوید یعنی یہودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آند از اہل کتاب۔"

امام ابن جریر طبری اور حافظ ابن کثیر اپنی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں زمانہ نزول کے اس واقعہ کا ذکر ہے جو حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر کی مراجعت فرمائیں اور یہی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ عقلمانی فتح الباری ص ۲۵۶ ج ۶ میں فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اس آیت میں ایک اور قرأت بھی ہے جس کا ذکر ہم نے اپنے رسالہ کلمۃ اللہ فی حیاة روح اللہ میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام اس کی مراجعت کریں۔

۲) قَالَ اللَّهُ عز وجل وَإِنَّ لَكُمْ لَلْآخِرَةَ
اور تحقیق وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ قیامت
ہیں قیامت کی پس اس بارے میں تم خود برابر شک
اور تردد نہ کرو اور اسے محض آپ کہہ دیجئے کہ
اس بارے میں میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ
عَدُوِّ الْمُؤْمِنِينَ

ہے کہیں شیطان تم کو اس راہ سے نہ روک دے تحقیق وہ تمہارا گھلا دشمن ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو علامات قیامت ماننا یہی سیدھا راستہ ہے اور جو اس سے روکے وہ شیطان ہے۔ امام حافظ عموالدین بن کثیر فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ نَعِمَ النَّاسُ مِنْهُ مِنْ حَضْرَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَقِيَامَتِهِ كَقَرِيبِ آسْمَانٍ مِنْ تَارِخِ هِرْنَا مَرَّيْهِ جَيْسَاكَ عَمْدًا لِدِينِ عَبَّاسِ رِضًا اِدْرَا بُوَيْرِيْرُهُ رِضًا اِدْرَا بُوَالْعَالِيَةِ رِضًا اِدْرَا بُوَالْمَلِكِيَّةِ اِدْرَا عَكْرِيْرُهُ اِدْرَا حَسَنَ بَعْرِيْرُهُ اِدْرَا قَنَادَةَ رِضًا اِدْرَا رِضْحَاكَ وَغَيْرِ هِمٍ مِنْهُ مَنْقُولٌ هُوَ جَيْسَاكَ وَرِضْحَاكَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الْاِيْمَانِ اِدْرَا حَادِيْثٌ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ حَضْرَةِ عِيسَى كَا نَزْوَلِ قَبْلَ اِزْ قِيَامَتِهِ ثَابِتٌ اِدْرَا مُعْتَقٌ هُوَ (تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۶ ج ۱۹)

حضرت مسیح بن مریم کی حواریں اپنے نزول کی بشارت

اور جھوٹے مسیحوں اور جھوٹے نبیوں کی خبر اور ان سے خبردار رہنے کی ہدایت

”خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں“ الخ انجیل متی باب ۲۴۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان مسیحیت اور جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق حضرت عیسیٰ کی ہدایت اور اپنے نزول کے مطابق حواریں کو بشارت دینا ناظرین کریں تاکہ موجب بصیرت اور باعث طمانیت ہو۔ وہ ہوں۔

انجیل متی باب ۲۴، ورس اول

(۱) اور یسوع نیکل سے نکل کر بار بار تھا (۳) اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے اگک اس کے پاس آکر کہا ہم کو بتا کہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے

اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ عبر دارا کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے گا کیونکہ ستیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (۱۱) اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ (۱۲) اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ (۱۳) مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی (۱۴) کی اس خوش خبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا (۱۵) کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک (۱۶) ہوئی نہ کہی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر گزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے (۱۷) اس وقت (۱۸) اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا (۱۹) کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں اور کھو میں نے تم سے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے (۲۰) پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا (۲۱) کیونکہ جیسے بجلی (۲۲) پونب سے کوئٹہ کو چم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا روز آنا ہوگا (۲۳) جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے (۲۴) اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور (۲۵) آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی (۲۶) اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدس اور جلال کے ساتھ (۲۷) آسمان کے بادلوں پر آنے دیکھیں گی اور زلزلے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اپنے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔

اجماع اُمت

علامہ سفارینی شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۹۰ ج ۲ پر لکھتے ہیں۔

”أما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة وإنما انكروا لثبوت الفلاسفة والملوحدة مما يعتد به خلاصه وقد انفكوا إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهناه الشريعة الجديدة وليس ينزل بشرية مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويتسلم الأمر من المهدى ويكون المهدى من أصحابه وأتباعه كما سأل أصحاب المهدى حتى أصحاب الكوفة الذين هم من أتباع المهدى كما مر“

شیخ اکبر قدس اللہ سرہ فتوحات مکیہ کے باب (۷۳) میں فرماتے ہیں۔

کا خلاف فی انه ينزل فی اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ (عیسیٰ بن مریم) آخر الزمان
آخر الزمان آئندہ میں نازل ہوں گے۔

الروحانیان تفسیر بحر محیط اور النہر الماد میں لکھتے ہیں۔۔۔ اجتمعت الامم علی ان عیسیٰ
حسی فی السلام ولن یُنزل فی آخر الزمان علی ما تضمنتہ الحدیث المتواترة ص ۲۴

مرزا غلام احمد کا اقرار و اعتراف

اس بات پر تمام سلف اور خلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہوگا تو
امت محمدیہ میں داخل ہوگا۔ ازالۃ الاویام ص ۵۲۹ حصہ دوم، سطر ۶۔

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ آنے والا مسیح وہی عیسیٰ
ابن مریم رسول اللہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
چھ سو برس پہلے گذرے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنی الہامی کتاب میں لکھتے ہیں۔

در درجہ مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے

دین اسلام جمیع آفاق میں پھیل جاوے گا۔ (ابراہیم احمدیہ ص ۴۹۸ و ص ۴۹۹)

احادیث نزول عیسیٰ بن مریم ﷺ

اس بارہ میں سب سے زیادہ جامع اور مکمل اور مفصل رسالہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند کا ہے جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ مع حوالہ کتب احادیث نزول کو جمع فرمایا ہے میرے علم میں اب تک اس موضوع پر اس کتاب سے زیادہ جامع کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یہ کتاب درحقیقت زہری وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب قدس اللہ سرہ سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کا املاء ہے جس کو مولانا المحترم مفتی محمد شفیع صاحب نے مرتب فرما کر اہل اسلام کے لئے ایک گراں قدر علمی اور دینی تحفہ پیش کیا۔ جزاء اللہ عن الاسلام والمسلمین خیر۔ اب ہم چند منتخب احادیث ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:-

<p>حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک قیام ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے یعنی شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے اور نثریہ کو قتل کر دیں گے اور جنگ کو ختم کر دیں گے اور مال کی اتنی بہتات کر دیں گے کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔</p>	<p>حدیث اول عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیسوا بشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی ینکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرۃ واقروا ان</p>
---	--

سنتھ و ان من اهل الكتاب لا
 لیؤمنن بہ قبل ہوتہ و توتم الفیتمہ
 یعنی عبادت کا ذوق اور شوق دلوں میں اس
 درجہ پیدا ہو جائے گا کہ ایک بچہ روئے زمین
 کی دولت سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا۔ پھر حضرت
 ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس کی تائید کے لئے
 چاہو تو یہ آیت پڑھ لو **و ان من اهل الکتاب**

رواہ البخاری و مسلم ص ۸۷ ج ۱

یعنی کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ ضرور بالضرور عینی پر عینی کی وفات سے پہلے ایمان
 لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ (عینی) ان پر شاہد ہوں گے۔

حدیث دوم | عن ابی ہریرۃ رضی
 اللہ عنہ ان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انتم
 اذا نزل ابن مریم فیکم واما مکم عنکم
 (رواہ البخاری و مسلم ص ۸۷ ج ۱) **وقی لفظہ**
لمسلم فامکم و فی لفظہ اخیری فامکم
 منکم و اخیر جہ احمد فی مسندہ ص ۸۷ **و لفظہ کیف بکم اذا نزل الم**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری
 خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ عینی
 بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام
 تم میں سے ہوگا یعنی امام مہدی تمہارے امام
 ہوں گے اور حضرت عینی علیہ السلام باوجود
 نبی اور رسول ہونے کے امام مہدی کا اقتداء کریں گے

ف اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عینی اور امام مہدی دو شخص الگ
 الگ ہیں۔ امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عینی ان کی اقتداء کریں گے۔

حدیث سوم | عن النواص بن اسمعان
 قال ذکر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم الدجال۔ الی ان
 قال فینا ہو کذلک ذ بعث اللہ
 المسیح بن مریم فینزل عند

نواص بن اسمعان سے مروی ہے کہ ایک روز نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور
 دیر تک اس کا حال بیان فرمایا اور آیت کا
 ترجمہ کا حصہ ہم نے چھوڑ دیا اور پھر اخیر میں یہ
 فرمایا کہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ یہ ایک

مشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر آسمان سے
اس شان سے نازل ہوں گے کہ اپنے دونوں
ہاتھوں کو دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے
ہوتے ہوں گے۔ جب اپنے سر کو جھکائیں گے
تو اس میں سے بوندیں ٹپکیں گی اور جب سر کو
اٹھائیں گے تو اس سے موت کے سے قطرے
ڈھلیں گے اور جس کا فرقہ ان کے سانس کی
ہوا لگے گی وہ مرجائے گا اور ان کا سانس وہاں
تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی یہاں
تک کہ وہ دجال کو (و مشق کے) باب لد مقام
پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اس

حدیث کو مسلم نے ص ۲۴ ج ۲ اور ابوداؤد نے ص ۱۳۵ ج ۲ اور ترمذی نے ص ۲۷۳ ج ۲ اور امام احمد
نے مسند میں ص ۱۸۱ و ص ۱۸۲ ج ۲ پر روایت کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ
کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ (عیسیٰ بن مریم)
نازل ہونے والے ہیں پس جب تم ان کو دیکھو تو
(ان علامتوں سے) ان کو پہچان لینا وہ ایسے شخص ہو
گے جن کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان

النارۃ البیضاء شرقی دمشق بین
مہر و ذین واصعاف کفیه علی اجنحة
ملکین اذا طأ طأ راسہ قطروا اذا رفعہ
تحدہ منہ جمان کالؤلؤ فلا یحصل
لکافر یجد ریح نفسه الاموات و
نفسہ ینتہی الی حیث ینتہی طرفہ
فیظلبہ حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ
الحدیث بطولہ۔

رواہ مسلم ص ۲۴ ج ۲ و ابوداؤد ص ۱۳۵ ج ۲
و الترمذی ص ۲۷۳ ج ۲ و احمد فی مسندہ
ص ۱۸۱ ج ۲ و ص ۱۸۲ ج ۲۔

حدیث چہام

دع عن ابی ہریرۃ رضی
ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال لیس بینی و بین
عیسیٰ نبی و انتہ نامل فاذا مرا بیتہ
فاعد فوہ رجل مریع الی الاحمرۃ و
البیاض بین مصورتین کان راسہ

بلہ اور مرزا دراز قد اور سیاہ نام تھا جیسا کہ اسکے دیکھنے والوں کا بیان ہے اور اسکے نوٹ کے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں ۱۱

ہوگا دور تکین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے ان کا جسم ایسا شفاف ہوگا گویا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے اگرچہ اس میں تری نہ پہنچی ہو پھر اسلام کے لئے لوگوں سے قتال کریں گے صلیب توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جو خنزیر موقوف کر دیں گے۔ ان کے نماد میں اللہ تعالیٰ سب مذہبوں کو مٹا دے گا سوائے اسلام کے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح و جال کو ہلاک کر دے گا پھر وہ (عیسیٰ بن مریم) زمین پر چالیس سال رہیں گے اس کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور امام احمد کی سند میں اس کے ساتھ یہ اضافہ اور ہے) اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح و جال کو ہلاک کر دے گا اور امانت داری تمام دوسرے زمین پر قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور پیٹے گائے کے ساتھ اور بھڑیے کرکڑی کے ساتھ چرنے لگیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھلیں گے اور وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ زمین پر رہیں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے حافظ عسقلانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور

يقطرون ان لم نصبه بل في قاتل الناس
على الاسلام فيدق الصليب ويقتل
الخنزير ويضع الجزية ويهدك الله في
زمانه الملك كدين الاسلام ويهلك
نسيح الدجال فيمكت في الارض
اربعين سنة ثم يموت فيصلى عليه
المسلمون (رواه ابو داؤد ص ۳۵ ج ۱۲)
واخرجه احمد في مسنده ويزاد فيه
ويهلك الله في زمانه النسيح الدجال
ثم يقع الامانة على الارض حتى توقع
الاسود مع الابن والنماسر مع البقر
والذئب مع الغنم ويلعب الصبيان
والغلمان بالحيات لا تهرهم فيمكت
ما شاء الله ان يمكت ثم يموت فيصلى
عليه المسلمون ويدين قلوبهم .

وقال الحافظ العسقلاني رواه

ابو داؤد واحمد باسناد صحيح

قدم الباری ص ۳۵۴ ج ۴ باب نزول

عیسیٰ بن مریم -

اس کی استاد صحیح ہے، فتح الباری صفحہ ۲۵ ج ۶ باب نزول عیسیٰ بن مریم۔

حدیث پنجم

عن ابن مسعود قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت
ليلة أسرى بي إبراهيم وموسى و
عيسى عليهم السلام فذكروا امر
الساعة فوردوا بهم ان إبراهيم
فقال لا أعلم لي بها فوردوا امرهم
الى موسى فقال لا أعلم لي بها فوردوا
امرهم الى عيسى فقال امر وجهتها
فلا يعلمها احد الا الله وفيما
عهد الى ربي ان الدجال خادج و
معي تصديان فاذا ربي ذاب كما
يذوب الرصاص

(مسند امام احمد مصنف ابن

ابن شيبه متن بيهقي)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب
معارف میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور
حضرت عیسیٰ خلیم السلام سے ملا پھر انہوں نے
قیامت کا تذکرہ کیا اور سب نے اپنے اس امر کی تحقیق
کے لئے حضرت ابراہیم کی طرف رجوع کیا تو انہوں
نے کہا کہ مجھے قیامت کے وقت کا کوئی علم نہیں
پھر سب نے حضرت موسیٰ کی طرف رجوع کیا تو
انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھ کو قیامت کے
وقت کا علم نہیں پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام
کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے
وقوع کا علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں
مگر جو احکام مجھے دیتے گئے ہیں ان میں ایک بات
یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور اس وقت میرا ہاتھ
میں دو کڑیاں ہوں گی جب وہ مجھ کو دیکھے گا

تو اس طرح پھل جلے گا جیسے سیر پھلتا ہے۔

حدیث ششم

اخبرنا ابو عبد الله

المخافظ ان ابوبكر

ابن اسحاق انا احمد بن ابراهيم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا
تمہارا جب کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوئے

ثنا ابی بکیر ثنی اللیث عن یونس عن ابن
 سرفاب عن نافع مولی ابی قتادة الانصاری
 قال ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلی
 علیه وسلم کیف انتم اذا نزل بن مریم من السماء
 اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ (اسناد اس
 روایت کی صحیح ہے)
 اور امام ہستی نے کتاب الاسماء والصفات
 ص ۳ میں اس کو لکھا ہے۔
 تنبیہ: اس روایت میں نزل کے ساتھ من السماء کا لفظ صراحتاً موجود ہے۔

حدیث ہفتم عن ابن عباس مرفوعاً
 قال الرجال اولی
 من یتبعہ سبعون الفاً من
 الیہود علیہم نتیجان (الی قولہ)
 قال ابن عباس قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فعند
 ذلک ینزل آحی عیسی بن مریم
 من السماء او جبریل اقیق اماماً
 هادياً وحکماً عادلاً علیہ برنس
 له مربوع الخلق اصلت سبط
 الشعربیدة حربۃ یقتل الدجال
 فاذا اقتل الدجال تضع الحرب
 او تارها فکان المسلم فیلقی
 الرجل الاسد فلا یہیجہ ویأخذ
 الحیة فلا تضرہ تنبت الارض
 کنباً ترها علی عهد آدم ویومن بہ

حضرت ابن عباس رضی سے یہ مرفوع روایت ہے
 کہ انہوں نے کہا کہ دجال کے اولین اتباع کرنے
 والے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ستر اونی چار لاکھ
 ہوں گے (اس کے پل کر) حضرت ابن عباس نے کہا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت
 میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے اقیق پہاڑ
 پر امام اور بادی اور حاکم اور عادل ہو کر نازل ہوں
 گے اور ان پر ان کا برنس ہوگا۔ وہ متوسط القامت
 اور کھلے ہوئے بال واہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں
 ایک نیزہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کر دیں گے اور
 جب دجال کو قتل کر ڈالیں گے تو لڑائی بالکل ختم
 ہو جائے گی اور اس درجہ امن اور سکون ہو جائے
 گا کہ آدمی شیر کے سامنے آئے گا تو اس سے شیر
 غصہ میں نہ بھرے گا اور سانپ کو آدمی اٹھاتے گا
 تو وہ اس کو نہ کاٹے گا اور زمین سے پیداوار حضرت
 آدم علیہ السلام کے زمانہ جیسی ہونے لگے گی اور

اهل الاسرائیل ویحکون الناس اهل
مذہب واحدۃ .

(اصحیح بن بشیر، کنز العمال ج ۲۶ ص ۲۶۶)

روئے زمین کے تمام لوگ ان پر (عیسیٰ بن مریم)
ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ایک ملت و ملتانی
بن جائیں گے۔

(اصحیح بن بشیر، کنز العمال ج ۲۶ ص ۲۶۶)

عن ابی ہریرۃ ر
حدیث ہشتم
مرفوعاً لیربصن

عیسیٰ بن مریم حکماً و اماً ما مقسطاً
و نیس لکن و جہا حاجاً او معتماً او
بیاتین قبری حتی یسلم علی و لا ینزل
عدیہ - (مسند درت حاکم)
وولگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ
بن مریم ضرور ضرور اتریں گے حاکم ہو کر اور سردار
منصف ہو کر اور ضرور وہ سفر کریں گے حج یا عمرہ
کے اور وہ ضرور آئیں گے میری قبر کے پاس اور ضرور
وہ مجھے سلام کریں گے اور ان کے سلام کا ان کو جواب

عن مجہم بن جاریہ
حدیث نہم
عن رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم قال یقتل ابن مریم
الرجال بباب لد هذا حدیث صحیح
وفی الباب عن عثمان بن حصین
و نافع بن عیینہ و ابی ہریرۃ و حدیث
ابن اسید و ابی ہریرۃ و کبیر بن عثمان
ابن ابی العاص و جابر و ابی امامہ و ابن
مسعود و عبد اللہ بن عمر و سمرۃ بن جندب
و القواس بن سمان و عمر بن عون و حدیث

حضرت مجہم بن جاریہ سے روایت ہے کہ رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مریم دجال کو
باب اُدیشا میں ایک جگہ میں قتل کریں گے
یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس باب میں عثمان بن
اور نافع بن عیینہ اور ابو ہریرہ اور حدیث ابن اسید
اور ابو ہریرہ اور کبیر بن عثمان ابن ابی العاص
اور جابر اور ابو امامہ اور ابن مسعود اور عبد اللہ
بن عمر اور سمرہ بن جندب اور قواس بن سمان
اور عمرو بن عون اور حدیث ابن یحییٰ رضی اللہ
عنہم سے حدیثیں منقول ہیں۔

ابن اسید و ابی ہریرۃ و کبیر بن عثمان
ابن ابی العاص و جابر و ابی امامہ و ابن
مسعود و عبد اللہ بن عمر و سمرۃ بن جندب
و القواس بن سمان و عمر بن عون و حدیث

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اس سے پیشتر زمین پر تھے بلکہ زمین کے مقابل آسمان پر تھے اور نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی اور پنیالیس برس زمین پر ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ قبر میں مدفون ہوں گے اور قیامت کو میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ابوبکر و عمر کے درمیان قبر سے

حدیث دہم | عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یترک عیسیٰ بن مریم الی الامراض فیتزوج ویولد له ویمکت خمسا و اربعین سمیة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فا قدم ان و عیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر . رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفا کتاب الاذاسہ ص ۷۷

اسٹوں گا۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے کتاب الوفا میں روایت کیا ہے۔

فَتِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

یہ دس حدیثیں مکمل ہوئیں

احادیث نبویہ

سرور عالم خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے بہت سے واقعات کی خبر دی ہے جن میں نزول مسیح اور خروج دجال اور ظہور مہدی کی بھی خبر ہے۔

چونکہ حضرت مسیح کا نزول اور قتل دجال اور ظہور مہدی یہ واقعات نہایت اہم تھے اس لئے حضور پر نور نے جس صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان ہر سہ امور کو بیان فرمایا شاید ہی کسی اور علامت قیامت کو اس تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہو۔

نزول مسیح کے بارے میں جو احادیث منقول ہوئیں علاوہ غیر معمولی تو اثر اور کثرت کے ان میں حقیقت نزول کی اس درجہ صراحت اور وضاحت کردی گئی کہ کسی ملحد اور زندیق کے لئے ذرہ برابر تاویل کی گنجائش نہیں رہی مثلاً احادیث میں حضرت مسیح کا نام اور لقب اور کنیت اور کیفیت ولادت اور والدہ مطہرہ کا نام اور ان کی طہارت و تراہت اور حضرت زکریا کی کفالت میں ان کی تربیت اور پھر حضرت مسیح کی صورت اور شکل اور قد و قامت اور ان کی نبوت و رسالت اور ان کے معجزات اور یہود بے بہود کی دشمنی اور عداوت اور رفع الی السماء اور قیامت کے قریب ملک شام میں آسمان سے نازل ہونا اور وہاں کو قتل کرنا اور نزول کے بعد چالیس پینتالیس سال دنیا میں رہنا اور نزول کے بعد نکاح کرنا اور اولاد کا ہونا۔ اور تمام روئے زمین پر اسلام کی حکومت قائم کرنا اور سوائے دین اسلام کے کسی مذہب کو قبول نہ کرنا۔ یہودیت اور نصرانیت کو یک لخت صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور لوگوں کے دلوں سے بغض اور کینہ کا نکل جانا اور مال پانی کی طرح بہا دینا اور صلیب کو توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا اور ہندوستان پر فوج کشی کے لئے لشکر روانہ کرنا اور حج بیت اللہ کرنا اور پھر مدینہ منورہ میں وفات پانا اور روضہ اقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مدفون ہونا اور اس کے سوا اور بھی علامتیں ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں بغرض اختصار صرف ان پر اکتفا کیا گیا۔

ناظرین ذرا انصاف تو فرمائیں

کہ کیا ان تصریحات کے بعد بھی کوئی ایسا اور اشتباہ باقی رہ گیا ہے اور کیا منزلتے قادیان میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جاتی ہے۔ اور دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا جو تمام مسلمانوں کا ہے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ میں اس کی تصریح ہے۔

مرزاٹیوں کی تحریف

اور کیا ان تصریحات کے تحت اب بھی مرزاٹیوں کی اس تحریف کی کوئی گنجائش ہے کہ احادیث میں نزول مسیح سے پیش مسیح مراد ہے۔

سبحان اللہ نزول سے تو ولادت کے معنی مراد ہونگے اور مسیح سے پیش مسیح مراد ہو گیا اور مریم سے مرزا صاحب کی ماں، چراغ نبی بن مراد ہو گئی اور دمشق اور بیت المقدس اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو لفظ احادیث میں آیا ہے ان سب سے قادیان مراد ہو گیا کیونکہ قادیان ان سب کی سمت میں واقع ہے اور باب لُد ہو کہ ملک شام میں ایک جگہ ہے اور جہاں حضرت مسیح دجال کو قتل کریں گے اس سے مرزا صاحب کے نزدیک لُدھیان مراد ہو گیا اور قتل دجال سے مناظرہ میں کسی عیسائی کو شکست دینا مراد ہو گیا۔ سبحان اللہ کیا دیوتا اس سے بڑھ کر کچھ اور کہہ سکتا ہے؟

نیز مرزا صاحب کو کرشن مہاراج ہونے کا بھی دعویٰ ہے اور کرشن مہاراج کافروں اور بت پرستوں کا اوتار ہے ظاہر ہے وہ مسیح بن مریم کے عین اور پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح کی صفات اور کرشن مہاراج کی صفات کا ایک ہونا قطعاً محال ہے۔

عدالت کی ایک نظیر اگر عدالت سے کسی شخص کے نام کوئی ڈگری ہو جاتے اور کوئی دوسرا شخص عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرے کہ وہ ڈگری

جس شخص کے نام ہوئی ہے اس سے وہ شخص حقیقتاً مراد نہیں بلکہ اس کا پیش اور شبیہ مراد ہے اور وہ پیش اور شبیہ میں ہوں اور اس کی جلتے سکونت سے میری جلتے سکونت مراد ہے کیونکہ میری جلتے سکونت اس کی جلتے سکونت کی سمت اور محاذات میں واقع ہے تو کیا عدالت اس دعویٰ کی سماعت کی اجازت دے سکتی ہے؟ **مقام حیرت** ہے کہ مکاتبات اور سرکاری مراسلات میں صرف نام اور معمولی پتہ کافی ہو جاتا ہے اور کسی

کو اشتباہ نہیں ہوتا لیکن حضرت مسیح بن مریم کے بارے میں باوجود ان بے شمار تصریحات کے اشتباہ کی گنجائش لوگوں کو نظر آتی ہے اور قادیان کے ایک دیہقان کی ہرزہ سرائی اور مجنونانہ بکراؤں کے سننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا دیوانہ گفت الیہ باور کرو۔ کوئی شخص کسی کے نام کا خط یا رجسٹری یہ کہہ کر وصول نہیں کر سکتا کہ میں مکتوب الیہ کا شبیہ اور مثل ہوں اور میرا مکان اسی سمت میں واقع ہے۔ مرزا صاحب اگر ڈاک الیہ سے کسی کے نام کی رجسٹری یہ کہہ کر وصول کر لیتے کہ میں اس مکتوب الیہ کا مثل اور شبیہ ہوں اسی وقت مسئلہ مماثلت کی حقیقت منکشف ہو جاتی یا مثلاً کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں اس لئے کہ قائد اعظم تو مرچکے ہیں اور میں ان کا ظل اور بروز ہو کر آیا ہوں لہذا میرا حکم ماننا ضروری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مرزا صاحب اگر کسی کا روز ہو سکتے ہیں تو میلہ کتاب اور اسود غنسی کا روز ہو سکتے ہیں۔ اگر مرزا صاحب دعوت نبوت اور مدویت میں صادق ہو سکتے ہیں تو دوسرے مدعیان نبوت اور مسیحیت اور مدویت جو مرزا صاحب سے پہلے گذر چکے یا آئے ہیں ان کے کاذب ہونے کی کیا دلیل ہے اس کو بتلایا جائے۔

احادیث نزول کا تو اتر | نزول عیسیٰ بن مریم کی احادیث یا جماع محدثین درجہ تو اتر کو پہنچی ہیں اب ہم بطور نمونہ چند ائمہ حدیث و تفسیر

کی شہادتیں اس بارہ میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول

عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیمة اما ما عادلا وحكما مختصضا۔ ۱۰

اور علامہ آلوسی روح المعانی ص ۱۰۰ میں لکھتے ہیں۔

ولا لقدم فی ذلك (ای ختم النبوة) اما اجتماع علیہ الامتة واشتہرت

ذیہ الاخیار ونطق بہ الكتاب علی قول ووجوب الایمان بہ وکفر منکرہ کالفلاسفة

من نزول عیسیٰ عنینہ، انسلام فی آخر الزمان لانہ کان نبیاً قبل تعلی نبینا صلی اللہ
عزینہ وسلم بالنبوۃ فی ہذہ النسخۃ ۵۹

اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری اور تخیص الجبیر میں تصریح کی ہے یہ کہ حدیث نزول کن
متواتر ہے۔ کذا فی عقیدۃ الاسلام ص ۶۔

علامہ شوکانی اپنی کتاب ترویج میں لکھتے ہیں:-

وجیبہ ما سقناہ بالغ حہ التواتر کما لا یخفی علی من لہ فضل اطلاق تنقیر
یجمع ما سقناہ فی ہذا الجواب ان الاحادیث الواردۃ فی المہدی المنتظم ومتواترۃ
وارحہ حدیث الواردۃ فی الدجال متواترۃ والاحادیث الواردۃ نزول عیسیٰ متواترۃ۔

مرزے قادیان کی جبات

مرزے قادیانی نے اول تو یہ کوشش کی کہ نزول مسیح کی روایتوں پر کوئی جرح کرے مگر
جب گفٹاش تہذیبی تو صحابہ کرام پر زبان طعن دراز کی اور بے تحاشیہ کہہ دیا کہ وہ دہلی ابوہریرہ
رضی اللہ عنہم ایک غبی شخص تھا۔ دیکھو اعجاز احمدی ص ۵۶ و ۵۹ اور حضرت عبداللہ بن مسعود
کے متعلق یہ کہہ دیا کہ وہ ایک معمولی انسان تھا۔ دیکھو اعجاز احمدی ص ۵۶ سہان اللہ مرزا صاحب
اور ان کے صحابہ تو بڑے ذکی اور سمجھ دانہ ہیں اور بڑے غیر معمولی انسان ہیں۔ بھلا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مرزا صاحب کے برابر کہاں کھڑے ہیں۔

مگر جب علماء اسلام نے احادیث نزول کا ایک بے پایاں دفتر پیش کر دیا تو مرزا صاحب
جھنجھلا کر کہنے لگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مریم اور دجال کی حقیقت کا مکمل منکشف
نہ ہوئی تھی۔ انزالہ الادب ص ۵۹

مطلب یہ ہوا کہ سہان اللہ مسیح موعود اور دجال کی صحیح حقیقت کو مرزا صاحب تو
سمجھ گئے مگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہ سمجھے کہ بھلے مرزا غلام احمد کی ولادت

کے عیسیٰ بن مریم کا نزول سمجھ گئے اور کسی حدیث میں یہ نہ فرمایا کہ نزول مسیح سے قادیان ضلع گورداسپور میں مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ کا آنا مراد ہے بلکہ ساری عمر یہی فرماتے رہے کہ عیسیٰ بن مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی وہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے منارہ شرقی پر آسمان سے اتریں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضورؐ کے اس بیان سے ساری امت گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور ابن چراغ نبی کو چھوڑ کر ابن مریم کے خیال میں محو ہو گئی حتیٰ کہ چراغ نبی کے بیٹے کو بصد حسرت یہ شعر کہنے کی لوبت آئی ہے

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

اور مسلمان یہ پڑھتے ہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک

(ایک طرفہ) طرفہ یہ ہے کہ مرزا صاحب جن مسیح بن مریم کے شیل اور شبیہ ہونے کے مدعی ہیں دل کھول کر ان کو مغلط گالیاں بھی دیتے ہیں اور ایسی تمہتیں لگاتے ہیں کہ جو آج تک کسی یہودی نے بھی نہیں لگائیں ہم میں تو ان گالیوں کے نقل کی بھی ہمت نہیں ان کے تصور سے بھی دل کا پتا ہے کسی کا دل چاہے تو مرزا میوں سے اور مرزا صاحب کی کتابوں سے اس کی تصدیق کرے سب کو معلوم ہیں۔

مسیح موعود کی صفات اور علامات

حق جل شاتہ کے فضل اور رحمت اور اس کی توفیق اور عنایت سے امید واثق ہے کہ آیات شریفہ اور احادیث مذکورہ بالا سے ناظرین اور قارئین پر مسیح موعود کی حقیقت اور اس کے نزول کی کیفیت پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسیح موعود کی صفات اور علامات کو ایسی خاص ترتیب کے ساتھ پیش کریں کہ جس سے ناظرین کرام کو وسیع آسمانی اور مرزائے آں جہانی کا فرق آنکھوں سے نظر آجائے۔

مرزا صاحب کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسیح بن مریم وفات پائے اس لیے
میں غلام احمد باشندہ قادیان مسیح ہو سکتا ہوں۔ یہ دلیل بعینہ اسی دلیل ہے کہ کوئی شخص
دعوئی کرے کہ شہنشاہ انگلستان کا انتقال ہو گیا اس لئے میں ان کے قائم مقام ہو سکتا
ہوں بے شک عقلاً سب کچھ ممکن ہے لیکن مدعی کے لئے بادشاہ کی صفات اور خصوصیات
کا حامل ہونا بھی ضرور ہے محض کسی بادشاہ کے مرجانے کو اپنی بادشاہت کے لئے دلیل
بنانا مضحکہ خیز ہے اور جو ایسے دلائل سننے پر آمادہ ہو وہ بھی اسی حکم میں ہے۔

احادیث مذکورہ بالا سے یہ امر روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آنے والے مسیح سے وہی
عیسیٰ بن مریم رسول اللہ مراد ہیں جن کی ولادت اور نبوت اور معجزات کے واقعات قرآن
کریم میں مذکور ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مراد نہیں کہ جو ان کا مثل اور شبیہ ہو۔
عمر صوابہ اور تابعین سے لے کر اس وقت تک پوری امت کے علماء اور صلحاء اور محدثین
نے یہی سمجھا اور یہی عقیدہ رکھا کہ نزول مسیح سے اسی مسیح بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جو نبی کریم
علیہ السلام سے چھ سو برس پہلے بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور جن پر انجیل نازل ہوئی
اور مریم عذراء کے بطن سے بغیر باپ کے نوزاد ہوئے جن کا مفصل قصہ قرآن
کریم میں مذکور ہے۔

مرزائیوں سے ایک سوال کیا کوئی مرزائی کسی حدیث یا صحابی یا تابعی یا امت محمدیہ
میں ہے کسی عالم کا کوئی قول پیش کر سکتا ہے کہ قرآن

و حدیث میں جس مسیح بن مریم کے نزول کی خبر دی گئی ہے اس سے مراد مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا
غلام احمد ہے جو چراغ نبی کے پیٹ سے قادیان میں پیدا ہوا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت
ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مرزا غلام احمد کا باپ غلام مرتضیٰ موجود تھا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر ابوہریرہ رو کا حدیث نزول کو روایت کر کے بطور استشاد
آیت کا پڑھنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود انہیں

مسیح بن مریم کے نزول کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں یہ آیت اتھری کوئی دوسرا مسیح مراد نہیں۔ امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث و تفسیر کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کو ذکر کرنا بھی اس امر کی صریح دلیل ہے۔ کہ احادیث میں انہی عیسیٰ بن مریم کا نزول مراد ہے جن کی توفی اور رفع الی السماء کا قرآن کریم میں ذکر ہے قرآن اور حدیث میں جہاں مسیح بن مریم کا ذکر آیا ہے دونوں جگہ ایک ہی ذات مراد ہے بے مثال جھوٹ | مرزا اور مرزا یوں کا یہ دعویٰ کہ آسنے والے مسیح بن مریم سے مرزا غلام احمد پنجابی مراد ہے ایسا سفید جھوٹ ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔

مرزائی جماعت سے ایک اور سوال | جب آپ کے نزدیک حقیقت مسیح کا آنا مراد نہیں بلکہ مثیل اور شبیہ کا آنا مراد ہے تو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جن لوگوں نے نبوت اور مسیحیت کا دعویٰ کیا ان کے کاذب ہونے کی کیا دلیل ہے۔ آپ کے نزدیک مرزا سے پہلے جن لوگوں نے نبوت اور مسیحیت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے تھے اور جنہوں نے مرزا کے بعد نبوت اور مسیحیت کے دعوے کئے وہ بھی جھوٹے۔ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بیان کیجئے۔ جس دلیل سے یہ سب مدعی جھوٹے ہیں اسی دلیل سے آپ بھی جھوٹے ہیں اور جن مثیل سے آپ سچے ہیں اسی دلیل سے یہ بھی سچے ہیں بلکہ مرزا صاحب کا مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ اور اقرار اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مرزا صاحب اپنے اعتقاد میں بھی اصلی مسیح نہیں بلکہ نقلی اور جعلی مسیح ہیں اور نقلی اور جعلی چیز جھوٹی اور کھوٹی ہوتی ہے اور جعلی سکہ کو قبول کرنا دانشمند کا کام نہیں۔

مرزا صاحب کو یقین کامل تھا کہ میں اصلی مسیح نہیں اس لئے اپنے کو مثیل مسیح بتلاتے تھے اور پھر طرہ یہ کہ اس نقل اور جعل کو اصل سے افضل اور اکل بتلاتے تھے۔

اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند صفات اور علامات کو بدریہ ناظرین کرتے ہیں تاکہ ناظرین بخوبی یہ معلوم کر سکیں۔ کہ مرزائے قادیان کا یہ دعویٰ کہ میں مثیل مسیح ہوں اگر صحیح ہے تو مرزا صاحب اپنے میں ان صفات اور علامات کا ہونا ثابت کریں جو آنے والے مسیح کی احادیث میں مذکور ہیں۔

مرزائے آن جہانی پر ان کا انطباق	الفاظ حدیث اور ان کا مطلب
<p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آنے والے مسیح کے اوصاف بیان فرماتے۔ پہلا وصف یہ کہ وہ ابن مریم ہوگا۔ یعنی اس مریم کا بیٹا ہوگا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور مرزائے آن جہانی غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا جو چورخ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ ابن مریم کے نزول سے ابن غلام مرتضیٰ قادیانی کی پیدائش مراد ہے حدیث کے ساتھ متفق ہے۔ دوسرا اور تیسرا وصف اس آنے والے مسیح کا یہ بیان فرمایا کہ وہ دنیا کا حاکم اور عادل ہوگا مرزا صاحب کو قادیان جیسے گاؤں کی بھی حکومت حاصل نہ تھی اہل صلیب کے محکوم اور دعا گو تھے (اور علیٰ ہذا) عدل اور انصاف پر قادر بھی تھے۔ جب کبھی مرزا صاحب پر کہیں کوئی ظلم ہوتا تو اس کے عدل و انصاف کے لئے انگریزی عدالت میں عدل و انصاف کی درخواست پیش کرتے اور گورنر اور سپر کے حکام سے ملتے اور کچھری میں جا کر ادب سے ان کو سلام کرتے اور صلیب پرستوں کا ٹکڑے اور انکا سکہ استعمال کرتے۔</p>	<p>عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیداه لیوشکی ان ینزل فیکھ ابن مریم حکمًا عدلاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عنقریب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے وہاں حلے کہ وہ حاکم اور عادل ہوں گے شریعت محمدیہ کے موافق فیصلہ کریں گے۔</p>

فیکسور الصلیب و یقتل الخنزیر۔
 یعنی وہ مسیح نازل ہو کر صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔
 یعنی آپ کے دور حکومت میں عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ
 ہو جائے گا اور کوئی صلیب پرست اور خنزیر خوردہ باقی نہ رہے
 گا۔ خنزیر کے قتل کو خاص طور پر اس لئے ذکر فرمایا کہ تمام جانوروں
 میں خنزیر بے حیائی اور بے غیرتی میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں وہ ہی بے حیائی اور بے غیرتی میں
 مشہور ہیں حضرت مسیح کی آمد کی برکت سے زمین سے بے غیرتی اور
 بے حیائی نیست اور نابود ہو جائے گی۔ بے غیرتی اور بے حیائی
 اور اس قسم کے عیش و عشرت کے سامان سب ختم فرمادیں گے
 اور اس قسم کے عیش و عشرت کے سامان سب ختم فرمادیں گے۔

تسلیمہ، جانتا چاہتے کہ بے غیرت آدمی کبھی بہادر نہیں ہوتا جب
 بے غیرتی آتی ہے دل سے شجاعت نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ اس جنگ عظیم میں گوروں کی فوج اس شجاعت کے ساتھ
 نہ لڑ سکی جو مسلمانوں کی فوجوں نے جاپان اور جرمن کے مقابلہ
 میں بہادری دکھلائی۔ بہادر تو مسلمان ہی ہے۔ صاحب بہادری
 بہادر نہیں اس کے پاس سامان بہت ہے۔ ایک کمزور لڑکی
 جس کے پاس رائفل ہو ایک نشتہ فوجی جرنیل پر گولی چلا سکتی
 ہے مگر بہادر نہیں کہلا سکتی۔

و یضع الحرب
 اور وہ مسیح آکر لڑائی کو اٹھادے گا۔ اور ایک روایت میں
 ہے و یضع الجزیۃ یعنی جزیرہ کو اٹھادے گا۔ یعنی سب سکے۔ ساری عمر نصاریٰ کے باج
 مرزا صاحب دوسروں کا جزیرہ تو
 کیا اٹھاتے وہ اپنا ہی جزیرہ نہ اٹھا

مسلمان ہو جائیں اور کوئی کافر اور ذمی باقی نہ رہے گا جس پر گذار رہے اور اپنا افلاس ظاہر
بجز یہ اور خراج لگایا جائے۔

قائدہ۔ اس حدیث سے صحت ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کرتے رہے۔

علیہ السلام جہاد اور جزیہ کو منسوخ نہیں فرمائیں گے بلکہ اس
وقت جہاد اور جزیہ کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی کیونکہ
اس وقت کوئی کافر ہی نہ رہے گا جس سے جہاد کیا جائے
اور جزیہ لیا جائے۔ منسوخ تو جب ہوتا کہ کافر باقی رہتے
اور پھر ان سے جہاد اور جزیہ اٹھالیا جاتا۔

نیز اس وقت جہاد اور جزیہ کا ختم ہو جانا نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے۔ حضرت عیسیٰ کا حکم نہیں۔ حضرت
مسیح نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے اس حکم کو جاری
اور نافذ فرمادیں گے۔

مرزا صاحب کے زمانہ میں اس

مرزا صاحب قادیان

میں پیدا ہوئے ہندوستان سے

اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور

مسلمان غریب اور فقیر ہوتے تھے کہ

مرزا صاحب بھی لوگوں سے اپنے

مکان اور نگر خانہ اور پریس اور کتب

خانہ کے لئے چندہ مانگنے پر مجبور

ہوئے۔

و یفیض المال حتی لا یقبلہ احد

اور مال کو پانی کی طرح بہادیں گے۔ یعنی حضرت مسیح کے

زمانہ میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ سب غنی ہو جائیں گے

اور کوئی صدقہ اور خیرات کا قبول کرنے والا نہ ملے گا۔

حتیٰ تکون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا وما فیہا
 یعنی حضرت مسیح کے زمانہ میں عبادت ایسی لذیذ ہو جائے
 گی کہ ایک سجدہ کی لذت کے مقابلہ میں دنیا و ما فیہا کی دولت
 حقیر معلوم ہوگی۔ یہاں یہ معنی ہیں اس زمانہ میں اللہ کا تقرب
 حاصل کرنے کا ذریعہ صرف سجدہ اور عبادت رہ جائے گا۔ اور
 اور زکوٰۃ کا ذریعہ ختم ہو جائے گا اس لئے کہ سب غنی ہو جائیں
 گے صدقہ لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔

مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا
 پرستی کے بجائے دنیا پرستی اور
 نذر پرستی کا غلبہ ہوا حتیٰ کہ مرزا
 صاحب کا گھرانہ عشرت کدہ بنا
 اور ابھی مرزا صاحب کے خلیفہ
 ماشد مرزا محمود زندہ ہیں ان کے
 گھرانہ کو بجا کر دیکھ لو۔ فرنگی کی معاشرت
 اور ان کی معاشرت اور سامان
 عیش و عشرت میں کوئی فرق نہ
 پاؤ گے اور خداوند ذوالجلال سے
 غفلت کے جملہ سامان تم کو نظر
 آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
 اس شر اور فتنہ سے محفوظ رکھے
 آمین ثم آمین۔

گرچہ درویشی بود سخت اے سپر
 ہم زردوشی نباشد خوب تر
 اس آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہوا
 کہ حضرت مسیح کے زمانہ میں تمام
 لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں

ثم یقول ابو ہریرۃ و اعترأوا ان شئتم و ان من اهل
 الکتب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ و یوم الیقین
 یكون علیہم شہیداً۔

گے۔ مرزا صاحب کے زمانہ میں
 اس کے برعکس ہوا۔ یہود اور نصاریٰ

ابو ہریرہؓ حضرت مسیح بن مریم کے نزول کی حدیث بیان
 کرنے کے بعد حاضرین مجلس سے فرماتے کہ تم نزول مسیح

کے بارے میں قرآن کریم سے شہادت پتا چلتے ہو تو یہ آیت پروردگار کے بارے میں داخل ہوئے جو
 لَوْ دَانُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی حضرت مسیح کے بچاؤ کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود
 نزول کے بعد یہود اور نصاریٰ میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے مگر مرزا صاحب کے آنے کے
 رہے گا کہ جو حضرت مسیح پر حضرت مسیح کی وفات سے پہلے ایمان بعد وہ بھی اسلام سے خارج ہو
 نہ لے آئے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی تھی ختم ہوئی۔
 خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کے زمانہ میں تمام یہود اور نصاریٰ کے روئے زمین پر کون مسلمان
 اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

باقی تر رہا۔
 مرزا صاحب کے ہاتھ پر اتنے
 لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے جتنا کہ
 شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور خواجہ
 معین الدین اجمیریؒ کے ہاتھ
 پر مسلمان ہوئے۔ ہندوستان تو
 سارا کفرستان تھا اولیاء اللہ اور
 علماء اور صلحاء کے مواعظ سے کروڑوں
 ہندو مسلمان ہوئے مگر مرزا صاحب
 کی ذات سے اسلام کو کوئی فائدہ
 نہ پہنچا مرزا صاحب کی وجہ سے
 ہندو اور عیسائی تو مسلمان نہ ہوتے
 البتہ ہمت سے مسلمان مرتد ہو
 گئے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِمْ رٰجِعُوْنَ۔

مرزا صاحب کا اپنے اقرار کے بموجب کاذب ہونا

اس متفق علیہ حدیث کی بناء پر تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب مسیح موعود نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھئے کہ مرزا صاحب اپنے صریح اقرار اور قول کے بموجب بھی مسیح موعود نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب کا مقولہ ہے کہ "میں عیسیٰ پرستی کے سنتوں کو توڑنے کے لئے آیا ہوں اور اس لئے کہ مجھے تہلیل پرستی کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالیت شان کو خراب کر دوں پس اگر مجھ سے کروڑوں نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ عدت غانی ظہور میں نہ آئے تو میں بھوٹا ہوں اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود کو کرنا چاہیئے تھا تو میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں بھوٹا ہوں" یہ مضمون اخبار ابدرد مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء میں ہے اور اس کی مزید تائید اسی اعلان کے حاشیہ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ سے ہوتی ہے جو حقیقۃً الہامی کے استخراج مرتبہ سے پہلے ہے اس کی عبارت یہ ہے "میں کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عاجز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہو اس دنیا سے اٹھایا نہ جاؤں گا کیونکہ خدا نے تعالیٰ کے وعدے اٹل ہوتے ہیں اور اس کا ادارہ نہیں ٹک سکتا" پھر اس حاشیہ کے شروع میں یہ بھی ہے کہ "میرا یہ اعلان میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے"

بے شک

یہ اعلان من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آپ کی حقیقت واضح کرنے کے لئے واضح اور صریح اعلان آپ کی زبان اور قلم سے کرایا ہے تاکہ مسلمان عموماً اور مرزائی خصوصاً مرزا صاحب کے صدق اور کذب کو مرزا صاحب کے قول کے بموجب بھی جانچ لیں۔ الحمد للہ۔ مرزا صاحب دنیا سے چلے گئے اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تہلیل پرستی کا سنتوں کو خراب کرنا اپنی جگہ سے بھی نہ ہوا۔ اسلام کو کوئی غلبہ نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس

عیسائیوں کو ترقی اور عروج ہوا اور اسلامی حکومتیں ختم ہوئیں اور جہاں جہاں مسلمان تھے وہ نصاریٰ کے محکوم اور تختہ جوڑو بن گئے اور مرزائی امت تو نصاریٰ کی زر خریدی غلام ہی بن گئی جس کا فریضہ دینی اور دنیوی نصاریٰ کی شکرگداری اور دعاگوئی ہو گیا۔ غور تو کیجئے کہ تیرہ سو سال سے جس مسیح کی آمد کی خوشخبری مسلمانوں کے کانوں میں گونج رہی ہے معاذ اللہ کیا وہ ایسا ہی مسیح ہے کہ جو صلیب پر ستوں اور اسلامی حکومتوں کے دشمنوں کا مداح اور شاخوں ہوا اور ان کے شکر اور دعائیں مع اپنی تمام امت کے رطب اللسان ہو اور اسلامی حکومتوں کے زوال پر حیران کرنے والا ہو اور مسلمانوں کے قاتلوں کو مبارک باد کے تار دینے والا ہو۔ مسیح کا کام تو کفر کی حکومت کو ختم کرنا ہے نہ کہ دشمنان اسلام کی تائید اور حمایت کرنا اور ان کی بقاء اور ترقی کے لئے دل و جان سے دعا کرنا اور ان کے سایہ کو سایہ رحمت سمجھنا۔

مرزائیوں! خدا را غور کرو اور اپنے اوپر رحم کرو

اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ایک جھوٹے کے پیچھے اپنی عاقبت نہ خراب کرو اور ان احادیث کو دہراؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے مسیح کے نشانات اور علامات بتلائی ہیں ان میں غور کرو کہ ان کا کوئی شہ اور شاہد بھی مرزا صاحب میں پایا جاتا ہے حاشا وکلا۔ بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مسیح موعود کی علامت اور نشانی بتلائی ہے مرزا صاحب میں وہ نشانی صرف ملقود ہی نہیں بلکہ اس کی ضد اور صریح نقیض ان میں موجود ہے۔

مرزائیوں! آں جہانی کی ہانچ و پڑتال	حضرت مسیح بن مریم کی صفات
مرزا صاحب کی آمد کے بعد مسلمانوں میں جس قدر اخلاق رذیلیہ کی زیادتی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ عیاں رہے	اور مسیح مسلم کی روایت میں ہے

یعنی مسیح کی آمد کے بعد مسلمانوں کے
دل کینہ اور عداوت اور حسد سے پاک ہو
جائیں گے۔

یہ حضرت مسیح کی آمد کی دسویں نشانی
ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابی
داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔

۱۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گیارہویں
نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دشمن الشام کی جامع مسجد کے شرقی منارہ
پر آسمان سے نازل ہوں گے جیسا کہ پہلے
حدیث سوم میں گذر چکا۔

مرقا صاحب فرماتے ہیں کہ نزول مسیح بن مریم سے
مجازاً مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ کی قادیان میں
ولادت مراد ہے۔ مگر منارہ سے حقیقی معنی مراد ہیں
اس لئے مرزا صاحب نے نازل ہونے کے بعد چند
کعبہ کے قادیان میں ایک منارہ تعمیر کرایا جس کا نام
منارۃ المسیح رکھا۔ سبحان اللہ نزول تو پہلے ہو گیا اور
منارہ بعد میں چند اکٹھا کر کے تعمیر کرایا گیا۔ جیسا کہ کسی
کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص قضاء حاجت کرنے
کے لئے پانی کا برتن لے کر چلا۔ برتن کی تلی میں سورخ
تھا اس لئے طہارت تو پہلے کرنی اور قضاء حاجت
بعد میں کی اسی طرح مسیح قادیان تو پہلے نازل ہو گئے
اور منارہ بعد میں جوایا کہ آخر کہاں تک حدیثوں میں
تاویل کروں اور ساری باتوں کو مجاز پر محمول کروں۔
سوائے منارہ بنانے کے اور کوئی شے قدرت میں

نظر نہ آئی۔ اس لئے حدیث میں صرف منارہ کا
لفظ حقیقی معنی میں رہ گیا اور باقی سب مجازہ
اور استعارہ۔

حدیث میں ہے کہ جنی بن مریم نازل ہونے
کے بعد دجال کو بابِ گدیر قتل کریں گے۔
مرزا صاحب کے نزدیک بابِ گدیر قتل کرنے
سے لڑھکانہ میں کسی کافر کو مناظرہ میں شکست
دینا مراد ہے۔

گدیر ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔
حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج اور
عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ آئیں گے اور پھر مدینہ آئیں
گے اور میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر سلام کریں گے
حدیث میں ہے کہ نزول کے بعد چالیس
سال زندہ رہیں گے۔
مرزا صاحب نے نہ حج کیا اور نہ عمرہ اور نہ مدینہ
منورہ میں حاضر کی نصیب ہوئی۔

مرزا صاحب دعوائے نبوت کے بعد چند سال
زندہ رہے۔
مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور روضہ
اقدس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب
مدفون ہوں گے۔

اے مسلمانو! سچ موعود کی یہ علامتیں جو احادیث میں تمہنے پڑھ لی ہیں اور یہ بھی دیکھ
لیا کہ ان میں سے مرزا صاحب میں کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور ان صریح احادیث میں
مرزائی جو تاویلیں اور تخریفات کر کے ان احادیث کو مرزا صاحب پر منطبق کرنا چاہتے ہیں تو ایسی
تاویلوں سے جس کا جی چاہے مسیحیت کا دعویٰ کرے اور اس سے بھی بڑھ کر آیات اور احادیث
کو اپنے اوپر منطبق کرے اور جس کا جی چاہے ایسے ہوا پرستوں پر ایمان لائے تو اب بے ملک
اور فرعون بے سامان ایسے ہی لوگوں کا مثال ہے۔

ضَوْبِمَةٌ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے

تمام امت محمدیہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کا اتباع ان کے رفع الی السماء تک محدود تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام جن وانس پر شریعت محمدیہ کا اتباع واجب ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اور رسول ہوں گے مگر ان کا نزول نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ شریعت اسلامیہ اور امت محمدیہ کے ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ نزول کے بعد انجیل کا اتباع، نہیں فرمائیں گے بلکہ کتاب و سنت کا اتباع فرمائیں گے۔

حافظ عمقلانی ینزل عیسیٰ بن مریم حکماً عدلاً کی تشریح میں لکھتے ہیں :-

ای حاکماً والمعنی انه ینزل حاکماً بحدۃ الشریعة فان هذه الشریعة باقیة کا
تفسیر بل یكون عیسی حاکماً من حکام هذه الامم . فتح الباری ص ۳۳۷

وقال انوروی فی شرح مسالہ لیس المراد بنزول عیسیٰ انه یتول بشر وینسخ
شروعنا ولا فی الزمان یتثقی ۶ من هذا بل صحت الاحادیث بانہ ینزل حکماً مقسطاً
یحکم بشریئنا ویجیب من امور شرعنا ما هو جوب الناس ومن الاحادیث الواردة
فی ذلك ما اخرجہ احمد والنسائی وانظرانی من حدیث سمرة عن رسول الله صلی

اللہ علیہ وسلم قال یترزل عیسیٰ بن مریم مصداقاً لِمحمد صلی اللہ علیہ وسلم
وعلی ملته فیقتل الدجال ثم وانما هو قیام الساعة . واخرجه النصارى فی الکبیر
والبیہقی فی البعث بسندہ جمید عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یلبث الدجال فیکم ما شاء اللہ ثم یترزل عیسیٰ بن مریم مصداقاً
بمحمد وعلي ملته اماماً مهدياً وحکماً عدلاً فیقتل الدجال واخرجه ابن حبان
فی صحیحہ عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقول یترزل عیسیٰ بن مریم فیؤقیہم فاذا رقت راسہ من الرکعة قال
سمع اللہ لمن حمدہ قتل اللہ الدجال واظهر المؤمنین .

ووجہ استدلال من هذا الحدیث ان عیسیٰ یقول فی صلواتہ یومئذ
سمع اللہ لمن حمدہ وهذا الذکر فی الاعتدال من صلوة هذه الامة كما مر
فی حدیث ذکرته فی کتاب المعجرات والخصائص واخرجه ابن عساکر عن
ابی ہریرة قال یهبط المسیح ابن مریم فیصلی الصلوات ویجمع الجمع فهذا
صریح فی انه یترزل بشر عن الان مرجموع الصلوات الخمس وصلوة الجمعة لم
یکون فی غیر هذه الاطعم واخرجه ابن عساکر من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن
العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امة انا اولیاء وھیسی
ابن مریم آخرها کذا فی الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام للحافظ
السیوطی ص ۲۰۲ من الحاوی .

یہ شیخ جلال الدین سیوطی کی عبارت ہے جن میں ان روایات کو ذکر فرمایا ہے جن
میں اس امر کی تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمدیہ کے
بتبع ہوں گے اور آپ ہی کی شریعت کے مطابق نماز اور دیگر عبادات ادا فرمائیں
گے۔

شیخ محی الدین بن عربیؒ نے فتوحات مکیہ کے بابک میں لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بند کر دیا گیا اب کسی کو یہ بات میسر نہیں کہ کسی شریعت منسوخہ سے خدا کی عبادت کرے اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے تو اسی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔ اھ۔

اور امام ربانی شیخ مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں "حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے تو حضرت خاتم الرسل کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ مکتوبات صلا ۳ دفتر سوم مکتوبات۔"

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو احکام شریعت کا علم کس طرح ہوگا

شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اسی سوال کے جواب میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام "الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام" ہے جو مصر میں طبع ہوا ہے حضرات اہل علم اصل رسالہ کی مراجعت فرمائیں۔ ہم بطور خلاصہ کچھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:-

شیخ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ بروز پنج شنبہ ۶ جمادی الاولیٰ ۸۸۶ھ میں مجھ سے سوال کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازما نے کے بعد کس شریعت کے مطابق حکم کریں گے آیا اپنی شریعت کے مطابق حکم کریں گے یا شریعت محمدیہ کے مطابق۔ اور اگر شریعت محمدیہ کے مطابق حکم دیں گے تو آپ کو شریعت محمدیہ کے احکام کا علم کیسے ہوگا، اور کیا ان پر وحی نازل ہوگی یا نہیں اور اگر وحی نازل ہوگی تو وحی الہام ہوگی یا وحی ملکی ہوگی یعنی بذریعہ فرشتہ کے وحی نازل ہوگی۔ یہ تین سوال ہوتے۔ اب ہم بالترتیب جواب ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:-

سوال اول اور اس کا جواب

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے تفصیل اس جواب کی گزرتی۔

سوال دوم اور اس کا جواب

دوسرا سوال یہ تھا کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت محمدیہ کے احکام کا علم کس طرح ہوگا؟ شیخ جلال الدین سیوطی نے اس کے چار طریقے ذکر فرماتے ہیں جن کو ہم اختصار اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

طریقہ اول جس طرح ہرنی اور رسول کو بذریعہ وحی اپنی شریعت کا علم ہوتا ہے اسی طرح ہرنی کو بذریعہ وحی کے انبیاء سابقین اور لاحقین یعنی گذشتہ اور آئندہ

انبیاء کی شریعتوں کا علم بھی ہوتا ہے جبرئیل علیہ السلام کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں پر فلاں کتاب نازل ہوئی اور فلاں نبی پر فلاں کتاب نازل ہوئی اور توریت اور انجیل اور زیور میں تو خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت

عنه قال السيوطي بالطريق الاول ان جميع الانبياء قد كانوا يعلمون في زمانهم بصحة ما نزلهم من قبلهم

ومن بعدهم بالوحى من الله على لسان جبرئيل كما التنبيه على بعض ذلك في الكتاب الذي انزل عليهم

والدليل على ذلك انه ورد في الاحاديث والافان ان عيسى عليه السلام بشر امته بهجتي النبي

صلوات الله وسلامه عليه وسيد اخيرهم وجملة من شريعتهم ياتي بها فتخالف بطريقه عيسى وكذلك وقع

طوسي وادع عليهم ما انزلهم الى اخو ما قال كذا في الاحكام من الامم من الخواص

بعد انما شيخ سيوطي نے توریت اور انجیل اور زیور میں جو اشارتیں حضور پر نور کی آمد اور آپ کی شریعت

اور صحابہ کرام کے متعلق ان کو نقل کیا ہے۔ اہل علم اصل کی مراجعت کریں۔

اور آپ کے صحابہؓ کے اوصاف مذکور ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے اہم مقاصد میں یہ تھا۔ **مُبَشِّرًا بَرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي إِسْمُهُ أَهْمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ** امت کو اس کی بشارت سنادیں کہ جس نبی آخر الزماں کی تمام انبیاءؑ خبر دیتے آتے اب اس کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنی امت کو اس کی تاکید اکید کی کہ اگر اس نبی آخر الزماں کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان پر ایمان لانا اور آپ کے صحابہ کرام کے اوصاف بتلانے۔ صحابہ کے اوصاف میں یہ بھی ارشاد فرمایا:۔

اناجیلہم فی صدورہم وہب ان کی انجیل ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی یعنی باللیل لیوت بالنہاس۔ وہ اپنی کتاب یعنی قرآن کے حافظ ہوں گے لٹ کے ماہب اردن کے شیر ہوں گے۔

طریقہ دوم | حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کو دیکھ کر شریعت کے تمام احکام سمجھ جائیں گے نبی اور رسول کا فہم اور ادراک تمام امت کے فہم اور ادراک سے بالا اور برتر ہوتا ہے امت کے تمام فقہاء اور مجتہدین نے مل کر جو شریعت کے احکام کو سمجھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تنہا فہم و ادراک ہزاراں ہزار درجہ اس سے بلند اور برتر ہوگا۔ نبی کی قوت قدسیہ بمنزلہ آفتاب کے ہے اور فقہاء اور ائمہ اجتہاد کی قوت ادراکیہ بمنزلہ ستاروں کے ہے۔

طریقہ سوم | حافظ ذہبی اور حافظ بسکی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ علاوہ شب معراج کے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا روایات سے ثابت ہے۔ پس جس طرح صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ آپ کی شریعت کا علم حاصل ہوا اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم حضور سے بلا واسطہ ہوا ہو تو کوئی مستبعد نہیں۔ خصوصاً جب کہ

احادیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اور ابن مریم کے درمیان کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں وہ میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام حضور پر نور کے خلیفہ ہوں گے تو ضرور آپ کی شریعت سے واقف ہوں گے۔

حافظ زہبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی۔ اور حضور کے آخری صحابی ہیں یعنی سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی۔ باقی تمام صحابہ حضرت عیسیٰ سے پہلے گذر گئے۔ کذا فی الاعلام ص ۱۶۱ ج ۲ من الحاوی۔

طریقہ چہارم | حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد روحانی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت تبدیلی برابر ملاقات فرمائیں گے اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ براہ راست بالمشافہ حضور سے دریافت فرمائیں گے۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں حضرات انبیاء سابقین کی ارواح طیبہ سے ملاقات فرماتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے جب معراج کے لئے براق پر روانہ ہوتے تو راستہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان حضرات نے حضور کو سلام کیا اور حضور نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت اللہ کا طواف کر کے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔

پس جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف فرما تھے اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام عالم برزخ میں تھے اور ملاقات ہوتی رہی اور سلام و کلام ہوتا رہا۔ حضور نے شب اسراء میں بیت المقدس میں امامت فرمائی اور تمام انبیاء نے حضور کی

عہ روی ابن عساکر عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا ان ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی و لا رسول الا انہ خلیفتی فی امتی بعدی
کذا فی الاسلام ص ۱۶۱ ج ۲ من الحاوی ۱۲۔

اقتدار کی اسی طرح اس کا برعکس بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اس عالم میں تشریف فرما ہوں اور حضور پر نور عالم برزخ میں ہوں اور طرفین میں ملاقات ہو سکے اور افاضہ اور استفادہ کا سلسلہ جاری ہو سکے۔

وان جماعة من ائمة الشريعة نصوصاً
 حلی ان من کرامۃ الولی النبوی صلی
 اللہ علیہ وسلم ویجتمع بہ فی الیقظة
 ویأخذ عنہ ما قسمہ من المعارف و
 المواہب و من نص علی ذلک من
 ائمة الشافعیة الغزالی و انبأ مذی و
 التاج بن السبکی و العقیف الیافعی و
 من ائمة انانیکة القرطبی و ابن ابی حمزة
 و ابن الحاجر فی المدخل و قد مکی عن
 بعض الاولیاء انه حضر مجلس فقیہ
 فردی ذلک الفقیہ حدیثاً فقال لہ
 الولی هذا الحدیث باطل فقال الفقیہ
 و من این لک هذا فقال هذا النبوی
 صلی اللہ علیہ وسلم واقفت علی
 راستہ یقول انی لو اقل هذا
 الحدیث و کشف للفقیہ فراه - و
 قال الشیخ ابو الحسن الشاذلی لو
 حجبت عن النبوی صلی اللہ علیہ

اور ائمہ شریعت کی ایک جماعت نے اس امر کی
 تصریح کی ہے کہ ولی کی کرامات میں سے یہ ہے
 کہ وہ حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی لیاقت کرتا اور آپ کی ہم نشینی کا شرف حاصل
 کرتا ہے اور آپ سے علوم و معارف میں سے جو اس
 کے لئے مقدر ہے حاصل کرتا ہے اور ائمہ شافعیہ
 میں سے امام غزالی، اور یار مذی، اور تلح الدین
 سبکی اور عقیف یافعی نے اور ائمہ مالکیہ میں سے
 قرطبی ابن ابی حمزہ اور ابن حلاج نے مدخل میں
 تصریح کی ہے۔ اور بعض اولیاء سے منقول ہے
 کہ وہ کسی فقیہ کی مجلس میں تشریف لے گئے انے
 ان فقیہ نے کوئی حدیث روایت کی تو ان ولی
 نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث تو باطل ہے۔ تو فقیہ نے
 فرمایا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر ہانے تشریف فرما
 ہیں اور تمہارے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو
 نہیں کہا اور ان فقیہ کو بھی مکشوف ہوا اور
 انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے

وسلمہ طرفہ عین ما عادت نفسی
بیداری اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ اور شیخ
مع المسلمین۔
ابوالحسن شافعی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک
پلک جھپکنے کی مقدار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے حجاب میں رہوں تو میں اپنے کو مسلمان
نہ سمجھوں۔

فاذا کان هذا حال الاونبياء
مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعیسی
النبي صلی اللہ علیہ وسلم اولی بذلك
ان یجتمع به ویاخذ عنده ما امر الله
من احکام شریعتہ من غیر احتیاج
الی اجتهاد ولا تقلید الحفظاء کذا
فی الزعم ص ۱۶۲ ج ۲ من الحاوی۔
پس جب اولیاء کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ یہ حال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
تو یہ صحیح اولیٰ آپ کے ساتھ جمع ہوں گے اور
آپ سے جو چیزیں گے احکام شرعیہ کا استفادہ
فرمائیں گے۔ اور آپ کو کسی اجتہاد یا حفاظ
حدیث کی تقلید کی حاجت نہ ہوگی۔ الاحکام
ص ۱۶۲ ج ۲ من الحاوی۔

سوال سوم اور اس کا جواب

کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی اور وحی کس قسم کی ہوگی وحی نبوت ہو
گی یا وحی الامام؟ جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نبوت کا نزول ہوگا مسند احمد اور
صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور ترمذی اور تسانی میں تو اس بن سیمان کی حدیث میں ہے
کذا لک اوحی الله الی عیسیٰ ابن مریم انی
قد اخرجت عبداً آمن عبداً لا یدان
لہم یقتلہم فخرجت عبداً فی النور فیہدت اللہ یدبیرہ ما جوج الحدیث۔
من حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ
کی وحی آئے گی کہ تم مسلمان کو لے کر کوہ طور پہنچاؤ

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نزول کے بعد وحی کا نزول ہوگا۔ اور لوگوں میں جو
یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین زمین پر نہیں آئیں گے یہ بالکل

بے اصل ہے۔ شب قدر میں ملائکہ اور جبریل امین کا زمین پر اترنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالنُّزُومُ فِيهَا رِيْدَانٌ رَبِّيَهُمْ مِنْ صُكْرِ اَمْرِ سَدِّدُهُمْ حَقِّي مَعْظَمِهِ الْعَجَبُ ۰ حدیث میں ہے کہ جنیب کو حالت بتا بس میں بغیر وضو کے نہ سونا چاہیے مجھے اندیشہ ہے کہ جبریل امین اس کی موت کے وقت حاضر نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ مرتے وقت مومن کے پاس فرشتے اور جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اگر مرتے وقت وہ با وضو ہوں۔ وقد رُحِمَ بِالْمَدِينَةِ ان عبيد بن جريه پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ علی علیہ السلام پر ضعیفی وحی کا نزول نہ ہوگا بلکہ وحی الہام ہو گی۔ یہ زعم فاسد اور مہمل ہے۔ اول تو اس سے حدیث کے خلاف ہے جو بیان کرتے ہیں کہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور نبی سے وصفت نبوت کبھی نازل نہیں ہو سکتا۔

اذا نزل لا يوحى اليه وحيا حقيقيا بل وحى الہام وهذا القول ساقط ومفصل كما مر من احد ما من بداهة نعت الحديث المذكور والثاني ان ما نوهه هذا الزاعه من تعذر الوحي الحقيقي فاسد لان عيسى عليه السلام نبى قاضى ما نوهه كذا فى الاعلام ص ۲۶ من المعنوى۔

والله اعلم

ظہور مہدی

”مہدی“ لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ معنی لغوی کے لحاظ سے ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں لیکن احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے۔ اس سے ایک شخص مراد ہیں جو اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ظہور مہدی کے بارہ میں احادیث اور روایات اس درجہ کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ درجہ تواتر کو پہنچی ہیں اور اس درجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ ان میں

ذریعہ برابراشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً امام مہدی کا کیا نام ہوگا۔ ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کی برائے ولادت کہاں ہوگی اور جہتے ہجرت اور جہتے وفات کہاں ہوگی، کیا عمر ہوگی، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے، اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی، اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ تفصیل کے ساتھ ان کی تخلیق احادیث میں مذکور ہیں۔

تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں امام مہدی کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ایک مستقل باب ہیں درج ہیں۔ شیخ جلال الدین نے امام مہدی کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو امام مہدی کے بارے میں آئی ہیں۔
العرف انوارہ فی اخبار المہدی (جو چھپ چکا ہے) علامہ سفارینی نے شرح عقیدہ سفارینیہ میں ان تمام احادیث کی تلخیص کی ہے اور ان کو خاص ترتیب سے بیان کیا ہے۔ حضرات اہل علم شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۲۷ کی مراجعت کریں۔

۱۔ حدیث میں ہے کہ مہدی موعود اولاد فاطمہؑ سے ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من عترتی من اولاد فاطمہؑ (رواہ ابو داؤد) اور امام مہدی کے آل رسول اور اولاد فاطمہؑ سے ہونے کے بارے میں روایات اس درجہ کثیر ہیں کہ درجہ تو اتنے تک پہنچ جاتی ہیں۔ شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۶۹ ج ۲۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے۔ اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی۔

۳۔ حدیث میں ہے ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چھٹی ہوگی۔ رواہ ابو داؤد۔

۴۔ حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے

درمیان ہوگی۔ رواہ ابوداؤد و الترمذی۔

۵۔ حدیث میں ہے کہ امام مہدی خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرت وہ پہلے ظلم اور ستم سے بھری ہوگی۔

۶۔ حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا دیں گے اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی۔

هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ فَإِذَا سَمِعُوا لَهُ
خَلْفَةَ تَعَالَى كَاخْلِيْفَةَ مَهْدِيٍّ يَهْجَأُ اس كَيْهَكْ مَفْعُو
وَأَطِيعُوا۔ اور اس کی اطاعت کرو۔

اور بے شمار روایات سے امام مہدی کا کافروں پر جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔

ناظرین غور کریں

کہ مرزا صاحب ہیں امام مہدی کی صفات کا کوئی شائبہ بھی تو ہونا چاہیے جب ہی تو دعوائے مہدویت چپاں ہو سکے گا۔ ورنہ صفات تو ہوں کافروں اور گمراہوں کی اور دعویٰ ہو مہدی ہونے کا۔ ع

ایں خیال است و محال است و جنوں

ایک ضروری تنبیہ

کتب حدیث میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام مہدی کے ذکر سے خالی ہیں۔ لیکن دیگر کتب معتبرہ میں ظہور مہدی کی روایتیں اس قدر کثیر ہیں کہ محدثین نے ان کا تواتر تسلیم کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ بخاری اور مسلم نے احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں کیا۔ بخاری اور مسلم میں کسی حدیث کا نہ ہونا اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں۔ مسند احمد اور

سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں صدہا اور ہزار با ایسی روایتیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو شخص ہیں

ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی دو شخص علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوگا۔

سرت مرزائے قادیان کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں کرشن مہاراج بھی ہوں اور آریوں کا بادشاہ بھی ہوں اور حجر اسود بھی ہوں اور بیت اللہ بھی ہوں اور حاملہ بھی ہوں اور پھر خود ہی مولود ہوں۔ سب کچھ ہوں گے مگر مسلمان نہیں۔

یہ مرزائے قادیان کا ہڈیاں ہے۔ جس کا جی چاہے اس پر ایمان لاسے اور جس کا جی چاہے اس کا کفر کرے۔ اعدتہ باللہ و کفرتہ بالطاعت۔ ومن یکفر بالاطاعت الخ احادیث نبویہ سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔

۱) حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور امام مہدی امت محمدیہ کے آخری خلیفہ راشد ہیں۔ جن کا رتبہ جمہور علماء کے نزدیک ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد ہے امت محمدیہ میں سے صرف ابنا میرین ذکر کر دے کہ امام مہدی کا رتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر ہے یا ان سے بڑھ کر ہے۔ شرح عقیدۃ سفارین ص ۲ میں شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے

کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد مرتبہ ابو کبیرؓ اور عمرؓ کا ہے العرف الوردی ص ۲۷ ج ۲ من الحاوی۔

(۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم بتول کے بطن سے بغیر باپ کے نفعیہ جبرئیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور امام مہدی آل رسول سے ہیں قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اب وفات ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم اور مہدی ایک شخص ہیں بلکہ دو شخص ہیں۔

(۳) اس حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا اور امام مہدی روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نازل ہونے کے بعد امام مہدی کے طرز عمل اور طرز حکومت کو برقرار رکھیں گے۔ (کنذانی الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام ص ۲۲ ج ۲ من الحاوی) اس سے میں صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دو علیحدہ شخص ہیں۔

(۴) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کا مولد رحلتے ولادت ہوگا اور مہاجر (جائے ہجرت) بیت المقدس ہوگا۔ (العرف الوردی ص ۲۷ ج ۲ من الحاوی) اور بیت المقدس ہی میں امام مہدی وفات پائیں گے اور وہیں مدفون ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ایک عرصہ بعد وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے (شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۲۷ ج ۲)

(۵) احادیث میں ہے کہ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے لئے مصلیٰ پر کھڑے ہوں گے۔ ایک منارہ شرقی پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر مصلیٰ سے ہٹ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ آپ امامت فرمائیں حضرت

عینی فرمائیں گے کہ نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ یہ اقامت تمہارے لیے کئی گئی۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عینی فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے بلکہ امت محمدیہ کے تابع اور مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔ العرف الوردی ص ۸۴ ج ۲ و ص ۶۵ ج ۲ و شرح العقیدہ السفارینیہ ص ۱۳ ج ۲۔

(۶) حضرت عینی بمنزلہ امیر کے ہوں گے اور امام مہدی بمنزلہ وزیر کے ہوں گے اور دونوں کے مشورے سے تمام کام انجام پائیں گے۔ شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۹۱ ج ۲ و ص ۹۲

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ:-

نہیں ہے کوئی مہدی مگر عینی بن مریم

لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہدی اور عینی دونوں ایک ہی شخص ہیں:-

جواب

یہ سب سے پہلے کہ اول تو یہ حدیث صحیح نہیں محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیفہ اور غیر مستند ہے۔

وقی قال الحافظ العسقلانی: قال ابوالحسن الخسعی اللدی فی مناقب الامام المشائخ توت اراغبنا بان المہدی من ہذا الامم وان عیسیٰ لصلیٰ خلفہ ذکر ذلك وقد للحدیث الذی. اخبرہ ابن ماجہ عن انس ورفیہ لا مہدی الا عیسیٰ

فتح الباری ص ۳۵۵ ج ۶

دوم یہ کہ یہ حدیث ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت

عینی بن مریم اور امام مہدی کا دو شخص ہونا آفتاب کی طرح واضح ہے۔

اور اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لئے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جائے کہ حدیث

کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت حضرت عینی بن مریم سے بڑھ کر کوئی شخص ہدایت یافتہ نہ ہوگا۔

کیونکہ حضرت عیسیٰ نبی مرسل ہوں گے اور امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے نبی نہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ غیر نبی کی ہدایت نبی اور رسول کی ہدایت سے افضل اور اکل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ نبی کی ہدایت معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور عصمت خاصہ انبیاء کا ہے اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے۔

لا فتنۃ الا علی
سوائے جو ان شجاعت میں علی کرم اللہ وجہہ کے برابر نہیں

اور یہ معنی نہیں کہ دنیا میں سوائے علی کے کوئی جوان نہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے یہ معنی ہوں گے کوئی مہدی اور کوئی ہدایت یافتہ عصمت اور فضیلت اور علو منزلت میں عیسیٰ بن مریم کے برابر نہیں (کنزانی العرف النوروی ص ۲۵ ج ۲)

قال المناوی اخبرنا المہدی لا یعاد ضہا خبر کا مہدی الایسی بن مریم کان المراد بہ کما قال القرطبی لا مہدی کما ملام معصوماً الایسی کذا فی فیصیح الحدیث ص ۲۵ ج ۲

وقال الشیخ السیوطی ۴ فی العرف النوروی ص ۲۵ ج ۲ من انحاوی .
قال القرطبی ویحتمل ان یکون قوله سیدہ الام ولا مہدی الایسی ای کا مہدی کما ملام معصوماً الایسی قال علی هذا تجمع الاحادیث ویوقع التعارض و قال ابن کثیر هذا الحدیث فیما یظہر لی ببادی الرائی مخالف للاحادیث الواردہ فی اشبات مہدی غیر عیسی بن مریم وعند التامل لا ینافی ما بل یکون المراد من ذلك ان المہدی حق المہدی هو عیسی لا ینفی ذلك ان یکون غیر مہدیاً ایضاً انتہی .

مرزا کا مہدی ہونا محال ہے

اس لئے کہ مہدی کی جو علامتیں احادیث میں مذکور ہیں وہ مرزا میں قطعاً مفقود ہیں۔

۱۔ امام مدنی امام حسن بن علی کی اولاد سے ہوں گے اور مرزا مغل اور پٹھان تھا، سید نہ تھا۔
 ۲۔ امام مدنی کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اور مرزا کا نام
 غلام احمد اور باپ کا نام غلام مرتضیٰ اور ماں کا نام چیراغ بی بی تھا۔
 ۳۔ امام مدنی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مکہ آئیں گے۔ مرزا صاحب نے کبھی مکہ
 اور مدینہ کی شکل بھی نہیں دیکھی ان کو یقین تھا کہ مدینہ میں اسلامی حکومت ہے۔ وہاں مسیلاً
 پنجاب کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو یامہ کے مسیلاً گذاب کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسا کہ مرزا صاحب
 کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مرزا صاحب حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ
 بھی نہ کر سکے۔

۴۔ امام مدنی روسے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں
 گے۔ اور مرزا صاحب تو اپنے پورے گاؤں (قادیان) کے بھی چور دھری نہ تھے۔ جب کبھی زمین
 کا کوئی جھگڑا پیش آتا تو گراں پور کی کچری میں جا کر استغاثہ کرتے۔ خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے
 ورنہ گرفتار ہو جاتے۔

۵۔ امام مدنی ملک شام میں جا کر دجال کے لشکر سے جہاد و قتال کریں گے اس وقت
 دجال کے ساتھ ستر ہزار مسیویوں کا لشکر ہوگا۔ امام مدنی اس وقت مسلمانوں کی فوج بنائیں گے
 اور دمشق کو فوجی مرکز بنائیں گے۔ مرزا صاحب نے دجال کے کس لشکر سے جہاد و قتال کیا؟ اور
 دمشق اور بیت المقدس کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔

اس کے علاوہ احادیث نبویہ میں امام مدنی کے متعلق اور بھی بہت سے امور مذکور ہیں
 جن میں سے کوئی بھی مرزا صاحب پر منطبق نہیں۔

امام ربانی شیخ عبدالحق ثانیؒ اپنے ایک طویل مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں جس کا بلفظ
 ترجمہ بدیہ ناظرین سب سے :-

قیامت کی علامتیں جن کی نسبت خبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی

نہے سب حق ہیں۔ ان میں کسی کا خلاف نہیں۔ یعنی آفتاب عادت کے برخلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حضرت ہمدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ دجھال نکل آئے گا اور یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ دابہ الارض نکلے گا۔ اور دھواں جو آسمان سے پیدا ہوگا وہ تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور دردناک عذاب دے گا اور لوگ بے قرار ہو کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار اس عذاب سے ہم کو دور کر۔ ہم ایمان لاتے۔ اور اخیر کی علامت وہ آگ ہے۔ جو عدن سے نکلے گی۔ بعض نادان گمان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اہل جنت میں سے ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہی ہمدی موعود ہو رہے ہیں ان کے گمان میں ہمدی گزر چکا ہے اور فوت ہو گیا ہے اور اس کی قبر کا پتہ دیتے ہیں کہ فراء میں ہے۔ احادیث صحیحہ جو حدیث شریفہ بلکہ حدیث اربعہ صحیحہ میں ان لوگوں کی تکذیب کرتی ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامتیں حضرت ہمدی رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے معتقد شخص کے حق میں مفقود ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ ہمدی موعود آئیں گے ان کے سر برابر ہوگا۔ اس امر میں ایک فرشتہ ہوگا جو پکار کر کہے گا کہ یہ شخص ہمدی ہے۔ اس کی متابعت کرو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام زمین کے مالک چار شخص ہوتے ہیں جن میں سے دو مومن ہیں دو کافر۔ ذوالقرنین اور سلیمان مومنوں میں سے ہیں۔ اور عمرو و بخت نصر کافروں میں سے اس زمین کا پانچواں مالک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا۔ یعنی ہمدی علیہ الرضوان۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا فانی ہوگی۔ جب تک اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث نہ فرمائے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ

کے نام کے موافق ہوگا۔ زمین کو جو روئے ظلم کی بجائے عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کعبہ حضرت مہدی کے مددگار ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے زمانہ میں نزول فرمائیں گے۔ اور وہ جہاں کے قتل کرنے میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے۔ اور ان کی سلطنت کے زمانہ میں زمانہ کی عادت اور نوجویوں کے حساب کے برخلاف ماہ رمضان کی چودھویں تاریخ کو سورج گہن اول ماہ میں چاند گہن لگے گا۔ نظر انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ یہ علامتیں اس مردہ شخص میں موجود تھیں یا نہیں۔ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جو مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔

شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی منتظر کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں دو سو تک علامتیں لکھی ہیں۔ بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے کہ مہدی موعود کا حال واضح ہونے کے باوجود لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ہذا اھمد اللہ سبحانہ
الی سواہ الصواعط۔ (اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے)۔

(منقول از ترجمہ مکتوبات ص ۲۲ دفتر دوم مکتوب نمبر ۶۷)

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ
خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ اَسْلَمَ عَلَيْهِ
اَجْمَعِيْنَ وَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

۳۰ جمادی الثانیہ ۱۳۶۳ھ یوم چہار شنبہ

جامعہ اشرفیہ لاہور

لَطَائِفُ الْحِكْمِ
فِي اسْرَارِ نَزْوِلِ عَيْسَى بِنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ
الرُّسُلِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ
أَحْبَبِينَ وَعَلَيْنَا مَعْرُوفٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

أَمَّا بَعْدُ

امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلوة والفت الف تحیہ کا اس پر اجماع ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بدن کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور قیامت کے
قرب آسمان سے نازل ہوں گے جیسا کہ احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے۔ اس
وقت اس مختصر رسالہ میں حضرت مسیح بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے رفع الی السماء
اور نزول کے کچھ اسرار و حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی ہو۔ اور
اہل علم کے لئے موجب بصیرت ہو۔ اور اہل تندیب کے لئے باعث طمانیت ہو اور اہل
ضلالت کے لئے سبب ہدایت ہو۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے اس رسالہ کو قبول فرمائے
وَبِنَا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اور اس رسالہ کا نام **لَطَائِفُ الْحُكْمِ** فی اسرار نزول سیدنا عیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وعلیٰ نبینا وبارک وسلم تجویز کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے مقصود کو شروع کرتا ہوں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سنت الہی اس طرح جاری ہے۔ کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی استعداد اور اصلے فطرت کے مناسب معاملہ کیا جاتے۔ اور مقتضاتے حکمت بھی یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت عام بنی آدم کی طرح ہے۔ یا اس سے جدا اور متاز ہے قرآن کریم نے کسی نبی کی فطرت کو بیان نہیں کیا۔ قرآن کریم نے صرف دو پیغمبروں کی فطرت بیان کی ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اور دوسرے حضرت یحییٰ بن مریم علیہما السلام کی جیسا کہ اولیٰ عمران اور سورہ مریم میں بالتفصیل مذکور ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے دائرہ نبوت کو آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ اور اس دائرہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم فرمایا۔ اور نبی اکرم سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دائرہ نبوت کے تمام خطوط کا قتل اور مرکزی نقطہ بنایا نبوت کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ صاحب نبوت مرد ہو عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ لقولہ تعالیٰ۔

وَمَا آتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَاؤَ
یعنی اور نہیں بھیجے ہم نے پہلے تجھ سے مگر مرد۔

اس لئے دائرہ نبوت کو مرد سے شروع کیا۔ اور فقط مرد سے فقط عورت کو پیدا کیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور جب دائرہ نبوت کو ختم کیا تو فقط عورت سے فقط مرد کو پیدا کیا۔ یعنی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ دائرہ نبوت کی ہدایت اور نہایت دونوں مناسب رہیں۔ کما قال تعالیٰ:-

إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی

شان آدم علیہ السلام جیسی ہے۔

آدم۔

تیسرے حضرت آدم کے نمبر میں مٹی شامل تھی۔ اس لئے ان کو آسمان سے زمین پر اتارا۔

اور حضرت عیسیٰ ۴ نفعۃ جبرئیل ۳ سے پیدا ہوئے۔ اس لئے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھایا

اس طرح

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ - اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی شان آدم جیسی ہے

خوب صادق آیا۔

آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفعۃ جبرئیل ۳ سے پیدا ہوئے۔ جسمانی حیثیت سے حضرت مسیح کا تعلق حضرت مریم سے ہے اور روحانی حیثیت سے افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبرئیل امین سے ہے۔ صورت اگرچہ آپ کی بشری اور انسانی ہے۔ مگر آپ کی فطرت اور اصلی حقیقت ملکی اور جبرئیلی ہے۔ ۴
نقش آدم لیک معنی جبرئیل ۳ ۵ رستہ از جملہ ہوا وقال وقیل،

اور اسی بناء پر آپ کو کَلِمَةُ الْفَاہَا اِلٰی (عیسیٰ ۳) ایک کلمہ اور روح ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جن کو مریم ۴ کی طرف ڈالا گیا۔

مَرْبِیَّةٌ وَرُؤُوسٌ مِّنْہَا۔
فرمایا کہ جس طرح کلمہ میں ایک لطیف معنی مستور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناب مسیح کے جسم مبارک میں ایک نہایت لطیف شے یعنی حقیقت ملکئہ مستور اور مخفی ہے۔ ۴

نقابیت ہر طرف من زین کتیب ۵ فرود ہستہ بر عارض دلفریب
معانیت و زریر حرف سیاہ ۶ جو در پرہ معشوق و در میخ ماہ

اور چونکہ آپ کو حق تعالیٰ نے فرمایا رُؤُوسٌ مِّنْہَا اور روح کا خاصہ یہ ہے کہ جس شے سے وہ ملتی ہے۔ اس کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس لئے آپ کو احیاء موتی کا اعجاز عطا کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کی ولادت میں نفعۃ جبرئیل ۳ کو دخل تھا۔ لہذا قال تعالیٰ۔
فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا۔ (ترجمہ) ہم نے اس میں اپنی ایک خاص روح پھریا۔ نفعۃ جبرئیل ۳ پھونکی۔

۴ یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا ۱۲۔

اس لیے قَالَتْمْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا يَأْتِيَنِ اللَّهُ - میں اس میں چھونک مانتا ہوں۔ پس وہ باتیں
 اللہ پرندہ ہو جا آہے۔ "کا سبب آپ کو دیا گیا۔

آدم برسر مطلب

پس جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی اصلی فطرت ہلکی ہے اور آپ کا اصل تعلق جبرئیل
 اور ملائکہ مقربین سے ہے۔ اور دوسرا تعلق آپ کا حضرت مریم سے ہے۔ اس لئے مناسب
 معلوم ہوا۔ کہ دونوں قسم کا تعلق معرض ظہور میں آئے اور کچھ حصہ حیات کا ملائکہ مقربین
 کے ساتھ گزرے اور کچھ حصہ زندگی کا بنی نوع انسان کے ساتھ۔

دستور یہ ہے کہ اگر ولادت اتفاقاً بجائے وطن اصلی کے وطن اقامت میں ہو جاتی
 ہے۔ تو چند روز کے بعد وطن اصلی میں بچہ کو ضرور لے جاتے ہیں۔ تاکہ وہ بچہ اپنے وطن
 اصلی کی زیارت سے محروم نہ رہے۔ اور چونکہ جناب مسیح کی ولادت نطفہ جبرئیل سے ہوئی
 ہے۔ اس لئے اگر ملائکہ یعنی سموات کو جناب مسیح کا وطن اصلی کہا جائے تو کچھ غیر مناسب
 نہ ہوگا۔

مگر جسمانی حیثیت سے موت طبعی کا آنا بھی لازمی تھا۔ اس لئے آپ کے لئے نزول میں السماء
 مقدر ہوا اور چونکہ دفع الی السماء فطرت ہلکی اور تشبہ بالملائکہ کی بناء پر تھا۔ اس لئے قبل المرفع
 آپ نے مکان بھی نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ ملائکہ میں طریق ازدولج نہیں۔

اور نزول چونکہ جسمانی اور بشری تعلق کی بناء پر ہو گا اس لئے بعد نزول نکاح بھی فرمایا
 گئے اور اولاد بھی ہوگی۔ اور وفات پاکر روضہ اقدس کے قریب دفن ہوں گے۔

اور چونکہ آپ کی ولادت نطفہ جبرئیل سے ہوئی اور حضرت جبرئیل کا عروج اور نزول
 قرآن میں سے ذکر کیا گیا۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

تَطْمَرِيحُ الْمَذْكُورَةِ وَالْمَرْوَةِ
 نرختہ اور دوح (جبرئیل) آسمان پر چلنے میں

مَنْزِلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ
 فرشتہ اور روح (جبرئیل) آسمان پر سے اتارتے ہیں۔
 اس لئے مناسب ہو کہ کم از کم ایک مرتبہ آپ کے لئے بھی عروج الی السماء اور نزول
 الی الارض ہو تاکہ آپ کی فطرت کا کلی ہونا اور نفاذ روح القدس سے پیدا ہونا اور ظل
 جبرئیل ہونا خوب عیاں ہو جائے بلکہ جس طرح حضرت جبرئیل کو روح کہا گیا اسی طرح
 جناب مسیح کو بھی روح کہا گیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ
 كَلِمَةً أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ
 وہ ایک کلمہ ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جن کو
 مریح کی طرف ڈالا۔

پس جس طرح روح یعنی جبرئیل کے لئے عروج و نزول ثابت کیا گیا۔ اسی طرح جناب
 مسیح کے لئے بھی جو کہ خدا کی ایک خاص روح ہیں اور یہ نہیں کہا گیا فیہ روح یعنی اس میں
 روح ہے اس لئے یہود قتل پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ روح کا قتل کسی طرح ممکن
 نہیں۔ نیز آپ کی شان کَلِمَةً أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ۔ ذکر کی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد
 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
 اِلْتِصَالِيهِمْ يَرْفَعُهُ۔ اور وہی عمل صالح کو بلند کرتا ہے۔
 اس لئے آپ کا رفع الی السماء اور بھی مناسب ہوا۔ نیز خدا کا کلمہ کسی کے پست کرنے سے
 کبھی پست نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کلمہ ہمیشہ بلند ہی رہا کرتا ہے۔

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْهَىٰ
 اور خدا تعالیٰ نے کافروں کے کلمہ کو پست
 وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا
 کر دیا اور خدا کا کلمہ بلند ہی رہتا ہے۔
 اس لئے اللہ تعالیٰ کلمہ اللہ یعنی عیسیٰ روح اللہ کو آسمان پر اٹھالیا۔ اور کافروں
 کا کلمہ یعنی دجال پست ہو گا یعنی قتل کیا جائے گا۔ اور چونکہ آپ کی ولادت کے وقت
 حضرت جبرئیل بشکل بشر متماثل ہوتے تھے۔ کما قال تعالیٰ۔
 فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس لئے رفع الی السماء کے وقت ایک شخص آپ

کے ہم شکل بنا کر صلیب دے دیا گیا۔ کما قال تعالیٰ۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن
یعنی اور (یہود نے) نہیں قتل کیا ان (عسریٰ)
شُبَّهَ لَهُمْ۔
کو لیکن ان کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔

اور جس طرح ولادت کے وقت اختلاف ہوا تھا۔ کما قال تعالیٰ۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ۔
پس جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔

اسی طرح رفع الی السماء کے وقت بھی اختلاف ہوا۔

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ
جن لوگوں نے حضرت مسیح کے بارے میں اختلاف
فِرْقَانُهُ مِمَّا لَمْ يَخْتَلَفْ فِيهِ إِلَّا اتِّبَاعَ
کیا وہ شک میں ہیں ان کو علم نہیں محض اتباع
النَّظَرِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ
ظن ہے۔ حضرت مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ
اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔
اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا اور بے شک اللہ

غالب اور حکمت والا ہے۔

جناب مسیح بن مریم کو نزول من السماء اور قتل دجال کے لئے خاص کیوں کیا گیا

سنت الہی اس طرح جاری ہے۔ کہ جب کسی شئی کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ
اس کے مقابل اور اس کی ضد کو بھی پیدا فرماتے ہیں۔

زمین کے مقابل آسمان اور لیل کے مقابل نہار اور ظلمت کے مقابل میں نور اور
صیغ کے مقابل میں شتاء اور ظل کے مقابل میں حرور دھوپ کو پیدا کیا ہے

و بصنداها تتبیین الاشیاء

تانا باشد راست کے باشد دروغ آں دروغ از راست می یابد فروغ

ٹھیک اسی طرح کفر کے مقابل ایمان کو پیدا فرمایا۔ اس لئے کہ ایمان کا حاصل تسلیم اور انقیاد ہے۔ اور کفر کا حاصل ایاء اور استکبار ہے۔ اور اسی طرح ایمان اور کفر، بہر ایک کا الگ الگ منبع اور معدن پیدا کیا ایمان اور اطاعت کا منبع اور معدن ملائکہ کرام ہیں اور کفر اور عصیان کا منبع شیاطین ہیں۔ جس طرح زمین پستی کا منبع ہے اور اس کے مقابل آسمان بلندی کا منبع ہے اسی طرح ملائکہ اور شیاطین ایک دوسرے کے مقابل ہیں منبع ایمان و اطاعت یعنی ملائکہ کرام کی شان یہ ہے ^ع لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَلَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اور کفر اور استکبار کے معدن یعنی شیاطین کا یہ حال ہے کما قال تعالیٰ -

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔

خلاصہ یہ کہ ملائکہ کرام کو شیاطین کے مقابل پیدا فرمایا۔ اور جس قدر شیطان کو طویل حیات دی گئی۔ اس کے مناسب ملائکہ کرام کو ایک طویل حیات عطا کی گئی۔

اور مناسب بھی یوں ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب تک یہ زمین ہے۔ اس کے مقابل یہ آسمان بھی ہے۔ جب تک یہ لیل ہے۔ اس کے مقابل یہ نہار بھی ہے جب تک یہ ظلمت ہے۔ اس کے مقابل نور بھی ہے اسی طرح جب تک شیطان زندہ ہے۔ اس وقت تک اس کے مقابلہ کے لئے ملائکہ کرام بھی زندہ ہیں۔ جس طرح شیاطین کو بہر طرح کے تشکل اور تشکل کی اور عروج اور نزول کی اور شرق سے غرب تک ایک آن میں منتقل ہونے کی طاقت عطا کی گئی۔ اسی طرح بالمتقابل ملائکہ کرام کو بھی یہ تمام طاقتیں علی وجہ الا تم عطا کی گئیں۔ تاکہ تقابل مکمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب شیطان ہے۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل ایک فرشتہ موجود ہے۔

عہ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ہوتا ہے اسے بجالاتے ہیں ۱۲۔

شیطان اگر اس کو بہکاتا ہے۔ تو فرشتہ اس کو ہدایت کی جانب بلاتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا اور استغفار کرتا ہے۔ لیکن شیاطین اور ملائکہ کرام کا یہ مقابلہ ایک عرصہ تک پوشیدہ اور مخفی طور سے چلتا رہا۔ اس کے بعد حکمت الہی اور مشیت خداوندی اس جو جانب متوجہ ہوئی کہ یہ مقابلہ کسی قدر معرض ظہور میں بھی آئے۔

چنانچہ اولاً اسی ذات کو پیدا فرمایا کہ جس کی حقیقت اور اصل فطرت شیطانی اور صورت اس کی جسمانی اور انسانی ہے۔ یعنی ”مسیح دجال“ جیسا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔ کہ دجال دراصل شیطان ہے۔ یعنی حقیقت اور فطرت اس کی شیطانی ہے۔ اور صورت اس کی انسانی ہے۔ اور وہ ایک جزیرہ میں محبوس ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں مصرح ہے۔

کہا جاتا ہے۔ اس دجال اکبر کو ایک جزیرہ میں محبوس کرنے والے حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ جیسا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے اولاً دجال کو پیدا کیا کہ جس کی حقیقت شیطانی اور صورت انسانی ہے۔

اس کے بعد اس کے مقابلہ کے لئے ایک ایسے نبی کو پیدا فرمایا کہ جس کی فطرت اور اصل حقیقت ملکی اور جبرئیلی ہے۔ اور صورت اس کی بشری اور انسانی ہے۔

اور ایسے نبی سوائے جناب مسیح بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کوئی نظر نہیں آتے پھر جس طرح دجال یہود یعنی نبی اسرائیل سے ہے۔ اسی طرح جناب مسیح بن مریم نبی اسرائیل سے ہیں۔ جس طرح دجال کو ایک جزیرہ میں محبوس کر کے ایک طویل حیات عطا کی گئی۔ اسی طرح اس کے مقابل جناب مسیح بن مریم کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اور قیامت تک آپ کو قتل دجال کے لئے زندہ رکھا گیا۔ اور اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے لئے یَخْرُجُ اور يُظْهِرُ کا لفظ آیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ دجال موجود ہے۔ مگر ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ جیسا کہ جناب مسیح کے متعلق یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ کا لفظ آیا ہے، جناب مسیح بن مریم اور مسیح

یعنی نکلے گا اور ظاہر ہوگا۔ ۲۰۱۱ء یعنی آسمان سے نازل ہوں گے ۱۲۔

دجال کے لئے یُوَلَّدُ كَالْفَرْسِ جگہ نہیں آیا۔ دجال چونکہ دعویٰ الوہیت کا کرے گا اس لئے جناب مسیح بن مریم کی زبان مبارک سے پہلا کلمہ جو کہلایا گیا وہ یہ تھا قَالَ اِنِّي تَعْبِدُ اللّٰهَ اور چونکہ دجال سے بطور استدراج چند روز کے لئے احواء موتی ظہور میں آئے گا۔ اس لئے اس کے مقابل جناب مسیح بن مریم کو بھی احواء موتی کا اعجاز عطا کیا شدیختم اکبر فرماتے ہیں کہ دجال جس وقت ظاہر ہوگا۔ تو کہل موگا۔

اسی طرح جناب حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے تو کہل ہوں گے۔ کہ قال تعالیٰ۔
 وَكَرِهْتُمْ اَصْحَابِ الْاٰمِنِ۔ اور وہ زمینوں کو کہل ہو گئے اور نماز میں سے ہوں گے۔
 اور جس طرح حضرت مسیح کو آیت کہا گیا وَلَيَجْعَلَنَّ اٰیةً لِّلنَّاسِ اسی طرح دجال کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ كما قال الله تعالى۔

اَوْ اٰیٰتٍ بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِ
 بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّكَ۔ آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی۔
 اور حدیث میں مصرح ہے کہ بعض آیات ربک سے دجال وغیرہ کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ مگر جناب مسیح من جانب اللہ آیت رحمت ہیں۔ اور دجال آیت ابتلاء ہے۔

غرض یہ کہ جناب مسیح بن مریم اور دجال کے اوصاف اور احوال میں اس درجہ مقابلہ کی رعایت کی گئی کہ لقب تک میں تقابل کو نظر انداز نہ کیا گیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہدایت رکھا گیا۔ دجال کا لقب مسیح ضلالت رکھا گیا۔ اور چونکہ دجال ملک شام میں ظاہر ہوگا۔ اس لئے جناب مسیح بن مریم بھی اس کے قتل کے لئے شام میں جامع دمشق کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ اور باب لُد کے قریب اس کو قتل کریں گے۔ اور دجال چونکہ ظاہر ہوگا کہ

سے یعنی پیدا کیا جائے گا ۱۲ للہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا مشہر میں خدا کا بندہ

ہوں۔ ۱۲ صہ یعنی ادھیڑ عمر۔ ۱۲۔

شہید فساد برپا کرے گا۔ جیسا کہ حدیثِ نو اس بن سمان میں ہے۔

فَعَلَتْ يَمِينًا وَشِمَاةً ۚ
وہ ہر جگہ فساد پھیلائے گا۔

اس لئے جناب مسیح بن مریم حکم و عدل ہو کر نازل ہوں گے۔ اور چونکہ دجال کے ساتھ زمین کے خزانے ہوں گے اس کے مقابل جناب مسیح بن مریم اتنا مال تقسیم فرمائیں گے کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اور چونکہ بغض و عنادیت یہود کا خاص شعار ہے۔ اس لئے اس کو یک نعت متادیں گے۔

وَ اَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ۚ
اور ہم نے ان میں قیامت تک بغض و عناد
اِنِّي يُؤْمِرُ الْفَجِيئَةَ ۚ
ڈال دیا۔

اور چونکہ دجال یہود سے ہوگا۔ اور اسی وقت سے زندہ ہے۔ اس لئے حضرت مسیح بن مریم فقط دجال کو قتل فرمائیں گے۔ اور باقی دجال کے معاون اور مددگار کافر ہوں گے۔ اس لئے ان کا مقابلہ اس وقت کے مسلمان امام مدنی کے ماتحت ہو کر کریں گے۔

اور چونکہ یہود اپنی دشمنی اور عنادیت کی وجہ سے جناب مسیح بن مریم پر ایمان نہ لائے تھے اس لئے اس وقت یعنی نزول کے بعد ایمان لے آئیں گے۔

اور نصرانی ظاہراً ایمان تو لاتے۔ مگر عقیدہ ابنیت کی وجہ سے وہ ایمان کفر سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس لئے ان کی ہی اصلاح فرمائیں گے۔ اور آپ کی اصلاح سے وہ صحیح ایمان لے آئیں گے۔ غرض یہ کہ کل اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔

وَ اِنَّ مِنْ اٰهْلِ الْكِتَابِ الْاُوْدِيَّةِ
اور میں سے۔ کوئی اہل کتاب میں سے مگر
يَسْءَلُكَ عَنْ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ
صبر و ایمان لائے گا۔ حضرت عیسیٰ پر حضرت عیسیٰ
عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۚ
کی وفات سے پہلے اور قیامت کے دن حضرت
عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ يَرْشِدُ يَهْدِيكُمْ ۚ
عیسیٰ علیہ السلام ان پر مشید ہوں گے۔

اور چونکہ امام مدنی کے خاندان سے یزید نے خلافت غصب کی تھی۔ اس لئے اس کے

صلہ میں امام مہدی کو تمام روسے زمین کی خلافت اور سلطنت عطا ہوگی۔
 اور جناب مسیح بن مریم نہ کوئی سلطنت رکھتے تھے۔ اور نہ خلافت آپ کا امت سے
 تعلق نبوت اور رسالت کا تھا۔ تاکہ آپ پر ایمان لائیں۔ مگر یہودیوں کو ایمان ہی نہ لائے۔ اور نصاریٰ
 لائے تو غلط۔ لہذا آپ کا حق اہل کتاب کے ذمہ صرف ایمان ہے۔ اس لئے نزول کے بعد
 کوئی شخص اہل کتاب میں ایسا باقی نہ رکھا جائے گا۔ کہ جو آپ پر ایمان نہ لائے۔

دجال اس امت میں کیوں ظاہر ہوگا

نظام عالم پر ایک نظر ڈالنے سے ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے۔ کہ ہر سلسلہ کا سرچشمہ اور کوئی
 نہ کوئی مخزن اور کوئی نہ کوئی معدن ضرور ہے۔ آفتاب ہے۔ کہ تمام روشنیوں کا منبع ہے۔
 کرۂ نار ہے۔ کہ جو تمام حرارتوں کا مخزن ہے۔ کرۂ آب ہے۔ کہ تمام برودتوں کا معدن ہے
 کرۂ ارضی اور کرۂ ہوائی ہے کہ جو تمام رطوبتوں اور پوسٹوں کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک اسی
 طرح ضرور ہے۔ کہ اس عالم اجسام میں ایک معدن اور منبع ایمان کا ہو کہ جس سے تمام
 مومنین کے ایمان مستفاد ہوں۔ جس طرح زمین کے تمام روشنیاں آفتاب سے مستفاد ہیں
 اور ایک مخزن کفر کا ہو کہ اسی سے تمام کافروں کے کفر نکلتے ہوں اور ہر کافر اسی
 مخزن کفر کا ایک پر تو ہو۔ سو وہ مخزن ایمان ذات یا برکات نبی اکرم سرور عالم سیدنا محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مخزن کفر وہ سرپا شیطنت اور معین کفر و معیست دجال
 اکبر ہے۔

اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارواح مومنین کے لئے روحانی والد ہیں۔ دجال
 ارواح کافروں کے لئے روحانی والد ہیں۔ دجال ابوالکافرین ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم ابوالمومنین ہیں۔ لہذا قال تعالیٰ۔

الذی اولى بالموہدین من انفسہم
 نبی کریم مومنین کے حق ہیں ان کے نفوس سے

وَإِنَّ زَوْجًا جَدًّا أَخَذَ أُخْرًا مِمَّا قَبْلُهَا فَفَهُمْ وَأَوَّلُكُمْ
 قرأت میں ہے وَهُوَ آبٌ نَهْمُ۔
 زیادہ اقرب ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات! مومنین کی روحانی ماںیں ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے روحانی باپ ہیں۔

اور جس طرح آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ دجال اکبر خاتم الدجالین ہے۔
 اور جس طرح خاتم الانبیاء کی ایک مہر نبوت ہے۔ اسی طرح خاتم الدجالین کی مہر کفر ہے جیسا کہ

مکتوب بین عینیہ ص ۶۰ یعنی دجال کی پیشانی پر صاف کافر لکھا ہوا ہوگا۔
 جس طرح مہر نبوت حضور کی نبوت و رسالت کی حسی دلیل تھی۔ اسی طرح دجال کی پیشانی پر کافر کی کتابت اس کے دہل اور کفر کی حسی اور بدیسی دلیل ہوگی۔

اور جس طرح تمام انبیاء سابقین نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت دیتے چلے آئے اسی طرح انبیاء کرام دجال سے ڈراتے آئے۔ (حدیث میں ہے)

ما من یحیا الا وفن انذر قومه من کوئی نبی ایسا نہیں گذرا کہ جس نے اپنی قوم کو
 الدجال منہ ڈرا ہو۔

اور جس طرح خاتم الانبیاء کی نبوت بذریعہ مہر نبوت اور خاتم الدجالین کا کفر بذریعہ کتابت بین عینیہ کا فہر ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح قیامت کے قریب دابۃ الارض کے ذریعہ سے مومنین کا ایمان اور کافرن کا کفر پیشانی پر ظاہر کیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ جماعت مومنین کی اور کافرن کی آخری جماعت ہوگی۔ اور انہیں پر سلسلہ ایمان اور کفر کا ختم کر کے قیامت قائم کی جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب مکہ یا اجیاد کے زمین سے ایک جالور نکلے گا۔ جس کے ہاتھ میں ایک مہر ہوگی۔ مومن اور کافر کی پیشانی پر ایمان اور کفر کا نشان لگائے گا۔ مومن کی پیشانی پر سفید نکتہ۔ اور کافر کے ہاتھ پر سیاہ نکتہ لگائے گا اور اسے مومن اور اسے کافر سے ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے۔ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا

قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح سلسلہ نبوت اور سلسلہ دجل کے خاتم پر نبوت اور دجل کی مہر لگائی گئی۔ اسی طرح سلسلہ ایمان اور کفر کے خاتمین پر بھی ایمان اور کفر کی مہر مناسب ہوئی اس لئے کہ خاتم کے معنی جس طرح آخر کے ہیں۔ اسی طرح صاحب مہر کے بھی ہیں۔ پس خاتم کے لئے مہر کا ہونا نہایت مناسب ہے۔

آمد بر مطلب

پس جس طرح خاتم الانبیاء کی بعثت اخیر زمانہ میں اخیر ائم کی طرف ہوئی اسی طرح خاتم الدجالین کا ظہور اخیر زمانہ میں مناسب ہوا۔

ایک تشبیہ اور اس کا ازالہ

قیاس اس کو مقتضی ہے۔ کہ خاتم الدجالین بخلاف خاتم النبیین کریں۔ اور آپ خود اپنے دست مبارک سے اس کو قتل کریں۔ اور اگر بالفرض نبی اکرم خود قتل فرمائیں تو حضرت یحییٰ بن مریم کی کیا خصوصیت ہے کہ وہی نازل ہو کر نبی کریم کی طرف سے قتل فرمائیں۔

جواب

یہ ہے۔ کہ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ کمالات نبوت و رسالت اس رتبہ کو پہنچ چکے ہیں۔ کہ نہ کوئی آپ کا مماثل ہے۔ اور نہ مقابل۔ جس طرح آفتاب کے سامنے کسی ظلمت کا ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ اسی طرح آفتاب رسالت کے سامنے دجل کی ظلمت کا ظاہر ہونا محال ہے اور غالباً دجال اسی وجہ سے آپ کی موجودگی میں ظاہر نہ ہو سکا دم۔ یہ کہ آیت شریفہ:-

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
 آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
 لَقْتُمْ مِيثَاقَ اللَّهِ لَقْتُمْ مِيثَاقَ اللَّهِ
 وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِكُمْ إِصْرِي
 الرِّبَا

اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے سب انبیاء
 سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت
 دوں اور پھر تم سب کے بعد ایک رسول آئیں
 جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کریں تو
 ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرورت مہر کرنا۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس عہد کو قبول کیا۔

سب نے اس کو قبول کیا۔

حضرت زبور پر ایمان اور نصرت کا عہد دوسرے انبیاء سے لیا گیا ہے لہذا آپ کی امداد
 کے لئے انبیاء سابقین سے کسی کا ظہور ضروری ہے۔ اور انبیاء سابقین سے کوئی نبی دجال کا
 ضد اور مقابل ہونا چاہیے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی امت کی نصرت
 ظہور میں آئے۔

اب رہا یہ امر کہ اس بارہ میں کون آپ کی نیابت کرے تو غور کرنے سے یہ معلوم ہوا
 کہ جناب مسیح بن مریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب خاص ہیں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ
 نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ جن میں عَبْدُ اللَّهِ کے لقب سے ملقب فرمایا ہے۔
 لَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَيَدْعُوهُ كَادُوا
 جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے طور ہوتا
 ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔

اور حضرت مسیح نے بھی اپنے لئے اس لقب کو ثابت فرمایا ہے۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
 اور دوسرے حضرات انبیاء سے یہ ادعا و ثابت نہیں ہوا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ یہاں
 خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصفت عبدیت کے مخبر اور مظہر ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی عبدیت کو خود جناب باری عز اسمہ نے بیان فرمایا ہے۔

اور غالباً اسی نیابت خاصہ کی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد آمد کی بشارت

کا منصب حضرت مسیح بن مریم کو سپرد کیا گیا۔
 وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَّ
 اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ اِنِّيْ رَسُوْلٌ اَللّٰهِ الْبَرُّ كَسُوْ
 مَعَدِّا قَاتِلًا لِّلْمَآثِنِ اِنِّيْ اَمْرٌ مِّنَ اللّٰهِ سَآءَ
 وَفُتُوْرًا اِنِّيْ رَسُوْلٌ يَّا بَنِيَّ مِنْ نَّبُوْتِي
 اِسْمُهُ اَحْمَدُ۔

حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل
 میں اللہ کا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق
 کرنے والا ہوں۔ اور ایسے رسول کی بشارت
 دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے نام ان کا
 احمد ہوگا۔

اور اسی طرح حضرت مسیح قیامت کے دن مستشفیعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نکل شفاعت کے لئے حاضر ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس
 وقت یہ جواب دیں گے اِنَّ مَّحَمَّدًا لَكَآتَمُ الْعَبْدِيْنَ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ۔ آج تو
 خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ان سے شفاعت کی درخواست کرو
 علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنحضرت سے ایک خاص قرب بھی ہے۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم
 انا اولى الناس بعيسى بن مريم ليس
 نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا میں
 عيسى بن مريم سے بہت ہی اقرب ہوں میرے لئے اور
 بیٹی و بیٹنہ نبی (سواہ البخاری) ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔

اور غالباً حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی اکرم کی طرح معراج جسمانی میں شریک کرنا اسی
 اولویت کی وجہ سے ہوا اور جس طرح خاتم الانبیاء سے پیشتر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری
 رکھا گیا۔ اسی طرح خاتم الدجالیین سے پہلے و قبل کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
 تقوم الساعة حتى يبعثت دجالون
 نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک
 بہت سے دجال اور کذاب نہ آئیں ہر ایک یہ کہتا

یزعم انہ رسول اللہ وانہ کاتبی ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالانکہ میرے بعدی۔
بعد کوئی نبی نہیں۔

اس حدیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا مدار اصل میں خاتم الانبیاء کے آجانے کے بعد دعوائے نبوت و رسالت پر ہے۔

اس لئے کہ آپ نے دجالین کی علامت ہی یہ قرار دی ہے کہ ہم یزعم انہ رسول اللہ - یعنی فقط آپ کے بعد اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا رسول بنا گیا ہوں اسکے دجال ہونے کی قطعی اور یقینی دلیل ہے نیز دجال کے معنی التباس کے ہیں۔ اور دعویٰ الوہیت میں چند ان التباس اور اشتباہ نہیں جتنا کہ دعویٰ نبوت میں ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کو باوجود دعوائے الوہیت کے دجال نہیں کہا گیا۔ اس لئے کہ بشر کی عدم الوہیت میں کوئی اشتباہ نہیں۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک کھانے پینے والا اور گنے موتے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کہہ چکے ہیں بشر سے آئے ہیں اس لئے دعوائے نبوت میں عقلاً اشتباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خاتم النبیین اور ختم نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا۔ غرض یہ کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا سراسر دجال اور کھلا ہوا ارتداد ہے کہ جس کی سزا بجز قتل کے اور کچھ نہیں اس لئے جناب مسیح بن مریم نازل ہو کر دجال مدعی نبوت کو قتل فرمائیں گے کہ خاتم الانبیاء کے بعد کیوں نبوت کا دعویٰ کیا۔

ادراں لوگوں سے کہ جو اس مدعی نبوت کا ساتھ دیں گے امام مدعی آکر قاتل کریں گے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیلہ کذاب سے قاتل کیا۔ سبحان اللہ حق تعالیٰ نے کس طرح خاتم الانبیاء کے بعد مدعی نبوت کا واجب القتل ہونا ظاہر فرمایا کہ اس امت مرحومہ کے اقول اور آخر تخلیفہ دونوں سے مدعی نبوت کی جماعت کو خوب اچھی طرح قتل کرایا۔ نیز یہود کے قتل میں حکمت یہ ہے کہ یہود جناب مسیح بن مریم کے کچھ خاص مہرم ہیں۔

اول تو یہ کہ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔

دوم یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر طرح طرح کے افتراء باندھے۔

سوم یہ کہ آپ کے قتل میں پوری کوشش اور تدبیر سے کام لیا مگر حق تعالیٰ آپ کو بچا

صحیح و سالم آسمان پر اٹھایا۔

چہارم یہ کہ آپ کے بعد جس نبی یعنی خاتم الانبیاء کی آپ نے بشارت دی تھی اس پر ایمان

نہ لائے اور اس کے قتل میں بھی پوری کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔

پہنجم یہ کہ مسیح دجال کو خاتم الانبیاء کے بعد نبی مان بیٹھے۔ حالانکہ خاتم النبیین کے بعد

کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

اس لئے مناسب ہوا کہ اب یہود کا استیصال کیا جائے۔ اس لئے کہ اب کفر انتہا کو

پہنچ چکا ہے۔ خاتم الانبیاء کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس مدعی کا اتباع کرے وہ

شرعاً ہرگز نہ ہرگز زندہ نہیں رکھے جاسکتے ایمنما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلاً۔

پھر یہ کہ دجال اپنے کو مسیح کہہ کر خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگ

دھوکہ سے اس مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت یعنی مسیح بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام سمجھ کر ایمان

لائیں گے اور غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ اس لئے حضرت مسیح بن مریم کو اس ناقابل تحمل غلطی کے انزال

کے لئے نازل کرنا ضروری ہوا۔ اس لئے آپ اس کے قتل پر مامور ہوتے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ کون

مسیح ہدایت ہے اور کون مسیح ضلالت۔ ذلک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ

یمنون۔

واخود دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خاتم

خلقہ سیدنا و مولانا محمد النبی والامی خاتمت الانبیاء والمرسلین

علی الہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وعلینا معهم یا ارحم

الرحمین ویأکرکم الذکر میں ویأاجود الوجودین۔ آمین یا رب العلمین۔

الْأَعْلَامُ

بمعنی

الكشف والوحی والالهام

ان حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

کشف اور الہام اور وحی

کشف | عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی، اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔

قاضی محمد اعلیٰ تھانوی در کشف اصطلاحات الفنون صفحہ ۴۷ میں لکھتے ہیں۔
"الكشف عند اهل السلوک هو المكاشفة ومكاشفة رفع حجاب راگویند کہ میان روح

جسمانی است کہ ادراک آن بجز اس ظاہری نتوان کرد الخ"

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور نور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جانیہا چاہیے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔

الہام | کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ

لے کما فی احیاء العلوم ص ۳۰۳۔

قلب میں القاء ہونا الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے اور جو علم بغیر طور حواس اور طور عقل، من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام محض موصیبت ربانی ہے اور فراست ایمانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔

کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

وَجِي | وجی لغت میں غنی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے خواہ وہ بطریق اشارہ و کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام ہو یا بطریق کلام ہو۔ لیکن اصطلاح شریعت میں وجی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو اور اس کو وجی نبوت بھی کہتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وجی الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو روایتے صالحہ کہتے ہیں جو عام مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے کشف اور الہام اور ریاست۔ اس پر لفظ وجی کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر عرف شرع میں جب لفظ وجی کا بولا جاتا ہے تو اس سے وجی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطانی وسوسوں پر وجی کا اطلاق آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِٖٓ لَكٰٔنٌ اِلٰٓهًا مُّذْمُوۡمًا

لِیْٓ اَوْلِیَآئِنۡہِمۡۗ وَ کَذٰلِکَ جَعَلۡنَا لِبَنۡیِٓٓ عَلٰٓیؑ الشَّیْطٰنِ الْاِنۡسِ وَ الْجِنِّ یُوسِیۡ بِعَصۡفِہِمۡ
 لِیۡ یَتَّخِذَ سُحُوۡرَ النَّوۡلِ سُدُوۡرًاۗ لٰکِنۡ عَرَفَ الشَّیْطٰنُ وَ سُوۡسُوۡنَہٗٓ عَلٰٓیؑ اَنَّہٗٓ لَیۡسَ بِاِلٰہٍۭ اِلَّا رَجُلٌ مِّمَّہُمۡۗ وَ اِنَّہٗٓ لَفِیۡ سُلۡطٰنٍ مُّبۡیۡنٍ
وجی اور الہام میں فرق | وجی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطاء ہوتی ہے اور راست ہر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس

کی تبلیغ فرض ہوتی ہے اور الہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطاء نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطاء ہیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اسی وجہ سے الہام دوسروں

پر حجت نہیں۔ اور نہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔

نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وحی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے سو وہ از قسم بشارت یا از قسم تقسیم ہوتا ہے احکام پر مشتمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریمؑ کو جو وحی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام۔ اور بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تفہیم اور افہام کے لئے ہوتی ہے۔

جو نسبت روایتیں صالحہ کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام کو وحی نبوت سے ہے یعنی جس طرح روایتیں صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہے اسی طرح الہام درجہ میں وحی نبوت سے قدرے ہے اور جس طرح روایتیں صالحہ میں ایک درجہ کا اسام اور نفا ہوتا ہے اور الہام اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے نفعی اور مبہم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اور جس طرح روایتیں صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں جو شخص جس درجہ صالح اور جس درجہ صادق ہے اسی درجہ اس کا روایا بھی صالحہ اور صادق ہوگا۔ اسی طرح الہام میں بھی مراتب ہیں جس درجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی اسی درجہ کا الہام ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں کوئی حدیث من اللہ ہے تو وہ عمرین ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ یہ تحدیث من اللہ الہام کا ایک خاص مرتبہ ہے جو خواص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور صدق اور وحی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے بلکہ حق جہل شانہ کی شہیت یہ ہوتی ہے کہ حق کا ظہور اور صدق اس حدیث من اللہ کی زبان سے ہو۔ کما قال تعالیٰ قن قصہ موشی علیہ السلام خَلِيقٌ عَلٰی الْاَشْءَیِّ عَلٰی وَاللّٰہِ اِلَّا الْحَقُّ

یہ تحدیث الہی مرتبہ فاروقیہ ہے اس کے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے اوپر مرتبہ نبوت و رسالت ہے۔

وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق | اگر واردات قلبیہ کسی امر خیر اور امر
آخرت یعنی حق جل شانہ کی اطاعت

کی طرف داعی ہوں تو وحی رحمانی ہے۔ اور اگر دنیاوی شمولوں اور نفسانی لذتوں کی طرف
داعی ہوں۔ تو وہ وحی شیطانی ہے۔ کذا فی خوا تم الحکم ص ۱۷۷ و مدارج السالکین ص ۱۷۷

حضرات صوفیہ کرام کا مطلب

جس طرح حق جل شانہ نے وحی کو معنی لغوی کے اعتبار سے مقسم قرار دے کر اسکے
تحت میں وحی نبوت اور الہام اور شیطانی وسوسوں کو داخل فرمایا اور الہام کو معنی لغوی کے
اعتبار سے الہام فجور اور الہام تقویٰ کی طرف تقسیم فرمایا **قَالَ لَهُمَهَاذِهِ جُورٌ هَاؤَ تَقْوَاهَا**۔
اور لفظ ارسال معنی لغوی کے اعتبار سے شیطان بعین کیلئے آیا ہے۔ **وَاِنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ**
عَلَى الصُّكْرِ فَرِحَ۔

اسی طرح حضرات صوفیہ نے نبوت کو بمعنی لغوی لے کر مقسم بنایا۔ یعنی خدا تعالیٰ سے
اطلاع پانا اور دوسروں کو اطلاع دینا۔ اس معنی لغوی کو مقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت
اور وحی شریعت اور اولیاء کی ولایت اور الہام معرفت کو نبوت بمعنی لغوی کے تحت میں
داخل فرمایا۔ اور نبوت کے لئے چونکہ تشریح احکام ضروری ہے اور ولایت میں کوئی حکم شرعی
نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت و رسالت کا نام نبوت تشریحیہ رکھا اور
ولایت کا نام نبوت غیر تشریحی رکھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعت میں نبوت کی
دو قسمیں ہیں ایک نبوت تشریحیہ اور ایک نبوت غیر تشریحی بلکہ نبوت بمعنی لغوی کے
دو قسمیں ہیں ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریح احکام لازم ہے اور نبوت بمعنی
لغوی کی دوسری قسم ولایت اور الہام ہے جس سے صرف حقائق اور معارف کا انکشاف
ہوتا ہے مگر اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا حتیٰ کہ کشف اور الہام سے مقصد

کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور حضرات صوفیہ نے نہایت واضح طور پر اس کی تصریح کر دی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے اور جس قسم کی وحی حضرات انبیاء پر اترتی تھی وہ بالکل مسدود ہو گئی۔ اب نہ یہ منصب باقی ہے اور نہ کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنے اوپر نبی اور رسول کا لفظ اطلاق کرے۔ نبوت بالکل ختم ہو گئی۔ اولیاء کے لئے نبوت میں سے صرف وحی الہام باقی ہے اور حفاظ قرآن کے لئے یہ قرآن باقی ہے۔ حدیث میں ہے:-

من حفظ القرآن فقد ادرجت
 العبودیۃ بین جنیدیہ۔
 جس نے قرآن کو حفظ کر لیا تو اس کے دلوں
 پہلوؤں کے درمیان نبوت داخل کر دی گئی۔

اور علماء اور خواص امت کو منصب رسالت میں یہ حصہ ملا کہ وہ احکام شریعت کی تبلیغ کریں۔ اور فقہاء اور مجتہدین کو منصب رسالت سے یہ حصہ ملا کہ کتاب و سنت اور شریعت کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کریں اور غیر منصوص امور کا حکم اصول شریعت کے ماتحت رہ کر خدا داد نور فہم اور نور تقویٰ سے قرآن اور حدیث سے نکال کر امت کو فتویٰ دیں۔ اس طرح مجتہدین کو تشریح احکام کا ایک حصہ عطا ہوا۔ اور یہ بھی تصریح فرمائی کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کے یہ احکام اور یہ اوامر اور نواہی نازل ہوتے ہیں، وہ مدعی شریعت ہے ہم اس کی گردن اڑادیں گے۔

تو کیا مرزا صاحب کے نزدیک تمام اولیاء اور علماء اور حفاظ قرآن نبی ہو سکتے ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے؟ حضرات صوفیہ کی اس تحقیق سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر اولیاء کو نبوت غیر تشریحیہ سے حصہ ملا ہے تو فقہاء اور مجتہدین کو تو نبوت تشریحیہ سے حصہ ملا ہے لہذا مرزا بیوں کے نزدیک ائمہ اجتہاد تو تشریحی نبی ہونے چاہئیں۔

بلکہ حضرت شیخ علی الدین بن عربی نے نبوت بمعنی نفوی (یعنی خدا سے خبر لانا اور دیکھنا) کو اس قدر عام فرمایا کہ کسی موجود کو اس سے غالی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ فتوحات کے ایک

سورہ یسویں باب میں فرماتے ہیں :-

اعلم ان النبوة التي هي الاختيار من شئ سارية
في كل موجود عند اهل الكشف والوجود
لكنه لا يطلق على احد منهم اسم نبي ولا
رسول الا على الجلاء فلكة الذي انهم رسل.
(کبریٰ احمد مشاجہ)

جانتا چاہئے کہ نبوت جس کے معنی لغت
میں نبی دینے کے ہیں وہ اہل کشف کے نزدیک
تمام موجودات میں سراپت کئے ہوئے ہے لیکن
معنی شرعی کے اعتبار سے نبی اور رسول کا
اطلاق بجز فرشتوں کے اور موجودات پر نہیں

کیا جائے گا۔

اب دیکھئے کہ اس عبارت میں تمام مخلوقات اور تمام موجودات کے لئے ثابت فرمایا
اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ نبوت بمعنی لغوی یعنی اخبار عن الشئ تمام موجودات میں بیماری
وساری ہے مگر معنی شرعی کے اعتبار سے کسی پر نبی اور رسول کا اطلاق درست نہیں۔ شہد
کی کھپیوں کے لئے وحی اور ہر نفس کے لئے الہام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے **وَاَوْحِيَ رَبُّكَ
إِلَى النَّحْلِ** **قَالَهُمْ كَلْبُؤْرَهُمْ وَنَقَوْهَا** معلوم ہوا کہ وحی اور الہام کے فیض سے حیوانات بھی محروم
نہیں۔ خداوند ذوالجلال کی وحی اور الہام کی تار برقی ہر ایک مخلوق کے دل میں لگی ہوئی ہے۔
سب سے ربط آشنائی ہے تجھے دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے

اس مسئلہ کی تحقیق اور درکار ہوتو ہوادور النوادر صفحہ ۲۶۰ تا ۲۶۳ مصنفہ حضرت

حکیم الامت مولانا محمد انور قدس سرہ اور مسک الحتام مصنفہ ناپیز اور الشہاب مصنفہ حضرت
شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کی مراجعت کریں۔ واللہ اعلم وعلہ اتم واحکم۔

صوفیہ کے شطیاتیات | صوفیاء کرام کے یہاں ایک بات ہے جس کو شطیاتیات کہتے ہیں
شطیاتیات شطی یا شطیح کی جمع ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں شطیح کی

تعریف یہ ہے کہ جو بات غلبہ محال اور غلبہ وارد کی وجہ سے بے اختیار زبان سے نکل
جاسے اور بظاہر قواعد شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہو۔ اس کو شطیح کہتے ہیں۔ ایسے شخص

پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ دوسروں کو اس کی تقلید جائز ہے۔
 خود حضرات صوفیہ نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ ان شطھیات پر کسی کو عمل پیرا
 ہونا جائز نہیں بلکہ جس شخص پر یہ احوال نہ گذرے ہوں وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ بھی نہ کرے
 تاکہ فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔

الہام کا حکم شرعی | حضرات انبیاء کرام کا وحی اور الہام کی بحیثیت میں تو کیا کلام ہو سکتا
 ہے حضرات انبیاء کرام کا تو خواب بھی حجت قطعاً ہے۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی بناء پر بیٹے کے ذبح کا ارادہ فرمایا جس کی حق جہل شانہ
 نے قرآن کریم میں مدح اور توصیف فرمائی۔

الہام اولیاء اللہ کے الہام میں کلام ہے کہ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر الہام کتاب
 اللہ اور سنت رسول اللہ اور قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے واجب
 نہیں اور جو الہام کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا بالاجماع جائز نہیں
 جو الہام قرآن و شریعت کے خلاف ہو وہ الہام رحمانی نہیں بلکہ وہ الہام شیطانی ہے بلکہ الہام
 کے صادق اور کاذب ہونے کا معیار ہی کتاب و سنت کی موافقت اور مخالفت ہے۔
 صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے بھی اپنے الہام پر عمل نہ فرماتے تھے جب تک کہ کتاب و سنت
 سے اس کی تصدیق و تائید نہ ہو جاتے۔

امام غزالیؒ، احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ابو یلیمان داندانی یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہام پر
 اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک آثار سے اس کی تصدیق نہ ہو جاتے۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف پر عمل کرنا
 جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے مخالف نہ ہو۔

قاضی ثناء اللہ صاحب ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا الہام علم
 ظنی کا موجب ہے اگر کسی ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے خلاف ہو اگرچہ وہ حدیث

خبر اُحد میں سے ہو بلکہ اگر ایسے قیاس صحیح کے بھی خلاف ہو کہ جو شرائط قیاس کو خارج ہو تو اس جگہ بمقابلہ کشف والہام قیاس کو ترجیح دینی چاہیے اور یہ مسئلہ تمام سلف اور خلف میں منفق علیہ ہے۔ اب مکتوبات حضرت مجدد اہل ثانی کی ایک عبارت مع ترجمہ نقل کی جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِذٰلِ اَرْشَادِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ اَلْهٰدٰی سَوَآءِ الصّٰوِرِ

کہ از جملہ ضروریات طریق سلوک	اسے عزیزتر اہجان سے ذمہ لے کر عطا کرے
اعتقاد صحیح است کہ علمائے اہل سنت اسے	اور سید سے راستگی ہدایت کرے کہ طریق سلوک
اذا کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ	کے ضروری امور میں سے صحیح عقیدہ رکھنے جو
اندہ و کتاب و سنت را معمولی دانستن بر معانی	علمائے اہل سنت نے قرآن و حدیث اور آثار
کہ جمہور علمائے اہل حق یعنی علمائے اہل سنت	سلف سے انہذا کیا ہے اور قرآن و حدیث کو اپنی
و جماعت اس معنی را از کتاب و سنت فہمیدہ	معانی پر معمولی کرنا بھی ضروری ہے جو علمائے حق
اند نیز ضروری است و اگر بالفرض خلاف	یعنی علمائے اہل سنت و جماعت نے قرآن و حدیث
اس معانی مفہومہ بکشف و الہام امرے ظاہر	سے سیکھے ہیں اور اگر بالفرض ان اہل سنت کے
شود آن را اعتبار نیاید کرد در ازان استعاذہ	سچے ہوتے معانی کے خلاف کشف و الہام کے
باید نمود۔ مثلاً آیات و احادیث کہ از ظواہر	ذریعہ کوئی بات ظاہر ہوتی اس کا اعتبار نہ کرنا چاہیے
آنها توہید وجود مفہوم می شود و ہمچون احاطہ	مثلاً وہ آیتیں اور حدیثیں جن کے ظاہری پہلوؤں
و سر بیان و قرب و معیت ذاتیہ معلوم می	سے وعدہ الوجود سمجھ میں آتی ہے یا اسی طرح
گرد و چوں علمائے اہل حق ازان آیات و	باری تعالیٰ کا ذاتی لحاظ سے ہر جگہ عادی و
احادیث این معنی نفہمیدہ اند اگر در اثنائے	ساری ہونا اور ذاتی قرب و معیت معلوم
راہ برسا لک این معانی منکشف شود	ہوتی ہے۔ چونکہ علمائے حق نے ان آیات و احادیث

ہیں یہ باتیں مکشفت ہوں اور ایک دخلی کے
 سوا کسی کو موجود نہ پاتے یا خدا کو بالذات محیط
 سمجھے اور بالذات قریب پاتے تو اگرچہ وہ سالک
 بوجہ مکر کی حالت کے غلبہ کے اس وقت معذور
 ہے لیکن اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے
 کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس پکڑ سے نکال کر اہل حق
 علماء کی درست رہائش کے موافق اس پر ظاہر
 فرمادے اور ان سچے عقیدوں کے خلاف بال
 برابر بھی ظاہر نہ ہونے دے۔ غرض اہل حق کے
 سمجھے ہوتے معانی کو اپنے کشف کا معیار بنانا
 چلبیسے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنے الہام
 کی کسوٹی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جو معانی اہل
 حق کے سمجھے ہوتے معانی کے خلاف ہیں وہ درجہ
 اعتبار سے گہرے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ دونوں قسم
 ہر جہت سے اور گمراہ اپنے پیشوا کے عقائد کو
 قرآن و حدیث سمجھتے ہیں اور اپنی ناقص اور
 یوچ سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث سے حقیقت
 کے خلاف معانی بگھتا ہے۔ (راہ قرآن سے بہت
 سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت راہ پاتے ہیں)
 اور یہ جو ہیں نئے کما کہ اہل حق کے سمجھے ہوتے
 معانی معتبر ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں یہ

و موجود چیز کے نیابت یا اور بالذات محیط
 داند و قریب فائتا یا یہ ہر چند اور دریں وقت
 ہو اسطر غلبہ سال سکر معذور است اما باید
 کہ ہمیشہ بحق سبحانہ تعالیٰ ملتی و متضرع باشد
 کہ اور ازین ورطہ بر آورده امورے کہ مطابق
 آرتے صاحبہ علمتے اہل حق مست بروتے
 منکشف گرداند و سر موسے خلاف معتقدات
 حقد ایشان ظاہر سازد بالجہ معانی مفهوم
 علمائے اہل حق را مصدرق کشف خرید باید
 ساخت و مک الہام خود را جزاں نباید داشت
 چہ معانی کہ خلاف مفهوم ایشان است
 از نیز اعتبار ساقط است زیرا کہ ہر مبتدع
 و ضال معتقدات معتزلتے خود را کتاب و
 سنت می داند و باندازہ افہام رکیکہ خود را
 معانی غیر مطابق می فہمیدیند یا کہ کثیر آد
 یتہدی بہ کثیر آد۔ و آنکہ گفتیم کہ معانی فقہ
 اہل حق معتبر است و خلاف آن معتبر نیست بنا
 بدانست کہ آن معانی را از مجمع آثار صحابہ
 و سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
 اخذ کردہ اند و از انوار نجوم ہدایت ایشان اقتباس
 فرمودہ اند۔ لہذا تجاہت اہدی مخصوص با ایشان

اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ان معانی کو صحیح اور سلف صالحین سے اخذ کیا ہے اور ان کے اشارہ ہدایت سے نور حاصل کیا ہے اسی لئے ابدی نجات اور دائمی فلاح ان کے لئے مخصوص ہو گئی وہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت اور سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پائیوالی ہے اگر بعض علماء باوجود صحیح عقائد جاننے کے جزئیات و ذریعات میں حق کو چھپائیں اور اعمال میں تقصیر کریں تو اس سے مطلقاً تمام علماء کا حکم کرنا اور سب کو مذمت کرنا کھلی ہے انصافی اور ہٹ دھرمی ہے بلکہ یہ چیز دوسرے انصافیوں کی ضروریات دین سے انکار کر دینا ہے۔ کیونکہ ضروریات دین کے روایت کرنے والے اور ان میں کھوئے کھرے کی تمیز کرنے والے ہی علماء ہیں کہ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے اور اگر ان کی طرف سے حق و باطل میں تمیز نہ کی جاتی تو ہم بھٹک جاتے یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی آخری کوشش تک دین کا بول بالا کرنے کے لئے صرف کر دی ہے اور انسانوں کے ہمت سے گروہوں کو سیوے راستہ پر چلا دیا ہے پس جس نے ان کا اتباع کیا اس نے نجات و فلاح پائی اور جس نے ان کی مخالفت کی وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کے لئے گمراہی کا ذریعہ بنا۔

گشت و فلاح سرمدی نصیب شال آمد
 اُولَئِكَ يَجُزِبُ اللَّهُ الْآزَانَ يَجُزِبُ اللَّهُ
 هُمْ اَنْتُمْ لِحُجُونٍ وَاگر بعضے از علماء باوجود
 حقیقت اعتقاد در فرعیات ملائمت نمایند
 مرکب تفصیلات باشد در عملیات انکار
 مطلق علم نمودن و ہمہ را مطعون ساختن
 انصافی محض است و مکابره صرف بلکہ انکار
 است از اکثر ضروریات دین چه ناقلاً
 آن ضروریات ایشانند و ناقلاً از جمیدہ
 آن را از رویہ ایشانند لولا ذلک ہدایت ہم
 نہا ہتدینا لولا تمیز ہم الصواب من
 الخفا لغوینا ہم الذین بذلوا جہود ہم فی
 اعتد کلمۃ الدین القویہ و اسدکوا
 طوائف کثیرہ من الناس علی صراط مستقیم
 فن تابعہم بنجی و من خالفہم صل و اضل
 مکتوب رو صد و ہشتاد و ششم

از جلد اول

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی

مرزا صاحب کو اپنے الہام پر خود بھی یقین نہ تھا

مرزا صاحب کے الہامات چونکہ القاء شیطانی تھے اس لئے خود مرزا صاحب کو بھی اپنے الہامات پر یقین نہ تھا۔ چنانچہ مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں:-
 "میں نے ایک عرصہ تک الہامات کی پیروی میں کی جب تک کہ ان الہامات کو قرآن و حدیث کے موافق جانچ نہ لیا"

جانچنے کی وجہ یہ تھی کہ مرزا صاحب کو شبہ تھا کہ یہ الہامات خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ مرزا صاحب کو یقین تھا کہ یہ الہامات من جانب اللہ نہیں بلکہ ان کے نفس کے من گھڑت ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ مگر اندیشہ یہ تھا کہ لوگ اس الہام کو سن کر متوحش ہوں گے۔ اس لئے سوچتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں کس طرح تاویل کر کے الہام کو اس کے مطابق بنا دوں۔

واخود دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد
 و على آله و صحبه اجمعين و علينا معهم يا ارحم الراحمين۔

محمد ادریس کان اللہ له وکان ہولئلا آمین

(۲۰ جمادی الثانیہ ۱۳۷۳ھ یوم چہار شنبہ)

اسلام اور مزاجیت
کا
اصولی اختلاف

اسلام اور مزاجیت
کا
اصولی اختلاف

اسلام اور مرزائیت کا اصولی اختلاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین . و العاقبة للمتقین و الصلوة والسلام علی سیدنا و مولانا
محمد و علیہ و آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریا کتہ اجمعین
اھا بعد بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مرزائی اور قادیانی مذہب
اسلام سے کون علیحدہ مذہب نہیں۔ بلکہ مذہب اسلام ہی کی ایک شاخ ہے اور دیگر
اسلامی فرقوں کی طرح یہ بھی ایک اسلامی فرقہ ہے اس لئے یہ لوگ قادیانیوں کو مرتد اور
دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے میں تامل کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ان لوگوں کی یہ غلط فہمی
مذہب اصول اسلام سے لاطلمی اور بے خبری پر مبنی ہے یہ مسلمان کی جمالت کی انتہا ہے کہ
اسے اسلام اور کفر میں فرق نہ معلوم ہوا۔ بیاننا چاہئے کہ ہر ملت اور مذہب کے کچھ اصول اور
عقائد ہوتے ہیں کہ جن کی بناء پر ایک مذہب دوسرے مذہب سے جدا اور ممتاز سمجھا جاتا
ہے اسی طرح اسلام کے بھی کچھ بنیادی اصول اور عقائد ہیں کہ ان اصول اور عقائد کے اندر
رہ کر جو اختلاف ہو وہ فرعی اختلاف ہے اور جو اختلاف ان مسلمہ اصول اور عقائد کی
کی حدود سے نکل کر ہو وہ اصولی اختلاف کہلاتا ہے اور اس اختلاف سے وہ شخص دائرہ
اسلام سے خارج اور مرتد سمجھا جاتا ہے۔

اس مختصر تحریر میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قادیانی مذہب ،
مذہب اسلام کے اصول اور عقائد سے کس درجہ متصادم اور مزاحم ہے تاکہ یہ امر روشن
کی طرح واضح ہو جلتے کہ اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے مرزائی
مذہب کے اصول اور عقائد مذہب اسلام کے اصول اور عقائد کے بالکل مباحین اور
مخالفت ہیں بالکل ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں مذہب اسلام اور مرزائیت ایک

جایز نہیں ہو سکتے۔ ناقول باشد التوفیق و بیدہ از مہ تحقیق۔

مرزائیوں کے نزدیک بھی اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے فروعی نہیں

یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان میں کوئی فروعی اختلاف ہے کسی مامور من اللہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے، ہمارے مخالف حضرات مرزا صاحب کے ماموریت کے منکر ہیں۔ تاؤ یہ اختلاف فروعی کیونکہ ہوا قرآن مجید میں تو لکھا ہے لا نفرق بین احدہن رسولہ۔ لیکن حضرت مسیح موعود کے انکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔ نبج الصلی مجبوعہ فتویٰ احمدیہ ص ۲۷۷۔

پہلا اختلاف

مسلمانوں کے نبی اور رسول مُحَمَّدٌ عربی فداہی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مرزائیوں کے نبی مرزا غلام احمد کادانی ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی ہی کے مینے سے قوم اور مذہب جدا کجا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی قوم یہود اور نصاریٰ سے اسی لئے جدا ہے کہ ان کا نبی اللہ کے رسول ہے۔ مالا نکہ مسلمان بھی حضرت موسیٰ یا فقط حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو شخص فقط حضرت موسیٰ یا فقط حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھے اور مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ یہودی اور عیسائی ہے مسلمان اور محمدی نہیں کہلا سکتا اور جو یہودی اور عیسائی مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ یہودی اور عیسائی نہیں رہتا بلکہ مسلمان مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔

اسی طرح جو شخص مرزا غلام احمد پر ایمان لائے وہ مسلمان اور محمدی نہیں کہلا سکتا اس لئے کہ نئے پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے پہلے پیغمبر کی امت سے خارج ہو جاتا ہے اور نئے نبی کی امت میں داخل ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ تمام مرزائی غلام احمد کو نبی

ماننے کی وجہ سے مُحَمَّدٌ تَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی امت اور
 دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ان کو مسلمان اور محمدی کہنا جائز نہیں ان کو مرزائی اور علی
 اور قادیانی کہا جائے گا اور ان کا دین اسلام نہیں ہوگا بلکہ ان کا دین مرزائی دین ہوگا۔

دوسرا اختلاف

تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَيَّنَ لِيْنَ
 یعنی آخری نبی ہیں جیسا کہ نص قرآنی مَا كَانَ مِنْ مَّحَمَّدٍ اَبًا اَحَدٍ قَوْمًا يٰۤاٰمَنُوْنَ اِيْحٰۤا لَكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلًا
 اللّٰهُ وَخَاتَمَ النَّبِيّٰتِ۔ اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین اور امت محمدیہ کے یہ سب کچھ کے
 تمام علماء و متقدمین اور متاخرین کے اتفاق سے یہ علم ہے کہ نبوت و رسالت محمدؐ کوئی نہ صل اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے
 یہ امام کا اساسی اصول اور بنیادی عقیدہ ہے جس میں کسی اسلامی فرقہ کو اختلاف نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب
 کہ نبوت حضور پر ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گویا کہ مرزا صاحب کے علم میں
 حضور خاتم الانبیاء نہیں بلکہ فاتح النبیین میں نبی نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔

امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع۔ حضور کے وصال کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلا اجماع
 ہوا وہ اسی مسئلہ پر ہوا کہ جو شخص محمدؐ کو صل اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت نبوت کو تسلیم کیا جائے۔
 اسوہ غنی نے حضور صل اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں دعوت نبوت کیا حضور صل
 اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قتل کے لئے روانہ فرمایا صحابی رضی اللہ عنہ نے جا کر اسوہ
 غنی کا سر قلم کیا۔ سید کذاب نے بھی نبوت کا دعوتی کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت
 کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ سید کذاب کے قتل اور اس کی جماعت کے مقابلہ
 اور مقاتلہ کے لئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ
 کیا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے سید سے یہ سوال نہیں کیا کہ تو کس قسم کی نبوت کا دعوتی کرتا ہے، مستقل
 نبوت کا مدعی ہے یا ظلی اور بروزی نبوت کا مدعی ہے اور نہ کسی نے سید کذاب سے اسکی کس
 نبوت کے دلائل اور براہین پوچھے۔ اور نہ کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر

میدان کارزار میں پہنچا میلہ کذاب کے ساتھ چالیس ہزار جوان تھے خالد بن ولید سیف اشتر نے جب تلوار پکڑی تو میلہ کے اٹھائیس ہزار جوان مارے گئے اور خود میلہ بھی مارا گیا خالد بن ولید منظر و منصور مدینہ منورہ واپس آئے اور مال غنیمت مجاہدین پر تقسیم کیا گیا۔ میلہ کے بدر طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کے لئے بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ فتوح البلدان منظر۔

اس کے بعد خلیفہ عبدالملک کے عہد میں حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ وقت کے علماء صحابہ و تابعین کے مشفقہ فتویٰ سے اس کو قتل کر کے سولہ پر چڑھایا اور کسی نے اس سے دریافت نہ کیا کہ تیری نبوت کی کیا دلیل ہے اور نہ کوئی بحث اور مناظرہ کی نسبت اور نہ معجزات اور دلائل طلب کئے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

و فعل ذلك عبور واحد من الخلفاء
بہت سے خلفاء اور سلاطین نے مدعیان
والسنة بأشباہم . نبوت کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ ہارون رشید نے علماء کے مشفقہ فتویٰ سے اس کو قتل کیا۔ خلاصہ یہ کہ قرون اولیٰ سے لے کر اس وقت تک تمام اسلامی عدالتوں اور درباروں کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے کا فر اور مرتد اور واجب القتل ہیں اب بھی مسلمانان پاکستان کی وزراء حکومت سے استدعا ہے کہ خلفائے راشدین اور سلاطین اسلام کی اس سنت پر عمل کر کے دین اور دنیا کی عزت حاصل کریں۔ عزیزیکہ از درگوش سر یافت : بہر در کہ شد بیچ عزت نیافت

قتل مرتد کے متعلق مرزائی خلیفہ اول حکیم نور الدین کا فتویٰ

مجھے حکیم نور الدین صاحب کی خبر لے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور اب تمہارے کہنے سے

معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کر دے اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالہ بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔

رسالہ تشہید الاقان قادیان جلد ۹ نمبر ۱۱ ص ۱۱۱ بیت ماہ نومبر ۱۹۱۳ء

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ خلیفہ نور الدین صاحب کے نزدیک بھی مرتد کی سزا قتل ہے اس لئے مخالفین کو خالہ بن ولید کے اتباع میں اس سنت کے جاری کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔

قادیانیوں کو حج بیت اللہ کی ممانعت کی وجہ

مرزائیوں کے نزدیک قادیان کی حاضری ہی بمنزلہ حج کے ہے اور مکہ مکرمہ جانا اس لئے ناجائز ہے کہ وہاں قادیانیوں کو قتل کر دینا جائز ہے۔

پچنانچہ مرزا محمود صاحب خلیفہ ثانی ایک خطبہ جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور پہلا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لئے مقرر کیا تھا۔ آج احمدیوں کے لئے دینی لحاظ سے تو حج مفید ہے مگر اس سے اصل غرض یعنی قوم کی ترقی تھی وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علماء حرمین کے نزدیک قادیانی مرتد اور واجب القتل ہیں۔

تیسرا اختلاف

تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری نجات کے لئے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر ایمان لانا کافی ہے مرزائی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار مرزا غلام احمد پر ایمان لانے پر ہے اور جو شخص مرزا غلام احمد پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور

ابدی جہنم کا مستحق ہے نہ اس کے ساتھ نکاح جائز اور نہ اس کی نماز جنازہ درست ہے۔
 مرزا صاحب کے متبعین کے سوا دنیا کے پچاس کروڑ مسلمان کافر اور اولاد الزنا ہیں۔
 چنانچہ اسی بناء پر چودھری ظفر اللہ نے قائد اعظمؒ کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں
 کی کہ ظفر اللہ کے نزدیک قائد اعظمؒ کا فراد جہنمی تھے۔

قائد اعظم کی وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ نصیح الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد
 عثمانی قدس سرہ سے پڑھائیں چنانچہ وصیت کے مطابق شیخ الاسلام نے تمام ارکان
 دولت اور مسلمانان ملت کی موجودگی میں قائد اعظمؒ کا جنازہ پڑھا اور اپنے دست مبارک
 سے ان کو دفن کیا۔

قائد اعظمؒ کا مذہب

اس وصیت اور طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ قائد اعظمؒ کا مذہب وہی تھا جو حضرت
 شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کا تھا اور پاکستان اسی قسم کی اسلامی حکومت ہے کہ جس قسم
 کا اسلام حضرت شیخ الاسلام کا تھا۔ مولانا شبیر احمدؒ اسی پاکستان کے شیخ الاسلام تھے۔ اور ساری
 دنیا کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام عثمانیؒ جماعت کو مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے تھے۔
 اہل ان کی نظر میں میلہ پنجاب کا وہی حکم تھا جو شریعت میں پیامہ کے میلہ کذاب کا ہے شیخ الاسلام
 مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی تحریرات اس بارہ میں صاف اور واضح ہیں۔

تمام روئے زمین کے کلمہ گو مسلمان مرزائیوں کے نزدیک کافر اور

جہنمی اور اولاد الزنا ہیں

مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے ایک ٹک حرف پر بھی
 عمل کرے مگر مرزا صاحب کو نبی نہ مانے تو وہ ویسا ہی کافر ہے جیسے یوڈ اور نصاریٰ اور

دیگر کفار اور مرزا صاحب کے تمام منکرا و لاد الزماء ہیں۔ قادیانی مزہب ص ۱۲۷

چوتھا اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے جو حضور پر نور نے فرمائی اور اس کے بعد صحابہ و تابعین کی تفسیر کا درجہ ہے مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہی تفسیر معتبر ہے جو میں بیان کروں اگرچہ وہ تمام اہل حدیث متواترہ اور صحابہ اور تابعین اور امت محمدیہ کے تمام علماء کے خلاف ہو۔

پانچواں اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے یعنی خدا عجازہ کو پہنچا ہوا ہے۔ کوئی اس کا مثل نہیں لاسکتا ہے۔

مرزا صاحب اور مرتائی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا کلام بھی معجزہ ہے۔ مرزا صاحب اپنے قصیدہ اعجازیہ کو قرآن کی طرح معجزہ قرار دیتے تھے۔ مرتائیوں کے نزدیک مرزا صاحب کی وحی پر ایمان لانا ایسا ہی فرض ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے اور جس طرح قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے اسی طرح مرزا صاحب کی وحی اور الہامات کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ معلوم نہیں کہ کیا مرزا صاحب کے انگریزی الہامات کی بھی قرآن کی طرح تلاوت عبادت ہے یا نہیں، واللہ اعلم۔

اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کسی اور کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہو تو قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب نہ ہوگی مرزا صاحب قرطتے ہیں۔

انچہ من بشنوم زوحی خلد ۛ بخلد پاک دانش از خطا
ہچو قرآن مندر استش وانم ۛ از خطا ہمیں است ایمانم
درمن ص ۲۱۵ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی۔

چھٹا اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سَأَسْأَلُ اللّٰهَ صَلَاتِيْ اِلَيْهِ وَعَلَمِيْ كِي حَدِيثِ حُجَّتِ
ہے اور اس کا اتباع ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے من يعظم الرسول فقد عظم الله - وہا
ادسلنا من رسول الا بظنا باذن الله - مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حدیث
نبوی میری وحی کے موافق نہ ہو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ مرزا صاحب
حدیث نبوی کے متعلق لکھتے ہیں۔

(۱) جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے
تھا سے علم پا کر رد کرے۔ حاشیہ تحفہ گونہ و یہ سنک

(۲) اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اعجاز احمدی ص ۲۹

ساتواں اختلاف

قرآن اور حدیث جہاد کی ترغیب اور اس کے احکام سے ظہار ٹپا ہے۔ مرزا صاحب
کہتے ہیں کہ جہاد شرعی میرے آنے سے منسوخ ہو گیا اور انگریزوں کی اطاعت اولی الامر کی
اطاعت ہے اور انگریزوں سے جہاد کرنا حرام قطعی ہے۔ مگر
پاکستان کی تخریب کے لئے فوجی تیاریاں اور ریشہ دوانیاں، قادیانیوں کے نزدیک
فرض عین ہیں اور لیل و نهار ای دھن میں لگے ہوتے ہیں۔

آٹھواں اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ -
ہیں آپ کے بعد آنے والا خواہ کتنا ہی صالح اور متقی ہو وہ انبیاء و مرسلین سے افضل و بہتر

نہیں ہو سکتا مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تمام انبیاء کرام سے افضل ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

انبیاء گرسپر لودہ اندھے من بفرمان نہ کمتر از کے
 انچہ دادست ہرنہی را جام دادن آن جام را مرا ہتمام
 کم نیم زان ہمدروستے یقین ہر کہ گوید دروغ است بعین
 درشن ص ۲۸ و ص ۲۹ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی۔

نواں اختلاف

از روئے قرآن و حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور برگزیدہ بندے بغیر باپ کے مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوتے صاحب معجزات تھے۔
 مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح بن مریم سے افضل ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جو مغلظات اور یازاری گالیاں لکھی ہیں ان کے تصور سے ہی کلیجہ شق ہوتا ہے بطور نمونہ ایک عبارت ہدیہ ناظرین کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلاء ص ۱۔

خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسیح بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا حقیقتہ الوسی ص ۱۳۵ ص ۱۳۶ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک ہے مگر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود پدید ہوا حاشیہ ضمیمہ انجام آتم ص ۱۰۱ پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی کیوں نام رکھا ضمیمہ انجام آتم ص ۱۰۱ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کس قدر چھوٹ بولتے

کی عادت تھی درحاشیہ ضمیمہ اہم مسئلہ ازالہ کلال مسئلہ اعجاز احمدی مسئلہ وصلہ ازالہ اویام
صفحہ ۱۳۲ و ۱۳۳ و کشی نور ص ۱۱۱۔

دسواں اختلاف

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے محمد عربی خدا کا نبی و اچھی صفتی اللہ علیہ وسلم سید
الاولین والآخرین اور افضل الانبیاء والحمد للہم سلیین۔ ہیں اور قادیان کا
ایک دہقان اور دشمنان اسلام یعنی نصاریٰ بے لگام کا ایک زبردست غلام یعنی مرزا غلام قادیانی
کبھی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں عین
نحمدہ ہوں اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اور بتر ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف تین ہزار تھے۔ تحفہ گوہر وہ ص ۱۱۱ اور مرزا صاحب
کے معجزات کی تعداد براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱۱ میں دس لاکھ بتائی ہے گویا کہ معاذ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزائے قادیان سے شان اور مرتبہ میں تین سو تینتیس درجہ کم
ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو آیتیں حضور پر نور کے بارے میں آتی ہیں ان کے متعلق یہ کہتا ہے
کہ یہ آیتیں میرے بارے میں آتی ہیں۔ مثلاً

۱۱ آیت سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ الْخَیْرِ جِسْمِیْ حَضْرَہٗ عَلَیْہِ سَلَامٌ
۱۲ ثُمَّ دَنٰی فَتَدَلٰی فَاَنْ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی۔ جس میں حضور کے قرب خداوندی
یا قرب جبرئیل کا ذکر ہے۔

۱۳ اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۱۴ قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ

۱۵ اِنَّا اعْطٰیْنَاکَ الْکُوْنِیْنَ۔ وغیر ذلک من الآیات۔

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں میرے بارے میں مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ اور مثلاً
قرآن کریم میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بشر ابرہہ یا آئی من بعدی احمد احمد آیا

ہے اس سے بھی مرزا صاحب ہی مراد ہیں۔ اور محمد اور احمد میرا نام ہے۔ مرزا کیلئے ایک
دجال بھی ہے اور نقال بھی ہے۔

قادیان بمنزلہ مکہ اور مدینہ کے ہے

مرزا شیوں کا قادیان بمنزلہ مکہ اور مدینہ کے ہے اس مسجد کے بارے میں کہ جو مرزا
صاحب کے چوہارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے۔ (مرزا بن احمد ص ۵۵ حاشیہ درعاشیہ)

قادیان کی زمین ارض حرم ہے

زمین قادیان اب محترم ہے
بجہم خلاق سے ارض حرم ہے
درمیں ص ۵۲ مجموعہ کلام مرزا غلام احمد۔

قادیان کی حاضری بمنزلہ حج کے ہے

مرزا بشیر الدین محمود اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔ ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے اور جیسا
حج میں رقت اور فسوق اور جدال منع ہے ایسا ہی اس جلسہ میں بھی منع ہے۔ خطبہ مندرجہ
مجموعہ تقاریب گوئی کہ آیت فَذَلِمْتُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قادیان
کے جلسہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔

قادیان میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ!

پس اس مسجد سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے جس کچھ شک
نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رحمن الذی اسری
بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ وبقیہ حاشیہ ص ۵۲

برصغیر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہی ہے کہ جس کو مسیح موعود نے بنایا ص ۲۵ منقول
از قادیان مریب۔

قادیان میں ہستی مقبرہ

قادیان میں ہستی مقبرہ کے نام سے ایک مقبرہ ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں جو اس میں دفن
ہوگا وہ ہستی ہوگا۔ ملفوظات احمدیہ ص ۱۴۱ اور پھر الہام ہوا کہ روئے زمین کے تمام مقابر
اس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مکاشفات مرزا ص ۵۹

مرزا صاحب کی امت

مرزا صاحب نے جا بجا اپنے ماننے والوں کو اپنی امت بتایا ہے۔

مرزا صاحب کے مریدین بمنزلہ صحابہ کے ہیں

امت محمدیہ کی طرح مرزا صاحب کی امت میں طبقات ہیں مرزا صاحب کے دیکھنے
والے صحابہ کہلاتے ہیں۔ اور ان کے دیکھنے والے تابعین اور تبع تابعین۔

مرزا صاحب کے اہل و عیال بمنزلہ اہل بیت کے ہیں

اور مرزا صاحب کے خاندان کو اہل بیت اور خاندان نبوت اور مرزا صاحب کی بیویوں
کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔

مرزا صاحب کا خاندان خاندان نبوت ہے

اور مرزا صاحب کے خاندان کو خاندان نبوت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور قرآن

اور حدیث میں اہل بیت اور ذوی القربی کے جو حقوق اور احکام آئے وہ سب مرزا صاحب کے خاندان اور اہل بیت کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔

مرزا صاحب کی امت میں ابو بکر و عمر

حکیم نور الدین خلیفہ اول کو مرزائی امت کا ابو بکر صدیق مانا گیا ہے اور مرزا بشیر احمد خلیفہ ثانی کو اس امت کا عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

گر بہ میر و سنگ وزیر و موش با دیوان کنند
ایں چنین ارکان دولت ملک و پیران کنند

مرزا صاحب پر مستقلاً صلوة و سلام کی فرضیت

اور مرزا صاحب کے مریدین اور کاتبہ کی اس میں شرکت اور شمولیت پس آیت **میرا یہا الذین اصنوا صلوا علیہ و سجدوا تسبیحاً** کی رو سے اور ان احادیث کی رو سے جن میں آن حضرت **صَلَّى اللهُ تَعَلُّيْهِ وَ سَلَّمَ** پر درود بھیجنے کی تاکید پائی جاتی ہے حضرت مسیح موعود (مرزا صاحب) علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا از بس ضروری ہے۔ رسالہ درود شریف مصنفہ محمد اسماعیل قادری ص ۱۲۶ از روئے سنن اسلام و احادیث جو یہ ضروری ہے کہ تصریح سے آپ کی آل کو بھی درود میں شامل کیا جائے اسی طرح بلکہ اس سے بدرجہا بڑھ کر یہ بات ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی تصریح سے درود بھیجا جائے اور اس اجمالی درود پر اکتفا نہ کیا جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے وقت آپ کو بھی پہنچ جائے۔

از رسالہ مذکورہ

چودھری ظفر اللہ کا سلام ٹریکیٹ

دس نبی اور ایک بندے کا انتخاب

خدا کے راست باز نبی راچندر پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی کرشن پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی بدھ پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی زرتشت پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی کیفنوس پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی ابراہیم پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی موسیٰ پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی مسیح پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز نبی احمد پر سلامتی ہو۔

خدا کے راست باز بندہ بابا نانک پر سلامتی ہو۔

چودھری ظفر اللہ خاں صاحب قادیانی بیرسٹر کا ٹریکیٹ مارچ ۱۹۳۳ء میں بتقریب

یوم التبلیغ شائع ہوا۔

اس ٹریکیٹ سے چودھری ظفر اللہ کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان

کے نزدیک حضرت ابراہیم ؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی طرح راچندر اور کرشن بھی نبی اور

رسول تھے اہل اسلام کے نزدیک تو سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کو

راچندر اور کرشن کے ساتھ ذکر کرنا سراسر گستاخی اور گمراہی ہے۔

البتہ مرزا غلام احمد کو کرشن اور رام چندر کے ساتھ ذکر کرنا نہایت مناسب ہے۔ یہاں

کے سب ائمہ الکفر اور کافروں کے پیشوا تھے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی ہے فروعی نہیں
مرزائی مذہب نے اسلام کے اصول اور قطعیات ہی کو تبدیل کر دیا ہے اب کوئی
چیز ان کے اور اہل اسلام کے درمیان مشترک باقی نہیں رہی یہ جماعت یہ نسبت یہود اور
نصاری اور بنود کے اہل اسلام سے زیادہ عداوت رکھتی ہے جو مسلمان مرزائے قادیان
کو نبی نہ مانے وہ ان کے نزدیک کافر ہے اور اولاد نہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلق جائز
نہیں مثلاً مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں اور اس کی نماز جنازہ نہیں۔

دین کی بنیاد روپیوں پر ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن کے متعلق تو مرزا یہ کہتا ہے کہ
قرآن کریم کی تفسیر وہی صحیح ہے۔ کہ جو میں بیان کروں اگرچہ وہ تفسیر کل علماء امت کی تفسیر
کے خلاف ہو اور حدیث نبوی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو حدیث میری وحی کے مطابق ہو
وہ قبول کی جائے گی اور جو میری وحی کے خلاف ہوگی وہ ردی کی لو کہی میں پھینک دی جائے
گی اس طرح اسلام کے ان دو بنیادی اصولوں کو ختم کیا اور اپنی من مانی تاویلات اور
تحریفات کو اسلام کے سر لکھ لیا الفاظ تو شریعت کے لئے مگر معنی بالکل بدل دیئے اور آیات
اور احادیث میں وہ تحریف کی کہ یہود اور نصاریٰ بھی سمجھ رہ گئے اور تعلیم یافتہ طبقہ اکثر
چونکہ دین اور اصول دین سے بے خبر اور عربی زبان سے ناواقف ہے اس لئے یہ طبقہ زیادہ
تراس گمراہی کا شکار ہوا اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین۔

ایک ضروری گزارش

قادیانی کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ قادیانی مذہب

اس مثل کا مصداق ہے کہ

میرے تھیلے میں سب کچھ ہے

ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے ختم نبوت کا اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے دعوائے نبوت و رسالت بھی ہے اور جود عواستے نبوت کریم سے اس کی تکفیر بھی ہے حضرت مسیح بن مریم کے رفع الی السماء اور نزول کا اقرار بھی ہے اور انکار بھی وغیرہ وغیرہ غرض یہ کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی مثبتی اور محدودہ زندگی کی کتابوں میں نہیں ملتے اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جن کا مرزا صاحب کبھی اقرار کرتے ہیں اور کبھی انکار اور یہ سب کچھ دیکھو و دانستہ ہے اور غرض یہ ہے کہ بات گول سول رہے حقیقت متعین نہ ہو حسب موقع اور حسب ضرورت جس قسم کی عبارت چاہیں لوگوں کو دکھلا سکیں اور نفاق کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے کہ بات صاف نہیں کہتے یہی طریقہ مرزا اور مرزا بیویوں کا ہے کہ جب مرزا صاحب کا اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قدیم عبارتیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عقیدے تو وہی ہیں جو سب مسلمانوں کے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو مرزا صاحب کے فضائل اور کمالات اور وحی الہامات کے دعوے پیش کر دیتے ہیں اور دہیکہ دینے کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب متعلق نبی اور رسول نہ تھے وہ تو ظلی اور ہر روزی نبی تھے ظلی اور ہر روزی اور عجزاری نبی کی اصطلاح مرزا نے محض اپنی پروردہ پوشی کے لئے گھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص حکومت کی وفاداری کا اقرار کرے مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا نام صدر مملکت رکھے اور جو خادم اندرون تھانہ خدمت انجام دیتا ہو اس کا نام وزیر داخلہ رکھ لے اور جو خادم بازار سے سود لاتا ہو اس کا نام وزیر خارجہ رکھ لے اور یا ورچی کا نام وزیر خوراک رکھ لے وغیرہ ذلک اور تاویل یہ کرے کہ معنی لغوی کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو صدر مملکت اور اپنے خادم کو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کہتا ہوں۔ اصطلاحی اور عرفی

حنی میری سرادھیں بالیوں کے کہیں تو صدر مملکت کا ظل اور بروز ہوں اور اس کے کمالات کا آئینہ ہوں اور میرے اس نام رکھنے سے حکومت کی ہر مہم لوطی کو ظاہر ہے کہ یہ تاویل حکومت کی نظر میں اس کو مجرم اور جالاک اور مکار ہونے سے نہیں بچا سکتی ہی طرح مرزا صاحب کی یہ تاویل کہ میں ظلی اور بروز ہی ہوں کفر اور زعماد سے نہیں بچا سکتی مرزا صاحب بلاشبہ قشر یعنی نبوت اور مستقل رسالت کے مدعی تھے اور اپنے وجہ اور الہام کو قطعی اور یقینی اور کلام خداوندی سمجھتے تھے اور اپنے زعم میں اپنے خوارقی کا نام معجزات رکھتے تھے اور اپنے منکر اور متروک اور سکت کو کافر اور منافق ٹھہراتے تھے اور اپنی جماعت سے خارج ہونے والے کو مرتد کا خطاب دیتے تھے جو حقیقی نبوت و رسالت کے لوازم ہیں مرزا صاحب کا اپنے سے نبوت کے لوازم کو ثابت کرنا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ مرزا صاحب مستقل نبوت و رسالت کے مدعی تھے اور بروز ہی کی تاویل محض پردہ پوشی کے لئے شی مخالفین کے خاموش کرتے کے لئے اپنے آپ کو ظلی اور بروز ہی ظاہر کرتے تھے مرزا صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ فضائل و کمالات اور معجزات ہیں۔ میں تمام انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر ہوں مخالفین پر پردہ ڈالنے کے لئے مرزا صاحب نے ظلی اور بروز ہی کی اصطلاح گھڑی ہے جس کا کتاب و سنت میں کہیں نام و نشان نہیں۔

خاتمہ کلام

اب میں اپنی اس مختصر تحریر کو ختم کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے عموماً اور جدید تعلیم یافتہ حضرات سے خصوصاً اس کا امیدوار ہوں کہ اس تحریر کو غور سے پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ پڑھنے میں مسئلہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اکثر دین سے بے خبر بھی ہے اور بے فکر بھی ہے اس لئے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے اور قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتا ہے۔

اے میرے عزیز و جس طرح کسی مسلمان کو بے وجہ کافر سمجھنا کفر ہے اسی طرح کسی کافر کو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے دونوں جانبوں میں احتیاط ضروری ہے۔

اور جس طرح میلہ کذاب کو مسلمان سمجھنا کفر ہے اسی طرح میلہ پنجاب مرزا غلام احمد کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ میلہ قادیان۔ پیامہ کے میلہ سے دجل اور فریب میں کہیں آگے نکلا ہوا ہے۔ ان اریذ الاصدیجہ وما استطعت وما توفیق ایاہ باللہ علیہ توکلت والیہ نبیؐ انحرود عواد ان الاحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

بندہ گنہگار محمد ادریس کان اللہ

مدرس جامعہ اشرفیہ لاہور۔ ۱۲ شوال الحکم ۱۳۴۱ھ

بَطْنِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ
 مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْوَحْیَ الْوَعْدِیَّ وَارْسَلَهُ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا لِّلْعَالَمِیْنَ. وَكَلَّمَ اللّٰهَ
 وَكَلَّمَ عَصٰیْبًا وَتَحَابًا وَآخِرًا وَآیَةً وَآثَمًا لِّعِبَادِهِ وَآثَمًا لِّعِبَادِهِ.

آخِرًا بَعْدُ۔ اہل گور عیسائیوں کے درمیان پہلا اختلافی مسئلہ توحید فی التثلیث کا ہے
 اہل اسلام کہتے ہیں کہ عالم کا بنانے والا جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے۔ کوئی اس کا شریک
 نہیں۔ وہ قدیم ہے ازل اور ابدی ہے اور قادر مطلق ہے اور سخی اور قیوم ہے۔
 یعنی زندہ ہے اور عالم کی حیات اور زندگی کو قائم رکھنے والا اور کائنات کے وجود کو برقرار
 رکھنے والا ہے۔ ایک وحدہ لا شریک لہ ہے نصاریٰ کہتے ہیں (معاذ اللہ) خدا تین ہیں ایک باپ یعنی
 حق تعالیٰ اور دوسرا بیٹا یعنی عیسیٰ بن مریم اور تیسرا روح القدس اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ
 تینوں مل کر ایک ہیں۔ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں ہے اور دوسرے خدا یعنی عیسیٰ
 بن مریم کو یہود نے پھانسی دے دی اور اس کو نہایت ذلت سے مارا۔

پس نصاریٰ کے نزدیک خدا نہ تو ایک ہے اور نہ قادر مطلق ہے اور نہ زندہ ہے بلکہ
 اس درجہ عاجز ہے کہ وہ اپنے حیات کو اپنے دشمنوں بلکہ بندوں یعنی یہود سے نہ بچا سکا اور
 ان کے ہاتھوں مارا گیا پس جو ذات خود جی (یعنی زندہ) نہ ہو وہ دوسروں کی قیوم وجود اور
 زندگی کی برقرار رکھنے والی کیسے ہو سکتی گی۔

اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل اور نصاریٰ کے دلائل اور شہادت کا کافی اور کافی
 جواب ہم نے اپنے رسالہ ”احسن الحدیث فی ابطال التثلیث“ میں دے دیا ہے
 طابیان حق اس رسالہ کو دیکھیں اور اس ناپہنچ کر دعا خیر سے دستگیری فرمائیں۔ واجر کہ
 علی اللہ عنہ وجہل۔

دوسرا مسئلہ

اہل اسلام اور نصاریٰ کے درمیان دوسرا اختلافی مسئلہ سرور عالم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مسئلہ ہے۔

اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہاشمی مکی و مدنی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول برحق ہیں جن کو حق تعالیٰ نے تمام جن اور انس کی ہدایت کیلئے بھیجا اور آپ کی دعوت قیامت تک جاری رہے گی اور آپ خاتم الانبیاء ہیں نبوت کا دروازہ آپ کے بعد مسدود ہو گیا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اکثر یہود اور نصاریٰ تو حضور پر نور کو نبی ہی نہیں مانتے اور بعض شاذ و نادر اگر آپ کو نبی مانتے بھی ہیں تو فقط عرب کے لئے نبی مانتے ہیں ساریسے عالم کے لئے نبی نہیں مانتے۔ مگر اس فرقہ کا یہ دعویٰ کہ حضور پر نور کی نبوت فقط عرب کے ساتھ مخصوص تھی میراث باطل اور لغو ہے اس لئے کہ جب اس فرقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خاص رسول ہی کے لئے رسول برحق مان لیا تو ظاہر ہے کہ مبعوث بولنا تو پیغمبر کی شان کے بالکل خلاف ہے اور یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ ان حضرت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عامہ مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِيئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ رَبِّكَ مِّنْ أُمَّتِكُمْ مِّنْ قَبْلِي وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّتْ بِأُذُنَيْكُمْ وَمِثْلَ نَارِ الْمَذْهَبِ الَّتِي تَلَوَّتْ بِأُذُنَيْكُمْ وَمِثْلَ نَارِ الْمَذْهَبِ الَّتِي تَلَوَّتْ بِأُذُنَيْكُمْ وَمِثْلَ نَارِ الْمَذْهَبِ الَّتِي تَلَوَّتْ بِأُذُنَيْكُمْ۔

اور آپ نے کسری اور عجم کے مختلف فرمانرواؤں کی طرف اپنے سفیر بھیجا اور ان کو اسلام کی دعوت دی پس اگر آپ کی نبوت عرب پر محدود ہوتی تو آپ کسری اور عجم کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ نہ کرتے اور نہ ان سے جہاد کرتے اور نہ ان پر جزیہ لگاتے اور نہ ان کو امیر کر کے غلام بناتے نہایت تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص کو رسول بھی مانا جائے اور پھر اس کے بعض دعاوی یعنی عموم بعثت و رسالت میں

تکذیب بھی کی جیسے تصدیق و تکذیب کو جمع کرنا نقیضین کو جمع کرنا ہے۔
 نصاریٰ کے اکثر فرقے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً نبی نہیں مانتے ان کے
 مقابلہ میں آپ کی نبوت و رسالت کے ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ہم عرض کرتے ہیں
 وجود ہذا۔

اہل اسلام اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ آخر تم حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور
 حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم
 الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول برحق مانتے ہو بتلاؤ کہ تمہارے پاس آخر ان
 کی نبوت و رسالت کی کیا دلیل ہے جو دلیل بھی تم کسی نبی کی نبوت کی بیان کر دو گے اسی قسم
 کی کم از کم دس دلیلیں ہم تمہارے سامنے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش
 کر دیں گے۔

مثلاً اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ان پر توہریت حبیبی عظیم الشان کتاب کا
 نازل ہونا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ان پر
 زبور اور انجیل کا نازل ہونا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم حبیبی جامع اور کامل کتاب جو ہر شان
 میں توہریت و انجیل سے بڑھ کر ہے اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا رسالت
 محمدیہ کی کیوں دلیل نہیں جو علوم اور معارف میں توہریت اور انجیل سے کہیں بالا درجہ ہے۔
 اور اگر انبیاء سابقین کی نبوت و رسالت کے دلائل ان حضرات کے معجزات تھے تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا معجزات کل انبیاء سابقین کے کل معجزات سے کیمت
 اور کیفیت میں بڑے ہوئے ہیں اور اساتید صحیحہ اور روایات متصلہ کے ساتھ ثابت ہیں
 اور یہود اور نصاریٰ کے پاس کسی ایک معجزہ کی ایک سند بھی نہیں جس کا جی چاہے حدیث
 شریف کی کتابیں دیکھ لے کس طرح آپ کے دلائل نبوت کو اساتید صحیحہ اور متعددہ کے ساتھ
 بیان کیے ہیں اور نصاریٰ میں اگر طاقت ہے تو اپنے نبی کا ایک ہی کلمہ سند متصل کے

ساتھ پیش کریں۔

کتب احادیث کو دیکھے کہ جن میں حضور پر نور کی ہر حرکت اور سکون کو بیسیوں اور سینکڑوں سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے اور مذہب یہود و نصاریٰ میں سند کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ یہ علم الاستاد امت محمدیہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر شریعت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ شریعت محمدیہ تمام شریعتوں سے اکمل اور افضل اور برتر ہی ملے گی۔ جو تہذیب اخلاق اور طریق عبودیت اور حقوق معاشرہ اور سیاست ملکیہ اور مدینہ سب کو جاری ہوگی۔ پھر اس پر بھی غور کر و کہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض امتی تھے یعنی ان پر چھ تھے۔

آپ نے نہ کسی سے علم پڑھا اور نہ کتابوں کا مطالعہ کیا اور نہ کبھی علم کے لئے سفر کیا پھر دنیا کے سامنے ایک جامع اور کامل شریعت پیش کی جس کی باریکیوں اور گہرائیوں میں ائمہ محمدین اور بڑے بڑے علماء محققین ساری عمر حیران اور سرگرداں رہے معلوم ہوا کہ وہ وحی الہی اور تعلیم ربانی تھی۔ انسانی فہم و فراست ایسے حقائق اور دقائق کے معلوم کرنے سے یکسر عاجز اور قاصر ہے اور اگر امت کا امت سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں سو وہ بھی کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے جماد میں جلنے کو کہا تو یہ جواب دیا اِذْ هَبْتَ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَتَاتِلَا اِنَّا هُمْ اَقَابِدُ وَاَنْتَ - اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑ لو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔

اور بقول نصاریٰ جب یہودیوں نے حضرت مسیح کو پکڑا تو مارے حواری بھاگ گئے ایک بھی حضرت مسیح کے ساتھ نہ رہا۔ اور یہود و حواری نے تیس درم رشوت لے کر حضرت مسیح کو اور بقول نصاریٰ اپنے خداوند کو گرفتار کرادیا۔

اور صحابہ کرام کی جان نثاری اور جانبازی چار دانگ عالم میں مشہور ہے ساری دنیا کو

معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جان و مال قربان کیا کہ اولین اور آخرین میں کہیں اس کی نظیر نہیں اور پھر خلفاء راشدین پر نظر ڈالو کہ چند روزہ میں دنیا پر اسلام کی حکومت قائم کر دی۔

ان سب کے علاوہ

آپ کی نبوت و رسالت کی ایک دلیل یہ ہے کہ انبیاء سابقین سے پہلے ہی سے خبر دی کہ اخیر زمانہ میں ایک عظیم الشان رسول ظاہر ہوں گے اور ان میں یہ اوصاف ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ **الرَّسُولَ النَّبِيُّ الَّذِي يَجِدُكَ وَنَاةً مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نَبِيًّا - ال آخِرَ الْآيَةِ وَقَالَ تَعَالَى أَوْلَاهُمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهُمُ عَلَمٌ مِّنْ سَمَوَاتٍ مُّزِيلٌ** اور اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں یہ خبر دی گئی ہے کہ انبیاء سابقین نے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں۔ اور اہل کتاب کو اس بات کا علم تھا کہ باوجود اس علم کے وہ آپ کے زمانہ میں آپ کے دشمن ہو گئے حالانکہ آپ کے ظہور سے پہلے وہ ان بشارتوں کو نقل کرتے تھے اور علماء اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ اہل مکہ میں سے نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔

بود در انجیل نام مصطفیٰ	ۛ	وَأَنْ سَعِدَ بِغَيْرِ انْ بَحْرَ صَافَا
بود ذکر سلیمان و شکل او	ۛ	بود ذکر غمزو و صوم و آل او
طائفہ نصاریاں بہر ثواب	ۛ	چون رسیدند سے بدان نام و خطاب
بوسہ دادند سے بدان نام شریف	ۛ	روز نمازند سے بدان وصف لطیف

اور علماء یہود و نصاریٰ اس نبی بشارت کی آمد کے منتظر تھے اس لئے بہت سے ذمی علم اور مجاہد اہل کتاب جو تخلص اور نیک نیتی کے ساتھ موصوف تھے اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کو مانتے ہی آپ پر ایمان لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اور بہت

سے باوجود اس بات کے کہ ان کو آپ کے نبی موعود ہونے کا یقین تھا مگر خدا اور خدا کی دہ سے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے جیسا کہ قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ أُمَّةٍ يَدْعُونَ
كَمَا يَدْعُونَ أَهْلَهُمْ وَإِنْ فَزَعْنَاهُمْ
فَيَنْهَضُوا وَيَكْفُرُونَ الْفِتْنَةَ دَاهٍ
يَعْلَمُونَ۔ سورة بقرہ۔ رکوع (۱۶)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت وغیرہ) دی وہ انھیں صرف کو اپنے بیٹوں کی طرح چھپاتے ہیں جس طرح انسان کو اپنے بیٹے کے بارہ میں شبہ نہیں ہوتا اسی طرح اہل کتاب کو نبی کریم کے جوت

میں کوئی شبہ نہیں البتہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیرہ و دانستہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔

پھر دوسری جگہ ارشاد ہے۔

أَوَلَمْ تَأْتِيَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَّا فِي الْأَوَّلِينَ
كَمَا أَتَى الْكُفْرَانَ كَذِبًا
بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کیا اگلی کتابوں کی چشیم گوئیوں کی گواہی ان کے پاس نہیں پہنچی کہ وہ اپنی نبوت درسانت کی روشن

ذیل ہے۔

(سورہ ظلم)

توریت اور انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح بشارتیں تھیں مگر یہود اور نصاریٰ نے تقریباً سب میں تحریف کر ڈالی اور جو بشارتیں ان کی تحریف سے بچ رہیں ان میں تاویل کر ڈالی جس طرح یہود نے بہبود حضرت عیسیٰ کی نبوت کی خبروں اور بشارتوں میں تاویل کرتے ہیں۔ اسی طرح نصاریٰ حیارسی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں اور بشارتوں میں تاویل کرتے ہیں۔

پس نصاریٰ کا یہ کہنا کہ توریت اور انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر اور بشارت نہیں بعینہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہود اپنی سینہ زوری سے حضرت مسیح کی خبروں اور بشارتوں کی تکذیب اور تاویل کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کے ظہور کی کوئی بشارت نہیں دی حالانکہ علماء نصاریٰ کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کی بہت سی بشارتیں دی ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم توریت و انجیل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور خبروں کا ذکر کریں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ طالبان حق کے تنبیہ کے لئے نصاریٰ کے ایک غلط دعویٰ کا بطلان واضح کر دیں تاکہ طالبان حق اہل کتاب کے دھوکہ میں نہ آئیں وہ یہ کہ نصاریٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین تھے ان کے بعد کوئی نبی نہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہو سکتے۔ اہل اسلام کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے جس کے متعدد وجوہ ہیں۔

(۱) اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں کسی انجیل میں کسی جگہ بھی حضرت عیسیٰ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر نہیں اور اس عقیدہ پر نصاریٰ کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل عقلی۔

(۲) نیز حضرت مسیح نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے آسمان پر چلے جانے کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا بلکہ اپنے بعد ایک آنے والے عظیم الشان رسول یعنی فارقلیط کی بشارت دی اور اس پر ایمان لانے کی تاکید رکھ کر اور اسی بناء پر علماء اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد فارقلیط کی آمد کے منتظر رہے جس کا انجیل میں وعدہ کیا گیا ہے اور اسی وعدہ سے موشائس نے اپنے حق میں فارقلیط ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے پیرو ہو گئے۔

(۳) نیز نصاریٰ حواریین اور پولوس کی نبوت کے قائل ہیں حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں۔

(۴) کتاب الاعمال کے گیارھویں باب میں لکھا ہے۔

۲۷۔ انہی دنوں میں پندرہویں برس سے انطاکیہ میں آئے۔

۱۶۸ ان میں سے ایک نے جس کا نام آگس تھا گھر سے ہو کر روم کے ہڈیت سے ظاہر کیا

کہ دنیا میں بڑا کمال پڑے گا اور کلودیس (قیصر روم) کے عہد میں واقع ہوا۔ انتہی۔

یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ علم ہے جو انطاکیہ میں چند ہی آئے جن میں ایک کا نام اگیس اور عربی نسخہ میں آغا بوس تھا اور یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے پس جب ان کے بعد نبی ثابت ہوئے تو حضرت عیسیٰ کا نام انبیاء میں ہونا قطعاً غلط ہوا۔

(۵) نینرا انجیل متی کے ساتویں باب ورس ۵۱ میں حضرت مسیح کی تعلیم اس طرح مذکور ہے ۔
 جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ الی آخرہ ۔

دور تک سلسلہ کلام چلا گیا جس میں حضرت مسیح نے خبردار کیا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے اور میرے نام سے نبوت کا دعویٰ کریں گے یعنی یہ کہیں گے کہ میں مسیح موعود ہوں تم ان سے خبردار رہنا وہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ حضرت مسیح نے اس تعلیم میں یہ قید لگائی کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوے میں نہ آنا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ یہ فرمایا کہ مدعیان نبوت کا امتحان کرو سچے کی تصدیق کرو اور جھوٹے کی تکذیب کرو چنانچہ یوحنا کے پہلے خط کے باب ہمارے میں ہے۔ اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ الخ خلاصہ یہ کہ انجیل کی ان تمام تصویص سے واضح ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے۔

اب ہم اس تمہید کے بعد اس مختصر رسالہ میں کتب سابقہ توریت و زبور و انجیل وغیرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں اور علماء نصاریٰ نے جو ایسی بشارتیں میں تاویلات کہی ہیں یا جو ان پر اعتراضات کئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان تاویلات اور اعتراضات کا بھی کافی اور شافی جواب دیکھ کریں گے تاکہ ان بشارتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انطباق روز روشن کی طرح واضح ہو جائے اور حق جیل شانہ سے درخواست کیوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تالیف کو قبول فرمائے اور اس ناپہیز کے لئے توشہ آخرت اور سود

ونصار سلكے لئے قدیعیہ ہدایت اور اہل ہدایت کے لئے موجب بعیرت اور باعث اہت
بنائے امین یَا زَبَّ الْعَلَمِیْنَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْخَبِیْرُ وَتُبَّ عَلَیْنَا
فَاِنَّكَ اَنْتَ الْغَوَّابُ الرَّحِیْمُ۔

بشارت اول

از تورات سفر استثناء باب (۱۸) آیت (۱۸)

۱۸۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سنا مجھا کہا۔ میں ان کیلئے
ان کے بھائیوں میں تجھ سانہی برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا
اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ ۱۹۔ اور ایسا ہوگا کہ جو
کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب
اس سے لوں گا۔ ۲۰۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے گا کہ کوئی بات میرے
نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے
تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ ۲۱۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ
بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے
اور وہ جو اس نے کہا ہے واقعہ نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی؟ انتہی

اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت خاص سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے ہے اور یہود کا یہ خیال ہے کہ یہ بشارت یوشع علیہ السلام کے لئے ہے۔ اور
نصاری یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ
اس بشارت کا مصداق بجز خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے
کہ یہ بشارت اس نبی کے ظہور کی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مثل یعنی مانند ہو اور نبی

اسرائیل میں سے نہ ہو بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے ہوا اور پھر اس بشارت میں اس آنے والے نبی کی صفات کا ذکر ہے اس لئے اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے پھر وجہ۔

اول

یہ کہ اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ میں ان کے یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نبی - بنی اسرائیل میں سے نہ ہوگا اس لئے کہ یہ خطایات ایک دو شخص کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل کے تمام اسباب اور گروہوں کو تھے لہذا اس خطاب کی مخاطب مجموع قوم بنی اسرائیل ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ اس پوری قوم ذہنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ جو اس امر کی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں نہ ہوگا اس لئے کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو یہ فرماتے کہ خود تم میں سے ایک نبی پیدا ہوگا کما قال تعالیٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ۔ اور یہ نہ فرماتے کہ تمہارے بھائیوں میں سے وہ نبی ظاہر ہوگا کما قال تعالیٰ۔ سَوْطَابَا لَيْبِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلَ دِيَارَهُمْ دَارَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔

غرض یہ کہ موٹی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تمام بنی اسرائیل کو بلا کسی تخصیص کے یہ خطاب فرمانا کہ وہ نبی موعود تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اس امر کی صاف دلیل ہے کہ وہ بنی موعود بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے ہوگا۔ کیونکہ بنی اسمعیل - بنی اسرائیل کے بھائی ہیں نصاریٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل ہی مراد ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے اور سر اسر غلاف عقل ہے اور ساری دنیا کے لغت کے خلاف ہے جب یہ کہا جائے کہ زید کے بھائی تو زید ان بھائیوں میں داخل نہ ہوگا بلکہ بھائیوں کے علاوہ ہوگا کیونکہ مضاف الیہ باتفاق غفلاء مضاف سے خارج ہوتا ہے نیز کسی

شخص اور اس کی اولاد کو دنیا کے کسی محاورہ میں بطریق حقیقت یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ اس کے بھائی ہیں پس نبی اسرائیل کے بھائیوں سے نبی اسرائیل کی اولاد مراد لیسنہ اسرائیادانی اور جہالت ہے محاورہ میں یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ زید بنی تمیم کا بھائی ہے اور یہود قوم عاد کے بھائی ہیں اور صالح قوم ثمود کے بھائی ہیں یعنی اس قوم کے ایک فرد ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قوم عاد قوم عاد کے بھائی ہیں اور ثمود ثمود کے بھائی ہیں۔ اور بنو تمیم بنو تمیم کے بھائی ہیں اور بنو شام بنو شام کے بھائی ہیں۔

اسی طرح یہ کہنا کہ نبی اسرائیل بنی اسرائیل کے بھائی ہیں صریح نادانی اور جہالت ہے اور یہ کہنا کہ نبی اسرائیل کے بھائیوں سے ان کی نسل اور اولاد مراد ہیں۔ کھلی ہوئی حماقت ہے نیز کتاب پیدائش کے سولہویں باب۔ دس تیرہ میں نبی اسرائیل کے مقابلہ میں حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کا اس طرح ذکر ہے۔

۱۳۔ وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش اختیار کرے گا۔ اھ

اور تودیت سفر پیدائش کے چھپیویں باب ورس ۸ میں ہے۔

کہ اسمعیل اپنے سب بھائیوں کے سامنے مر گیا۔ الخ۔

پس ان دونوں جگہ نبی اسمعیل کے بھائیوں سے بالاتفاق بنی عیص اور نبی اسرائیل مراد ہیں اور یہ امر باتفاق یہود و نصاریٰ ثابت ہے کہ نھالض بنی عیص ہیں سے کوئی صاحب نبوت نہیں ہوا اور یہ امر بھی قریقین میں مسلم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد قطر سے ہوئی ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور برکت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ البتہ حضرت اسمعیل کے حق میں برکت کا وعدہ فرمایا۔

اہل کتاب کی ایک تحریف کا ذکر

علماء اہل کتاب نے اس بشارت میں ایک لفظ یہ اضافہ کر دیا ہے خدا تیرے ہی دریا

سے تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک پیغمبر قائم کرے گا (دیکھو اسی بات کا وزن) تاکہ یہ بشارت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صادق نہ آئے سو یہ سنا چاہیے کہ یہ لفظ تیرے ہی درمیان سے بعد میں بڑھایا گیا ہے دلیل اس تحریف کی یہ ہے کہ تو بیت سفر اششاعہ باب اور ورس اٹھارہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب میں الفاظ یہ ہیں میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ اھ۔

اس میں تیرے ہی درمیان سے۔ کا لفظ مذکور نہیں اور عجیب بات ہے کہ کتاب الاحمال باب۔ آیت ۲۲ میں اس خبر کا ذکر آیا ہے مگر تیرے درمیان کا لفظ مذکور نہیں۔

تیر حضرت مسیح کے حواریوں میں سے جہاں کہیں بھی اس کلام کو نقل کیا ہے اس میں یہ جملہ یعنی کہ تیرے ہی درمیان سے کبھی ذکر نہیں کیا معلوم ہوا کہ یہ جملہ الحاقی ہے۔ اور اگر بالفرض ذات تقدیر تھوڑی دیر کے لئے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جملہ الحاقی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ تیرے درمیان سے یعنی خدا پرستوں کی نسل سے مطلب یہ کہ وہ حضرت ابراہیم صلیب کی نسل سے ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کو مخاطب بنا کر یہ فرمانا کہ ان کے بھائیوں میں سے حق تعالیٰ ایک نبی برپا کرے گا اس امر کی مزید دلیل ہے کہ وہ بنی اسرائیل نہ ہوگا ورنہ اگر کسی اسرائیلی بنی کی خبر دینا منظور ہوتا تو یہ فرماتے کہ ان میں سے یا ان کی اولاد میں سے وہ نبی برپا ہوگا ایسی صورت میں بھائیوں کا لفظ بڑھانا محض لغو اور فضول ہوگا بھائیوں کا لفظ باقارہ بلند پکار رہا ہے کہ اس بنی موعود کو ان لوگوں کے ساتھ علاقہ صلبی یا بیطنی نہ ہوگا۔ یعنی وہ بنی اسرائیل کی نسل سے نہ ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نون بن اسرائیل

میں سے ہیں بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے نہیں لہذا یہ دونوں نبی۔ اس
بشارت کا مصداق نہیں بن سکتے اس بشارت کا مصداق صرف وہی نبی ہو سکتا ہے کہ جو بنی
اسمعیل میں سے ہوا نبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی پیغمبر اس بشارت کا مصداق نہیں ہو
سکتا۔

دوئم

یہ کہ اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور ظاہر ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام کے مانند یوشع علیہ السلام ہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام اس لئے کہ یہ
دونوں حضرات بنی اسرائیل میں سے ہیں اور توہریت سفر استثناء یا سب چونتیسواں درس
دہم میں ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند آسمانی
سلنے آشنائی کرتا۔ انتہی۔

غلاوہ ازین حضرت یوشع علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تلمیذ (شاگرد) تھے
اور تابع اور متبع مماثل نہیں ہوتے نیز حضرت یوشع اس وقت موجود تھے اور اس بشارت
میں یہ مذکور ہے کہ ایک نبی برپا کروں گا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نبی کا وجود زیادہ مستقبل
میں ہوگا۔

اور یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے زمانہ میں نبی
ہو چکے تھے پس وہ اس بشارت کا جس میں آئندہ نبی کی خبر دی گئی ہے کیسے مصداق ہو سکتے ہیں
علیٰ ہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مماثل
نہیں اس لئے کہ نصاریٰ کے نزدیک تو وہ ابن اللہ یا خود خدا ہیں اور حضرت موسیٰ
علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ اللہ نہ ابن اللہ بلکہ مخلوق کے ایک بندے ہیں۔ پس بندے اور خدا میں
کیا مماثلت۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بہ اعتقاد نصاریٰ مقتول و مصلوب ہو کر اپنی

امت کے لئے کفارہ ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ مقتول و مصلوب ہوئے اور نہ کفارہ ہوئے۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت حدود و قصاص زواجر و تعزیرات غسل و طہارت کے احکام سے ساکت ہے۔ بخلاف شریعت موسویہ کے وہ ان تمام امور پر مشتمل ہے ہاں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں مماثلت ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب شریعت مستقل تھے اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غزہ بھی مستقل اور کامل اور علی وجہ الائم حدود و تعزیرات تمامہ و قصاص۔ حلال و حرام کے احکام کو جامع ہے اور ظاہری احکام کی طرح باطنی احکام یعنی اخلاق بھی جامع ہے۔

جس طرح موسیٰ علیہ الصلوٰۃ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نکال کر عرب دی اس سے بدرجہا نذہبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو روم اور فارس کی قید سے چھڑا کر اللہ کا کلمہ پڑھایا اور قیصر و کسرنے کے ترائن کی کنجیاں ان کے سپرد کیں۔ نیز جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نکاح کیا اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی انبیاء سابقین کی سنت نکاح پر عمل فرمایا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا
ہم نے تماری طرف ایک رسول بھیجا۔ تم پر گواہی دینے والا۔ جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی اس مماثلت کا دعویٰ بھی نہیں فرمایا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مماثلت سے یہ مراد ہے کہ وہ نبی موجود موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یوشع علیہما الصلوٰۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے بعد نبی اسرائیل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ہر نبی انبیاء نبی اسرائیل میں سے اس بشارت کا مصداق بن سکتا ہے اور اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت یوشع علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لئے کسی درجہ میں مماثلت تسلیم کر لی جاوے تو اس مماثلت کو اس مماثلت سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہے کوئی نسبت نہیں۔ (۳۱) سو ہم یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اھ یعنی اس نبی پر الونح تو راستا و زبور کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہوگی بلکہ فرشتہ اللہ کی وحی لے کر نازل ہوگا۔ اور وہ نبی امی ہوگا۔ فرشتہ سے سن کر اللہ کا کلام یاد کرے گا اور اپنے منہ سے پڑھ کر امت کو سنائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بجز نبی امی فداء نفسی و ابی و امی کسی پر صادق نہیں آتی۔ کما قال تعالیٰ وَمَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ يَكْفُرَ بِكَ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَةُ

آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے مگر وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے (۳۲) چہاں یہ کہ اس بشارت میں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ جو اس نبی موعود کے حکم کو نہ ماننے لگائیں اس کو سزا دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سزا سے اخروی عذاب مراد نہیں اس لئے کہ اس میں اس موعود کے نہ ماننے والے کی کیا خصوصیت ہے! اٹھنی عذاب تو نبی کے نہ ماننے والے کیلئے ہے بلکہ اس سے دنیوی سزا یعنی جہاد و قتل اور حدود و قصاص جاری کرنا مراد ہے اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوئی اور تیرے یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو۔ البتہ خاتم الانبیاء و مرسلین و عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی و جلالہ حاصل ہوئی لہذا وہی اس بشارت کا مصداق ہو سکتے ہیں۔

(۵) پنجم یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی تصریح ہے کہ اگر وہ نبی عباداً باللہ افتراء کرے گا اور خدا کی طرف غلط بات منسوب کرے گا تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دعوائے نبوت قتل نہیں کئے گئے۔ دشمنوں نے ہر طرح کی کوشش اور تدبیر کی مگر سب برباد گئی۔ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس نعمت

لَيْسَ بِمَوْلَاكَ اَوْ يَفْتَدِيكَ اَوْ يَخْرِجُكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَتَكَبَّرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ
تَعَالٰى الْعَٰلَمِيْنَ .
کو یاد کیجئے کہ کافر جب آپ کے ساتھ مکر کرے
تھے کہ آپ کو قید کر میں یا مار ڈالیں یا نکال دیں
وہ اپنی تدبیریں کرتے تھے اور اللہ اپنی تدبیر
فرا مانتا اور اللہ ہی بہترین تدبیر فرماتا ہے۔

اور حسب وعدۃ الہی واللہ یحییٰ من یشاء منہ بالکل محفوظ اور مومن رہے
اور بجائے اس کے کہ کسی قسم کا حادثہ فاجسہ پیش آتا آپ کی شان و شوکت بلند ہوتی گئی پس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نبی موعود نہ ہوتے تو ضرور قتل کئے جاتے۔ ہاں حسب زعم
نصاری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مقتول و مصلوب ہوتے۔ پس اگر حضرت مسیح بن مریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بشارت کا مصداق قرار دیا جائے تو علی زعم النصاری عیاذ باللہ
ان کا کاذب ہونا لازم آتا ہے اور قرآن عزیز میں بھی اس طرف اشارہ ہے کما قال اللہ تعالیٰ شانہ
وَقَوْلًا اَنْ تَبْتَئِنَّا كَلِمَاتٍ تُرْكَنُ
اَلَيْهِمْ سَبِيۡلًا قَلِيۡلًا اِذَا اَذَقْنَاكَ مِنْهُ
التَّخْلُوۡتَ وَضِعۡتَ السَّمٰوٰتِ رُجۡمًا
تَجِدُنَا لَكَ صٰلِحًا فَصَبِّرُوۡهُ ۗ وَاَنْتَ
تَقُوۡلُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَعَاوِيۡلِ
لَا تَحۡذَرُنَا مِنْهُ بِالۡيَمِيۡنِ ثُمَّ تَقۡطَعُنَا
مِنْهُ النَّوۡتِیۡنِ .
اگر ہم آپ کو ثابت قدم دہرکتے تو آپ قریب
تھے کہ ان کی جانب اقل تلیل مائل ہو جاتے۔
اس وقت ہم آپ کو زندگی اور موت کا دو چند
عذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی
کو مددگار نہ پاتے۔ اگر محمد ہم پر کچھ افترا کرے
تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ اور ان کی شدت رگ
کو کاٹ دیتے۔

دیکھ ضروری تفسیر بیسویں درس میں جو یہ مذکور ہے کہ وہ نبی اگر مجھ پر جھوٹ
یا غصہ تو مار ڈالا جائے گا۔ تو یہ ماننا چاہیے کہ نہ قتل ہونا علی الاطلاق صادق ہونے کی دلیل
نہیں ورنہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کہ جو دشمنوں کے ہاتھ سے قتل
کئے گئے زیر تامل ہوگی کما قال اللہ تعالیٰ وَيَقْتُلُوۡنَ النَّبِیِّیۡنَ بِغَیۡرِ الْحَقِّ ۗ خُصُوۡلًا لِّمٰرِ

کو اپنے عقیدہ فاسدہ کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنا بہت دشوار ہو جائے گی۔

بلکہ خاص اس نبی موعود کا نہ قتل ہونا اس کے صادق ہونے کی علامت ہے جیسا کہ تورات کی اس عبارت سے ظاہر ہے۔ وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے گا اللہ! وہ قتل کیا جائے گا۔ اور دونوں جملوں میں وہ کی ضمیر خاص اس نبی موعود کی طرف راجع ہے اگر یہ حکم مطلق نبی کے حق میں ہو تو معاذ اللہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ بھرتے ہی ٹھہرتے ہیں۔ اور نصاریٰ کے عقیدہ کی بنا پر چونکہ حضرت عیسیٰ مقتول اور مصلوب ہوئے تو وہ بھی معاذ اللہ بھرتے ٹھہرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ خبر خاص اس نبی موعود کے حق میں ہے کہ جس کی یہ بشارت دی گئی ہے اگر اس خبر کو مطلق نبی کے حق میں مانا جائے تو یہودیوں کے یہود جو حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے ان کو اپنے کفر کے لئے ایک دلیل ہاتھ آجائے گی۔

ششم یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی مضر ہے کہ اس نبی موعود کے صادق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا کہا پورا ہو گا یعنی اس کی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں گی۔ سو الحمد للہ تم الحمد للہ کہ اس صادق مصدوق کی کوئی پیشین گوئی آج تک ذرہ برابر بھی غلط ثابت نہیں ہوئی اور ہم پورے دعوئے کے ساتھ یہ بانگِ قبل اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک بھی کوئی حامد اس صادق مصدوق کی کسی پیشین گوئی کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔

اور یہ وصف تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نمایاں اور اصلی تھا کہ آپ کے دشمنوں اور حامدوں کو بھی بجز صادقین کہنے کے کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔

کوئی مانے یا نہ مانے

یہ گنہگار امت تو اس نبی امی فداہ نفسی و ابی و امی کے صادق مصدوق ہونے پر طلوع شمس اور وجود نہار سے بدرجہا زائد یقین رکھتا ہے اور اس خدائے وحدہ لا شریک

ر کی تسم کھا کر اور اس کو اور اس کے تمام ملائکہ کو گواہ بنا کر سمیم قلب اور خلوص اعتقاد سے : نَسِدِيقٍ اَوْ رَاقِرٍ كَرْتَابٍ هِيَ كَبِيْرَةٌ شَكٌّ وَّ شَبْهَ اَبٍ صَادِقٍ مَسْدُوْقٍ اَصْدُوْقٍ اَلْوَالِيْنَ وَاٰخِرِيْنَ هِيَ۔ اَللّٰهُمَّ قَدْ تَبَيَّنَ لِيْ ذٰلِكَ اَمِيْنٌ

ہفتم یہ کہ کتاب : لا افعال باب سوم آیت ہفتہ ہمہ کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے وہ نبی ختمہ حضرت عیسیٰ اور ایلیا علیہم الصلوٰۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کرام کے علاوہ ہے۔ وہ عبارت یہ ہے۔

اب اے بھائیوں میں جانا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا جیسے تمہارے سرداروں نے بھی۔ پیر جن باتوں کی خداتے اپنے سب نبیوں کی زبان سے آگے سے خبر دی تھی کہ مسیح دکھا اٹھائے گا سرپوری کہیں۔ ۱۹۔ پس توبہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ ملنے جائیں تاکہ خداوند حضور تانگے بخش ایام آویں۔ ۲۰۔ اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے جس کی متادی تم لوگوں کے درمیان آگے سے ہوئی۔ ۲۱۔ ضرور ہے کہ آسمان اسی لئے ہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا۔ اپنی حالت پر آویں ۲۲۔ کیوں کہ مرنی نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی تیری مانند اٹھا دے گا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو ۲۳۔ اور ایسا ہو گا کہ ہر نفس کہ جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم سے نیست کیا جا دے گا۔ ۲۴۔ بلکہ سب نبیوں نے سوائل سے نے کے پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دونوں کی خبر دی ہے۔ ۲۵۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے جب ایلم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے مارے گھر نے برکت پادیا آھ۔

اس عبارت میں اولیٰ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت اور ان کی اس تکلیف کا جو ان کو علیٰ زعمہم ہیرو لعتنم اللہ سے پیش آئی ذکر ہے۔ اور ان کے نزول

من السماء کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اس نبی کی بشارت کا ذکر ہے کہ جس کے متعلق حضرت
موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا۔

فداوند عالم تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی بھیجے گا۔ اور علامہ
موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام نبیوں نے اس نبی موعود کے آنے کی خبر دی ہے۔ اور
جب تک یہ وعدہ ظہور میں نہ آئے گا اس وقت تک یہ زمین و آسمان ضرور قائم رہیں
گے اور اسی زمانہ میں خدا کا وہ عہد بھی پورا ہوگا کہ جو اس نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
سے کیا تھا کہ تجھ سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں گے۔

الحاصل حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت کو ذکر کر کے یہ کتنا سو پوری
کھیں، اور جس نبی کی موسیٰ اور ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام
الف صلوٰۃ والفاء سلام نے بشارت دی ہے اس کے انتظار کو ان الفاظ سے
ظاہر کرنا کہ ”ضرور ہے کہ آسمان اسی کے لئے رجبہ اس وقت تک کہ سب چیزیں کہ جن کا
ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آدیں، اھ۔“

اس امر کی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی مبشر اور رسول متظر ان تمام انبیاء و رسل کے
علامہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تک گزرے۔ لہذا
اس بشارت کا مصداق حضرت موسیٰ، ع سے حضرت عیسیٰ، ع کے زمانہ تک کوئی نبی نہیں ہو
سکتا، پس حضرت یونس یا حضرت مسیح بن مریم علیہم السلام کو اس بشارت کا مصداق قرار
دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

ترجمہ یہ کہ انجیل یوحنا باب اول آیت انیسویں میں ہے۔

جب یہودیوں نے یروشلم سے کاجتوں اور لاویوں کو بھیجا کہ اس کو پوچھیں کہ تو کون
ہے اور اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں۔ تب انہوں نے
اس سے پوچھا تو اور کون ہے کیا تو الیاس ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا

تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا نہیں، اھ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو حضرت مسیح اور ایلیاء علیہما الصلوٰۃ والسلام کے سوا بھی ایک نبی کا انتظار تھا۔ اور وہ نبی ان کے نزدیک ایسا معروف و معهود تھا کہ اس کے نام کے ذکر کرنے کی بھی حضرت مسیح اور حضرت ایلیاء کے نام کی طرح حاجت نہ تھی۔ بلکہ فقط وہ نبی، کا اشارہ ہی اس کے لئے کافی تھا۔

پس اگر حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی اس بشارت کا مصداق تھے تو پھر ان کو انتظار کس کا تھا۔

وہ نبی جس کا کہ ان کو انتظار تھا وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہی وہ ہے کہ اہل کتاب نبی اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ”وہ نبی“ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس لئے ہمیشہ سے اہل اسلام نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آنحضرت (جو بعینہ وہ نبی کا ترجمہ ہے) بولتے ہیں۔

نہم یہ کہ انجیل یوحنا باب ہفتم کی آیت چہلم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی موعود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ ہے چنانچہ انجیل میں ہے۔

۴۰۔ تب ان لوگوں میں سے بہتیروں نے یہ سن کر کافی الحقیقت یہی وہ نبی ہے۔

اوروں نے کہا یہ مسیح ہے اھ۔

نبی معهود کو حضرت مسیح کے مقابلہ میں ذکر کرنا اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی معهود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ ہے۔ پس اگر ”وہ نبی“ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہ ہوں تو پھر وہ کون نبی ہے کہ جس کا انتظار تھا۔

(۱۰) وہم آپ کے عمدتوت میں بہت سے علماء یود و نصاری نے اس امر کا اعتراف کیا کہ آپ وہی نبی برحق ہیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور آپ ہی اس بشارت کے مصداق ہیں بعد ازاں ان میں سے بہت سے اسلام لئے جیسے غیر ترقی یود

اور منغاطر رومی عیسائی اور بہتوں نے اقرار کیا مگر اسلام ہمیں لائے جیسے ہر قتل شاہ روم اور عبداللہ بن مسور یا یودی وغیرہ ملنے افکر کیا کہ آپ وہی نبی برحق ہیں جن کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے مگر اسلام نہیں لائے۔

بشارت دوم

ان تورات کتاب پیدائش باب ۱۱ آیت ۱۲

اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے ہر دستہ مند کروں گا۔ اور اسے بہت بڑی وڈن گا۔ اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا۔

اور ای باب کی آیت میں ہے۔

اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر دسی ہے

دیتا ہوں اھ

اور کتاب پیدائش کے باب ۱۱ آیت ۱۱ میں ہے۔

خداوند کے فرشتے نے اسے راجعہ کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنمے گی اس کا نام

اسمعیل رکھنا تمہارے تیرا دکھ سن لیا وہ وحشی آدمی ہوگا اس کا بائیکاٹ سب سے (اور پر ہوگا)

اور سب کے بائیکاٹ اسم کے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے

لور و باش کرے گا۔ انتہی۔

اور باب ۲۵ آیت ۱۱ میں ہے۔

آپ کے فرزند اسحاق کو اللہ نے برکت دی آھ

الحاصل حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق اور حضرت اسمعیل علیہم

الصلوة والسلام کی بابت وعدہ فرمایا کہ ان کو برکت دوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اول حضرت

حضرت اسمعیلؑ کی اولاد نے برکت حاصل کی۔ اور تقریباً کئی ہزار سال تک سلسلہ نبوت و رسالت آپ کی اولاد میں جاری رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تک برابر حضرت اسحاق کی اولاد میں انبیاء و رسل ہوتے رہے۔

بعد ازاں جب دوسرے وعدہ کا وقت آگیا تو شرف نبوت و رسالت یکسر بنی اسرائیل سے بنی اسمعیل کی جانب منتقل ہو گیا۔ اور دعائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طور فاران کی چوٹیوں سے اور سینا اور ساعیر کا نور فاران پر جگمگانے لگا۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

تورات سفر پیدائش باب (۲۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ہاجرہ سے اور حضرت اسمعیل کو حجاز میں لے کر آئے اور وادی فاران میں مکہ مکرمہ کے قریب پھوڑ کر واپس ہو گئے۔

حضرت سارہ کے وصال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پھر اسی وادی فاران میں واپس تشریف لائے۔ اس عرصہ میں حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جوان ہو چکے تھے۔ دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی کما قال تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔

وَإِذْ يَرْحَمُ إِبرَاهِيمَ الْقَوَّامِ مِنَ الْمَبِيتِ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّمَا اتَّخَذْنَا مَثَلًا لِّذٰلِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ النَّصِيحُ الْعَلِيمُ ۗ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ ذِمَّةٌ ۗ رَبَّنَا آتِنَا مِن مَّا نَشَاءُ ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَىٰ ۗ

اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے پروردگار یہ خدمت تو ہم سے قبول فرما۔ تو بے شک سننے والا اور جانتے والا ہے۔ اور اے پروردگار ہم کو اور ہماری ذریت

سے ایک جماعت کو اپنا فرمانبردار بنا۔

ناظرین غور فرمائیں کہ اس مقام پر کس کی ذریت مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذریت مراد ہے جو کہ وادی فاران اور حرم الہی اور کعبۃ اللہ کے

آس پاس مقیم ہے۔ اسی ذریت کے لئے حضرت ابراہیم نے اقول یہ دعا فرمائی تمہیں
وَابْعَثْنَا إِبْرَاهِيمَ إِدْرِي وَدُوسِرَى وَعَالِيَةَ فَرْمَانِي۔

اسے پروردگار باجرہ اور اسمعیل کی
الذرية ذرية هاجر و اسماعيل
ذریت میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری کتاب
عليها الصلوة والسلام و رسولاً منهم يتلوا
کی تلاوت کرے۔ اور لوگوں کو کتاب و حکمت
عليهم ايئتك و يعلمهم الكتاب والحكمة
کی تعلیم دے۔ اور ان کو کفر اور شرک سے پاک
ويزكهم انك انت العزیز الحكيم۔
کرے بے شک تو ہی غالب اور حکیم ہے۔

حق تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں اس دعا نے ابراہیمی کا ذکر فرمایا ہے اسی طرح
اس کی اجابت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

هو الذي بعث في الاقطاب رسولا
اشرفي نے بے پڑھوں میں ان ہی میں کا ایک
رسول بھیجا جو ان پر خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا
منهم يتلوا عليهم اليم ويزكهم و
ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت
يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا
کی تعلیم دیتا ہے اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں
من قبل لبي ضلال مبين
بتلائے تھے۔

خلاصہ ایہ کہ قارئین کرام اس پر غور کریں کہ اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زاید کون بابرکت اور بر و مند ہوا اور کنعان کی زمین
کس کی وراثت میں آئی۔ اور حضور پر نور کے سوا کون ہے کہ جس کا ہاتھ سب کے اوپر جو ابو
اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں دی گئی ہوں۔

اور بارہ سرداروں سے بارہ خلفاء مراد میں كما فعلك النبي صلى الله عليه وسلم
یہ دو روحی السلام الی اثنتی عشر
اسلام کا رخی (رہلی) بارہ خلفاء پر گھومے گا
جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔
تصنيفه كلهم من قریش۔

فائدہ جلیلہ | اس عظیم و حکیم نے اپنی حکمت بالغہ سے اسحق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد پر برکت دینے میں اس

وجہ سے مقدم رکھا کہ حضرت اسمعیل کی اولاد میں خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے پس اگر حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وعدہ کو مقدم کر دیا جاتا تو پھر اسحق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد سے سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو جاتا اس لئے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں بنایا جاسکتا۔

اور اسی وجہ سے کہ اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں بکثرت نبی ہوں گے تو بنی اسرائیل کو اس العام کی تذکیر ان الفاظ سے کی گئی۔

يَا ذُرِّيَّتِ اجْعَلْ ذُرِّيَّتَكَ آمِنًا ۖ

”تم میں حق تعالیٰ نے بہت نبی پیدا کئے“

اور حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسمعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لئے دعا فرمائی تو یہ فرمایا۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ۚ یعنی اسے پروردگار ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج اور یہ نہیں فرمایا۔

رَبَّنَا آوَابِعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ۚ یعنی اسے اللہ ان میں بہت سے رسول اور نبی بھیجے۔

جس سے صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسمعیل میں سے صرف ایک ایسے رسول کے بعوث ہونے کی دعا فرماتے تھے کہ جس کے آنے کے بعد کسی نبی اور رسول کی حاجت نہ رہے۔ صیغہ مفرد کے ساتھ ذکر فرمایا اُرْسِلَ صَيِّغَةً جمع کے ساتھ نہیں ذکر فرمایا۔

وَقَدْ آتَى الْعَالَمِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى رَبَّنَا

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أُمَّةٍ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیل لہ

قد استجیب لک وهو کائن فی الآخر

ابوالعالیہ سے مراد ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی رَبَّنَا آوَابِعَثْ فِيهِمْ

وَسَمُوْنَا ۚ تو اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ یہ پیغمبرِ اخیرِ زمانہ میں

الذمان وكذا قال السدي وقتادة - ہوگا۔ ایسا ہی سدی اور قتادہ سے مروی
(تفسیر ابن کثیر ص ۱۵) ہے۔

هُوَ كَالَّذِي فِي الْخَيْرِ السَّرْمَاتِ - سے خاتم النبیین ہونا مراد ہے۔ اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اَنَادَعُوهُ اِنِّي اَبْرَاهِيْمُ يَعْنِي فِي مِثْلِ اِسْمِ اَبِي اِبْرَاهِيْمُ كِي دُعا ہوں
اسی طرف مشیر ہے۔

اور اسی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ دعا امت محمدیہ پر
عظیم الشان احسان ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ كَا يَظُنُّ اَنَّ اِسْحَانَكَ لَكَ شُكْرًا اَمْتًا پَر لَازِم ہونگیا۔

یا یہ کہا جائے کہ تمام انبیاء و رسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صلوٰۃ
والسلام کے لئے مخصوص کرنا ان کی اس دعا کی اہمیت ہے رَبِّ هَبْ لِيْ حَسَنًا وَّ اَلْحَقِيْنِيْ
بِالْحَسَنِ اِحْسَانًا فَاجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ وَّ اَلْحَقِيْنِيْ بِتَابِ نَجْحٍ حَقِّ تَعَالٰی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو علم و حکمت بھی عطا فرمائی۔ اور صالحین میں بھی داخل فرمایا۔ اور آخر میں یعنی اس آخری امت
میں کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ لَنْزَلِكَ ذَرِيْعَةً اِنْ اَذَكَرْتُمْ جَارِيَةً فَرَمَايَا۔ اور انشاء اللہ العزیز
الی یوم القیامۃ اسی المرح جباری ہے گا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَّ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَسْبُدُّ حَسْبُدُّ۔

اور چونکہ حضرت ابراہیم سے برکت دینے کا وعدہ تھا اس لئے کَمَا يَظُنُّ اَنَّ اِسْحَانَكَ كَا اور
اضافہ کر دیا گیا۔

اور عجیب نہیں کہ ان پارہ سرداروں سے کہ جن سے خلفاء ملنے گئے ختم نبوت کی طرف
اشارہ ہو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہ رہے گا بلکہ
خلافت و ریاست کا سلسلہ جاری ہوگا اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس امت سے صرف
خلافت کے جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ نبوت و رسالت کا کسی درجہ میں بھی وعدہ نہیں

فرمایا۔ كَمَا قَالَ تَعَالَى

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسِّرَنَّ لَكُمْ مَخْرَجَ الْأَرْضِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَةُ الْمَدِيْنَةِ بَعْدِي ثَلَاثُونَ عَامًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُونَهُمْ إِلَّا نَبِيَاءَ كَلِمًا هَلَكَتْ نَبِيٌّ خَلَفَنِي نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ .

جو لوگ ایمان لاپچکے اور جنہوں نے عمل صالح کئے ان سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی ہر آئیل کا انتظام ان کے نبی کیا کرتے تھے جب کوئی نبی گزر جاتا تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ خلفاء ہوں

گئے (بخاری)

(رداۃ المحتسب)

بشارت سوم

از تورات سفر استثناء باب ۳۳ آیت ۲

جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سَيْمَانَ وَأَشْرَقَ لَهْمُ مِنْ سَاعِيرٍ وَبَلَاءٌ لَاءٌ مِنْ جِبَالِ فَا مَانَ وَأَتَى مِنْ رَبِّهِ الْقُدْسِ وَعَنْ يَمِينِهِ نَارٌ شَرِيعَةٌ - ۱۵

اور الجواب الفصح میں بعض نسخ تورات سے اس طرح نقل کیا ہے۔

جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سَيْمَانَ وَأَشْرَقَ لَهْمُ مِنْ سَاعِيرٍ وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَا مَانَ - ۱۵

اور اردو نسخہ میں اس طرح ہے ۲ اور اس نے (یعنی موسیٰ علیہ السلام) نے کہا کہ خداوند

سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ نار ان ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار تہذیبوں

کے ساتھ آیا۔ اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتش شریعت ان کے لئے تھی آہ۔

اس آیت میں۔ تین بشارتیں مذکور ہیں راہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو تورات کا عطا ہونا مراد ہے۔

(۲) اور ساعیر ایک پہاڑی کا نام ہے کہ جو شہر نامہ مولد عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں واقع ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور نزول انجیل کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) اور فاران سے مکہ کے پہاڑ مراد ہیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن کی جانب اشارہ ہے۔

غرض اسی فاران پہاڑ میں واقع ہے جس میں سب سے پہلے اقتداء بآسما جبرائیل کی ابتداء پانچ آیتیں آپ پر نازل ہوئیں تورت کتاب پیدائش کے اکیسویں باب ورس ۲۰ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کے ذکر میں ہے۔

۲۰۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیان میں آیا کیا اور تیر انداز ہو گیا۔

۲۱۔ اور وہ فاران کے بیان میں آیا۔ انتہی۔

اور حضرت اسمعیل کی سکونت کا مکہ مکرمہ میں ہونا سب کو مستم ہے معلوم ہوا کہ تورت کی اس آیت میں اس نبوت کی بشارت ہے جو فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوگی اور کوہ دشت کو اپنے نور سے بھر دے گی اب ناظرین خود دیکھ لیں کہ سوائے نبوت محمدیہ کے وہ کون سی نبوت ہے کہ جو فاران سے ظاہر ہوئی اور اس نے تمام عالم کو انوار ہدایت سے منور کر دیا۔ فاران کی نبوت ہلا شہبہ سینا اور ساعیر کی نبوت سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ اور آتش شریعت سے بھی قرآن کریم مراد ہے اس لئے کہ وہ احکام جماد اور احکام حدود و قصاص پر مشتمل ہے۔ اور دس ہزار قدوسیوں سے لشکر ملائکہ مراد ہے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت دس ہزار صحابہ رہنے کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنا مراد ہے اور حضرت یسح کے ساتھ قولہ نصاریٰ صرف بارہ حواری تھے اور وہ بھی سب جہان بچا کر بھاگ گئے اور ایک خاص حواری یہود نے تیس درم رشوت لے کر اپنے خداوند کو گرفتار کر دیا تھا۔

اور اس بشارت کی حسن ترتیب اور حسن بیان قابل غور ہے۔ اول یہ فرمایا بجاہ التوریت

مِنْ سِينَاءَ خَدَاوَعْدِ سِينَاءَ سے آیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا **وَإِنِّي مِنَ سَاعِيدٍ** سے طلوع ہوا اور اخیر میں یہ فرمایا **وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ قَارَانَ** قاران کے پہاڑ سے چلے گئے ہوا جس سے مقصد یہ ہے کہ نزولِ تورات بمنزلہ طلوع فجر کے ہے۔ اور نزولِ انجیل بمنزلہ طلوع شمس کے ہے اور نزولِ قرآن بمنزلہ استواء شمس فی نصف النهار ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفر کی تاریک شب کا خاتمہ اور پہلی پھٹ کر ایمان و ہدایت کی صبح صادق کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ہوا۔ اور فرعون اور قارون اور ہامان جیسے ائمۃ الکفر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔

اور جب حضرت یحییٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کا ظہور ہوا تو آفتاب ہدایت بھی افق مشرق پر ظاہر ہوا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آفتاب ہدایت ٹھیک نصف النهار پر آگیا اور کوئی چپہ زمین کا ایسا باقی نہ رہا کہ جہاں اس آفتاب کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اور قرآن عزیز میں بھی اس بشارت کی طرف اشارہ ہے۔

وَالْقِيَامِ وَالزُّبُرِ وَاللَّيْلِ نَارٍ وَالنَّجْمِ نَارٍ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

تین اور زرتوں چونکہ ارض مقدس میں پیدا ہوتے ہیں جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا ہوئے اس لئے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی جانب اشارہ ہے اور بلداہن سے مکہ مکرمہ مراد ہے کہ جس سے آفتاب رسالت کا طلوع ہوا۔ حق تعالیٰ شانہ نے مکہ کی صفت کلام میں ذکر فرمائی ہے جس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ نہ در عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزلانہ الہی کے درتیم ہیں کہ بطور امانت اس بلداہن کے سپرد کئے گئے ہیں۔ بلداہن نے تریں سال تک اس درتیم اور امانت الہی کی حفاظت کی مگر جب وقت بہت ہی نازک ہو گیا تو اس وقت بلداہن نے بادلِ ناخواستہ یہ امانت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ کذا فی ہدایۃ الصحباہماوی۔

الحاصل ہے اس کلام میں تین پیغمبروں کی بشارتیں ہی گئیں۔ اور بشارت کا اختتام تمام الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر ہوا تاکہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہو جائے۔
 مخالفین کہتے ہیں کہ فاران سیناء کے ایک علاقہ کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم چونکہ اس علاقہ میں ظاہر نہیں ہوئے اس لئے یہ بشارت ان کے حق میں نہیں ہو سکتی
 جواب یہ ہے کہ۔

تورات کتاب پیدائش باب اکیسواں ازورس ۱۳ تا ورس ۲۱ میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ
 اور حضرت اسمعیل بی بی سارہ کے ناراض ہو جانے سے ارض مقدس کو چھوڑ کر دشت فاران میں
 سکونت پذیر ہوئے جس کی بنا پر فاران وہی مقام ہوگا جو حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد
 کا سکونت گاہ ثابت ہوا۔

اور یہ امر بدایات متواترہ سے ثابت ہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسمعیل وادی حجاز کے
 اس میدان میں مقیم ہوئے جہاں اس وقت مکہ آباد ہے۔ اور یہیں آپ کی اولاد بھی قیام پذیر
 ہوئی۔ معلوم ہوا کہ فاران علاقہ سیناء کے کسی پہاڑ کا نام نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ کا نام ہے
 جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کی سکونت تھی۔

سامری تورات کے عربی ترجمہ میں جس کو علما نے برمن نے ۱۸۵۴ء میں بمقام گائٹنگن
 چھپوایا ہے حضرت اسمعیل کی سکونت گاہ کے متعلق تحریر ہے و سکن فی بریة فاران (ای
 الحجاجنا) واخذت امرأة من ارض مصر (کون الدنیا ۲۱-۲۲)

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام سمویل نبی کی وفات کے بعد دشت فاران میں
 تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ایک زبور تصنیف کیا جس میں نہایت افسوس کے ساتھ
 فرماتے ہیں کہ میں قیدار کے قیامگاہ میں سکونت پذیر ہوں دیکھو سمویل نبی کی پہلی کتاب بائبل
 درس یکم اور دیکھو زبور ۱۳ ورس پنجم۔

اس سے عساف ظاہر ہے کہ قیدار فاران میں رہتا تھا۔ قیدار حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے دوسرے فرزند ہیں۔ اشعیاء وغیرہ کے صحیفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اور اس

کی اولاد مغربی ملک میں رہتی تھی۔ بطلمیوس نے حجاز کا وسطی علاقہ اس کی جائے سکونت بتلایا ہے اس بناء پر یہ امر ثابت ہے کہ وادی حجاز اور فاران دونوں ایک ہی مقام ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ میں ہوا۔ جو حجاز کا مشہور شہر ہے۔ کذا فی بشارۃ الاحمدیۃ اور آتش شریعت سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت احکام جہاد و قصاص و حدود و تعزیرات پر مشتمل ہوگی اور اس کی نبوت دنیاوی بادشاہت ساآئد لئے ہوگی اور حضرت عیسیٰ کی نبوت دنیاوی بادشاہت کو ساآئد لئے ہوتے نہ تھی اور نہ وہ مجربین سے مقام پر قادر تھے۔

بشارت چہارم

از تورات سفر استثناء باب ۳۲ آیت ۲۱

انہوں نے اس کے سبب سے جو خدا نہیں مجھے غیرت دلائی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک بے عقل قوم سے انہیں نفا کروں گا اور۔

اس بشارت میں بے عقل قوم سے جملائے عرب مراد ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔

علوم عقلیہ و شرعیہ سے واقفیت تو درکنار ان کو تو سوائے بت پرستی کے اور کسی شے کا علم نہ تھا۔ یہود و نصاریٰ ان کو بہت حقیر جانتے تھے۔ ان کو چاہیں اور اپنے کو عالم کہتے تھے۔ لیکن جب یہود و نصاریٰ نے تورات و انجیل کی اصلی تعلیم کو چھلا دیا اور بجائے توحید

۱۵۰۰ برس قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام تھا یسوع مسیح۔ ان کا تعلق تھا یسوعیوں سے۔ ان کا تعلق تھا یسوعیوں سے۔ ان کا تعلق تھا یسوعیوں سے۔

کاتب ہے۔ اور مضمین اور محقق ہے حنفی اور اہلنا ب سے پاک ہے ۱۲۰۰

کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى شَانَهُ . وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ . یہود نے عزیز علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت غیور مطلق حق جل جلالہ کت
غیرت جوش میں آئی اور حسب وعدہ انہیں جھلا اور امیسیں میں سے ایک نبی اُمّی - فداہ
نفسی ابنِ وامی کو مبعوث فرمایا۔ جس کے ہاتھوں اپنے دین کو عزت دی اور یہود بے یجہود
کوان کے ہاتھوں قتل کر دیا اور مصر و شام پر ان کا قبضہ کر دیا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى -

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّهِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَيْسَ بِمُتَدَلِّينَ فَهَيْبِينَ -

تمام آسمان اور زمین کی چیزیں مخلوقے بادشا
پاک زبردست حکمت والے ہی کی تسبیح و تقدیس
پڑھتی ہیں۔ اسی خداوند قدوس نے ناخواندوں
میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر
الذکر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و
حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ لوگ

اس سے پہلے کھل کر ابھی میں تھے۔

امیسیں سے عربوں کی جاہل قوم مراد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کی
قوم جاہل اور حقیر تھی اور بنی اسرائیل کو ان سے غیرت دلائی گئی ہے پس یہ بشارت سوائے
قوم عرب کے کسی قوم پر صادق نہیں آتی۔

باقی بے عقل قوم اور شعب جاہل سے یونانیوں مراد لینا جیسا کہ پولوس کے رسالہ روم
سے مترشح ہوتا ہے صحیح نہیں اس لئے کہ یونانیوں تو اس زمانہ میں علوم و فنون کے اعتبار
سے تمام عالم پر فائق تھے وہ شعب جاہل اور بے عقل قوم کا کیسے مصداق ہو سکتے ہیں۔

سقراط - بقراط فیساغورس - افلاطون - جالینوس - اریسطا طالیس - ارسطیدس بیناس - اقلیدس یہ سب کے سب حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری اور بعثت سے کئی صدی قبل تمام علوم و فنون کے ماہر اور احکام تورات کے پورے عالم تھے۔

بشاراتِ پنجم

از تورات سفر پیدائش باب ۲۹

(۱) اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے کوچ کرو تاکہ میں اس کی جو پچھلے دلوں تم پر بیٹے گا تمہیں خیر دلا۔

(۲) اے یعقوب کے بیٹو! اپنے کوچے کرو اور سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی سنو اور پھر آیت دہم میں ہے۔

یہوداہ سے ریاست کا عہد شکنہ ہوگا۔ اور نہ حاکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا۔ جب تک کہ شیلہ آئے۔ اور توہیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی آہ

آیات مسطورہ میں اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ جب تک کہ اخیر زمانہ میں شیلہ کا ظہور نہ ہو اس وقت تک یہوداہ کی نسل سے حکومت و ریاست منقطع نہ ہوگی۔

اہل اسلام کے نزدیک شیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب قرار دیتے ہیں۔ مگر نصاریٰ کا یہ خیال صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس عبارت کا سیاق اس کو مقتضی ہے کہ شیلہ کو نسل یہوداہ سے خارج مانا جائے اس لئے کہ شیلہ کے ظہور سے نسل یہوداہ کی حکومت و ریاست کا انقطاع جب ہی متصور ہو سکتا ہے کہ جب شیلہ نسل یہوداہ سے نہ ہو۔ ورنہ اگر شیلہ نسل یہوداہ سے ہو تو اس کا ظہور تو یقائے حکومت یہوداہ کا باعث ہوگا نہ کہ انقطاع حکومت یہوداہ کا۔

اور بائبل کے ابواب بلکہ انجیل متی کے پہلے ہی صفحہ پر ذرا غور کیجئے سے یہ بات

بخوبی متکشف ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نسل یہود سے خارج نہیں اس لئے کہ آپ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام بالاجماع یہود کی نسل سے ہیں۔

لہذا شیلا کا مصداق وہی نبی ہو سکتا ہے جو نسل یہود سے خارج ہو۔ اور اس کا ظہور اخیر زمانہ میں ہو جیسا کہ آیت اول کے اس جملے سے ظاہر ہے۔

”تا کہ میں اس کی جو بچھے دونوں میں تم پر بیٹے گا تمہیں خیر دوں“

اور یہ دونوں امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آسکتے ہیں کہ آپ یہود کی نسل سے بھی نہ تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے تھے اور آپ کا ظہور بھی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اخیر زمانہ میں ہوا۔

اور آپ کی بعثت کے بعد یہود کی نسل میں جو کچھ حکومت و ریاست تھی وہ سب جاتی رہی قرآتے بنی نضیر اور خبیر سب آپ ہی کے زمانہ میں فتح ہو گئے۔ اور اس جملہ میں کہ

”تو میں اس کے پاس آٹھی رہیں گی“

عموم بعثت کی طرف اشارہ ہے کے مَا قَالَ تَعَالَى شَانَهُ۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيئًا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“

بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کہ ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی کے مَا قَالَ تَعَالَى شَانَهُ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ نیز مختلف قومیں اور مختلف لوگ حضور پر نور ہی کے پاس اکٹھے ہوئے اور آپ کے دین میں فوج فوج اور جوق جوق داخل ہوئے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئی اور کیا رہویں آیت میں ہے۔

”وہ اپنا گدھا انگور سے باندھے گا“

سودانہ النبوة میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیر فتح فرمایا تو وہاں

ایک سیاہ حمار دیکھا۔ آپ نے اس سے کلام فرمایا اور اس کا نام دریاقت فرمایا اس نے
 جواب دیا کہ میرا نام نذیر بن شہاب ہے۔ حق تعالیٰ نے میری وادی کی نسل سے ساٹھ حمار
 پیدا کئے جس پر سواتے نبی کے کسی نے سواری نہیں کی اور مجھ کو امید ہے کہ آپ مجھ پر
 سواری فرمائیں گے میری وادی کی نسل سے میرے سوا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ اور انبیاء علیہم
 الصلوٰۃ والسلام میں سے آپ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس پر سواری فرمائی۔ اور وہ حمار آپ کی وفات کے بعد صدمہ وصال سے ایک کنوئیں میں
 گر کر مر گیا۔

(اور اسی گیا رہویں آیت میں ہے)

« وہ اپنا لباس مٹے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھوے گا »

اس آیت میں اصل عبرانی سے ترجمہ کرنے میں کچھ تصرف کیا گیا ہے اور درحقیقت اس
 طرح تھا۔

« وہ اپنا لباس مٹے سے اور اپنی پوشاک آب انگور سے دھوے گا »

یعنی اس نبی آخر الزماں کی شریعت میں شراب حرام کی جائے گی۔ اور جس طرح دیگر
 نجاست سے کپڑوں کے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے اسی طرح شراب سے بھی کپڑوں کے پاک
 رکھنے اور دھونے کا حکم دیا جائے گا۔

اور عجب نہیں کہ اس سے محبت الہی کی شراب میں استغراق مراد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی شان تو بہت ارفع ہے۔ آپ تو سید الاولیاء والآخرین بلا فخر ہیں۔ آپ کی امت
 میں ہزار ہا بلکہ لاکھوں ایسے گدر گئے کہ عشق الہی اور محبت ربانی میں کوئی امت ان کی ہمسری
 نہیں کر سکتی۔

(اور پھر بارہویں آیت میں ہے)

« اس کی آنکھیں مٹے سے لال ہوں گی۔ اور اس کے دانت (دھوے سے سفید ہوں گے)۔ »

اس آیت میں اسی نبی جبریل کے حلیہ مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی آنکھیں سرخ اور دانت سفید ہوں گے۔ چنانچہ زر قافی شرح مواہب میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے بصری تشریف لے گئے تو ایک سایہ دار درخت کے قریب قیام فرمایا جہاں نسطور راہب کا ٹکیہ تھا نسطور راہب نے میرہ غلام سے جو آپ کے ہمراہ تھا یہ دریافت کیا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے میرہ نے یہ جواب دیا کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخی رہتی ہے کبھی جدا نہیں ہوتی اس وقت نسطور راہب نے یہ کہا کہ یہ آخری پینمبر ہیں۔ کاش میں ان کی بعثت کا زمانہ پاؤں۔

شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تاریخ مصر میں لکھا ہے کہ جب حضرت عاقلیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نام سلطان مقوقس شاہ مصر کے نام لے کر گئے تو شاہ مصر نے نبی آخر الزماں کی علامات بیان کرتے ہوئے یہ کہا۔ کہ سرخی ان کی آنکھوں سے جدا نہیں ہوتی۔ حضرت عاقلیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ کی چشمان مبارک سے سرخی کبھی جدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ کے شمال میں اشکل العینین کا لفظ آیا ہے اشکل ایسی آنکھ والے کو کہتے ہیں کہ جس کی سفیدی میں سرخ ڈور سے ہوں۔ اور بعض روایات اذیح کا لفظ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی آنکھ میں سیاہی ہو۔

سودولوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں جس حال کے لئے سرخی اور سیاہی دونوں درکار ہیں۔ محض سرخی اور محض سیاہی سے اتنا حسن پیدا نہیں ہوتا جتنا کہ سرخی اور سیاہی سے مل کر پیدا ہوتا ہے۔ ولله درالقائل

آیت ما نافع ہے جس کی گواہ	کیا بیاں ہو خیر چشم سیاہ
سرخ ڈورے اس میں رشک گلستاں	تھی سفیدی اور سیاہی درمیاں
تھیں ہم دونوں بحد اعتدال	تھا سفیدی اور سیاہی کا یہ حال
وصف چشم حضرت خیر المورے	اشکل العینین بھی وارد ہوا

الغرض القصد جو وصف کمال
وہ سبھی اوصاف جیسے وہیاں
اور ان سب سے زیادہ وصف خاص
یعنی وہ چشم مبارک دل پذیر!
دیکھتے ہیں لوگ جو وقت سحر
دوسرا ایک اور یہ اعجاز تھا
پیش منظر آپ جیسا دیکھتے
چشم خوبان جہاں کا ہے جمال
عین محبوب خدا میں تھے عیاں
چشم حضرت سے رکھے تھا اختصاں
نور تاریکی میں تھی یکساں بصیر
تیرہ شب میں آپ کو آنا نظر
چشم پاک صاحب اعجاز کا
پہیڑ کے پیچھے بھی ویسا دیکھتے

بشارت چشم

از زبور سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام باب ۲۵

میرے دل میں اچھا مضمون جوش مارتا ہے۔ میں ان چیزوں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہوں۔ میری زبان ماہر لکھنے والے کا قلم ہے۔ (۲) تو حسن میں نبی آدم سے کہیں زیادہ ہے تیرے ہونٹوں میں لطف بٹایا گیا ہے۔ اسی لئے خدا نے تجھ کو اب تک مبارک کیا (۳) اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور بزرگواری ہے جمائے کر کے اپنی ران پر لٹکا (۴) اور اپنی بزرگواری سے سوار ہوا اور سچائی اور ملائمت اور صداقت کے واسطے اقبال مندی کے لئے آگے بڑھا۔ اور تیرا دہنا ہاتھ تجھ کو مہیب کام سکھلائے گا (۵) تیرے تیر تیز ہیں۔ لوگ تیرے نیچے گرے پڑتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں (۶) تیرا تخت اے خدا ابدال آباد ہے۔ تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے (۷) تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔ اس سبب سے تیرے خدا نے تجھ کو خوشی کے تیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ میح کیا (۸) تیرے سارے لباس سے مٹا اور عود اور تاج کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے محلول

کے درمیان تجھ کو خوش کیل ہے (۹) بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں
ملکہ اور فیر کے سونے سے آناستہ ہو کے تیرے دل سے ہاتھ کھڑی ہے۔

(اور بارہویں آیت میں ہے)

”اور صور کی بیٹی ہدیے لاوے گی۔ قوم کے دولت مند تیری خوشامد کریں گے۔“

(اور سولہویں آیت میں ہے)

(۱۶) تیرے بیٹے باپ دادوں کے قائم مقام ہوں گے۔ تو انہیں تمام زمین کا سردار مقرر
کرے گا۔

(۱۷) میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ اور سارے لوگ ابدال آباد تک تیری نشانی
کریں گے۔ انتہی تمام اہل کتاب کے نزدیک یہ امر مسلم ہے۔

کہ اس زبور میں حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک عظیم الشان والشوکت
رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور فرط محبت میں اس کو مخاطب بنا کر اس کے اوصاف
بیان فرما رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ نبی جب ظاہر ہوگا تو ان صفات کے ساتھ
موصوف ہوگا وہ اوصاف حسب ذیل ہیں۔

(۱) بادشاہ یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل ہونا (۲) حسین ہونا (۳) ہنوسوں میں بطف

کا ہونا یعنی شیریں زبان اور فصیح اللسان ہونا (۴) مبارک ال اللہ ہونا (۵) پہلوان

یعنی قوی ہونا (۶) شمشیر بند ہونا (۷) صاحب حق و صداقت ہونا (۸) اقبال مند

ہونا (۹) اس کے دائیں ہاتھ سے کسی عجیب و غریب کرشمہ کا ظاہر ہونا (۱۰) تیر انداز

ہونا (۱۱) لوگوں کا اس کے نیچے گرے پڑنا یعنی خلق اللہ کا اس کے تابع ہونا۔

(۱۲) تخت کا ابدال آباد تک رہنا یعنی اس کی شریعت اور حکومت اسلام کا ناقیاً قیامت

باقی رہنا (۱۳) عصلے سلطنت کا عصلے راستی ہونا (۱۴) صداقت کا دوست اور

شرارت کا دشمن ہونا (۱۵) اس کے کپڑوں سے خوشبو کا آنا (۱۶) اس کے گھرانہ میں

بادشاہوں کی بیٹیوں کا آنا رکھا ہدایا اور تحائف کا آنا (۱۸۸۱) اولاد کا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹۱۹) تمام پشتوں میں قرناً بعد قرن اور نسلاً زور بعد نسل اس کا ذکر باقی رہتا (۲۰۲۰) ابدال آباد تک لوگوں کا اس کی ستائش کرتا۔

اہل اسلام کے نزدیک اس بشارت کا مصداق مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں بیور کے نزدیک ذرذ علیہ السلام کے بعد سے اب تک کوئی نبی ان صفات کے ساتھ موصوف ہو کر ظاہر نہیں ہوا اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بشارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں مگر اہل اسلام کا دعوئے کہ اس بشارت سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں یہی حق ہے اس لئے کہ جو اوصاف اس بشارت میں مذکور ہیں وہ صرف نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ہی پر صادق ہیں۔

۱۱) بادشاہت کا ثبوت اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شمس فی نصف النہار سے تا مابعد اہل اور روشن ہے حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو دین و دنیا دونوں کی بادشاہی عطا فرمائی۔ احکام خداوندی کو بادشاہوں کی طرح جاری فرمایا۔ جس طرح نصاریٰ کے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بیور لعنتم اللہ تعالیٰ سے معذور و مجبور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہ تھے۔ آپ نے تو یہود کو ان کے قلعوں سے نکال باہر کیا۔

الحاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کے بادشاہ تھے۔ تمام انبیاء و رسل سے افضل اور برتر تھے۔ نہ کسی رسول کو قرآن کریم جیسی معجز کتاب عطا کی گئی اور نہ کسی کو آپ جیسی کامل و مکمل شریعت عطا کی گئی کہ فلاح دارین اور نجات اور بہبودی کی پوری پوری کھیل ہو۔ جس نے عقائد و اعمال کی سنگین غلطیوں پر متنبہ کیا ہو۔ خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ ایسا صاف کر دیا ہو کہ چلنے والوں کے لئے کوئی روڑا اٹکانہ رکھا ہو۔ تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل سیاست ملکیہ و مدنیہ کے لحاظ سے بھی تہارت کامل و مکمل ہو۔ غرض یہ کہ اس میں جامعیت گہری کا وصف نمایاں ہو۔ ان تمام محاسن اور خوبیوں کا جامع صرف دین اسلام

ہے جس کو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس سے لائے۔

إِنَّ الْبَدِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِكْتِلَامٌ ط بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

یہی وہ کامل و مکمل دین ہے کہ اس کے ظہور ہوئے ہی سب ادیان و مذاہب کے

چمراغ گل ہو گئے۔

رات محفل میں ہر اک مہ پارہ گرم لاف تھا : صبح کو خورشید جو نکلا تو مطلع صاف تھا

پس جس نبی کی کتاب تمام کتب الہیہ اور صحف سماویہ سے افضل ہو اور اس کی شریعت

تمام شرائع اور ادیان سے بدرجہا برتر اور کامل اور اکمل ہو اور اس کے معجزات بھی تمام انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات سے بڑھے ہوئے ہوں اور اس کی امت بھی تمام امتوں

سے علم اور عمل اعتقادات و اخلاق مکارم و شامل۔ تہذیب و تمدن سیاست ملکیہ اور

مدنیہ کے لحاظ سے فائق اور برتر ہو تو اس نبی کے سید الاولین والآخرین اور بادشاہ دو جہان

ہونے میں کیا کلام اور شبہ ہو سکتا ہے۔

(۲) حسن و جمال میں آپ کا یہ حال تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا گویا

کہ آفتاب آپ کے چہرہ مبارک میں گھومتا ہے اور جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک کھ

چمک دیا رول پر پڑتی تھی۔

حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :۔

وَ اَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْبًا وَ اَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْيَسَاءَ

میسری آنکھ لے آپ سے نہ نہ حسین نہیں دیکھا اور آپ سے زائد حمل اور خوبصورت عورتوں نے نہیں جتا

خُلِقْتَ مَبْرُوءًا مِنْ كِلَيْ عَيْبٍ كَأَنَّكَ فَمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

آپ ہر عیب سے پاک پیدا کئے گئے ہیں گویا کہ آپ حسب منشا پیدا کئے گئے

وَقُلِّبَ حَشْرُ الْعَائِلِ جَزَاءَهُ اللّٰهُ خَيْرًا . امین .

حسن سبط رسول مجتبیٰ سے
 رسول اللہ کا تقا و اصف حال
 خبر کے حلیہ خیر البشر سے
 بیاں کر کچھ تو حال جدا مجد
 کروں جو ہو سکے اسناد اعمال
 رسول اللہ تھے فَخَيْرٌ مِّنْكُمْ
 دلوں میں بھی بزرگ و نامور تھے
 قرہ ہو جس طرح سے چودھویں کو
 میانہ پن سے بھی وہ قد جدا تھا
 غرض کم کیفیت نے کی بیاں راہ
 میانہ سے دراز اُطول سے کچھ کم
 نہایت حسن و موزونی ہو پیدا
 کچھ اک ٹرولیدگی لیکن بہم تھی
 دو فرقہ ان کو کر دیتے تھے فی الحال
 تکلف سے نہ ہرگز فرق کرتے
 گزرتے نہ ہلے گوش سے تھے
 کشادہ تھی جبیں عالم آراء
 مقدس دونوں ابروئے مقدس
 نہ تھی پیوستگی آپس میں ان کو
 بخوبی طاق تھا ثانی و اول
 بہت ہوتی غضب کے وقت پیدا

روایت کی امام باصفانے
 کہ ہند بن ابی ہالہ مرا خال!
 کیا میں نے سوال اس باخبر سے
 کہ ہوں مشتاق ان باتوں کا مجد
 غرض میری ہے یہ سن کر وہ احوال
 کہا بس ہند نے یوں مجھ سے اس دم
 نکا ہوں میں وہ یعنی خوش سیر تھے
 تجلی روئے اللہ کی نہ پوچھو
 میانہ کب قد خیر الورے تھا
 اگر کوتاہ کہئے تھا نہ کوتاہ
 قد بالا کا تھا ان کے یہ عالم
 بزرگی تھی سرعال میں پیدا
 خم تہی عیاں بالوں میں کم تھی
 بکھرتے تھے جو فرق پاک پر بال
 اگر از خود نہ بال ان کے بکھرتے
 بحال و فرة سد کے بال ان کے
 درخشانی کا عالم رنگ میں تھا
 مقوس دونوں ابروئے مقوس
 بانناز مناسب طاق ابرو
 عجیب تھمدار و باریک و مطول
 میان ابروؤں اک رنگ چویدا

کہتے نوروں کے شعلے جس توأم
 بانداز بلندی جلوہ گر تھی
 بلندی کا گڈاں ہوتا تھا پیدا
 بجلا تشبیہ دوں میں کس سے آسکو
 کشادہ وہ دہن تھا اور زیبا
 سپید و صاف آپس میں کشادہ
 کھنچا سینے سے تھا تاناف گلبو
 کہا راوی نے شکل صورت علاج
 بشکل نقشہ بانور و حسیا تھی
 بوضع خود مناسب اور زیبا
 تمامی عضو تن مربوط باہم
 مگر سینہ عریض دہن خوشتر
 سر ہر استخوان میں تھی بزرگی
 درخشنده وہ نور پاک سے تھا
 خط موٹھا کھنچا ہار یک و زیبا
 معری موسے تھا صافی برابر
 مزین تھے بزیب کثرت مو
 خط موٹے رکھے تھی ارجمندی
 کشادہ تھی کف دست مصفا
 نمایاں دونوں قدموں میں بزرگی
 لقب ہے سائل لا طرف جن کا

کہوں کیا حسبنا بنی کا عالم
 معلّم بنی نمیسر البشر تھی !
 جو کوئی بے تامل دیکھتا تھا
 ملائم آپ کے رخسار نمی کو
 بزیبائی کشادہ وہ دہن تھا
 کہوں دانتوں کا کیا وہ حسن سادہ
 دقیق المنسربتہ یعنی خط مو
 بوصف گردن شایان معراج
 مُصفا یعنی وہ گردن تھی ایسی
 کہوں کیا عضو عضو ان کے بدن کا
 بخوبی تھے متن اور فخر عالم
 شکم سینہ صفائی میں برابر
 فراخی دونوں شانوں میں عیاں تھی
 ہرنا جو کچھ کھلا پوشاک سے تھا
 گلونے پاک سے تاناف والا
 سوا اس کے شکم سینہ سراسر
 کلانی دونوں شانے اور بازو
 وہ ان کے صدر عالی کی بلندی
 طویل الزند دونوں دست والا
 بزرگی اس کف پائیں عیاں تھی
 کشیدہ تھیں وہ انگشتان والا

کف پائیں سمائی تھی یہ خوبی
 جو وارد بوجھ پائے اقدس
 جدا رہتی زمیں سے یوں کف یا
 زمیں پر جب خدا ماں آپ جاتے
 انہیں ہوتا خیال مثل پیشیں
 ہوا یہ حال بھی وارد بہ اخبار
 تو اس دم تھے عیاں یہ صاف معنی
 انہیں جب دیکھنا منظور ہوتا
 بہت رہتے تھے آنکھوں کو جھکائے
 زمیں اکثر مشرف تھی نظر سے
 تامل سوچ تھا کیا ہی نظر میں
 بیان کرتا ہے راوی بعد اس کے
 تو یہ ارشاد فرماتے تھے حضرت
 عجیب اخلاق تھے خیر الوری کے
 سنویہ اور عادت مصطفیٰ کی
 جناب پاک کرتے اسکو خوش کام

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمان مصر نے حضرت یوسف
 علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر وہ ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دیکھتیں تو دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتیں۔

اسے زلیخا اس کو نسبت اپنے یوسف سوندے اسپہ سرکشے ہیں دائم اور امس پر انگلیا
 عرض یہ کہ آپ کا حسن و جمال دنیا میں مشہور تھا اور حسن و جمال کے ساتھ شابانہ

جاہ و بیدل بھی آپ کو حاصل تھا کسی کی یہ سمیت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔

(۳) اور آپ کا خوش بیان اور شیریں زبان اور فصیح اللسان ہونا سب کو تسلیم ہے آپ کے انفاس قدسینا اور کلمات طیبات اس وقت تک باسانید صحیحہ و حیدرہ محفوظ ہیں جن سے آپ کی فصاحت و بلاغت اور شیریں زبانی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

(۴) اور آپ مبارک الی الدہر بھی ہیں جیسا کہ بشارت دوم میں گزرا۔ مشرق و مغرب

شمال و جنوب میں کروڑوں مسلمان نماز میں اور نماز کے بعد اور مختلف اوقات میں

اللہم بآرک علی محمد و علی ابی محمد
کما بآرکت علی ابی ابراہیم و علی الیہ
الواہبیم اثلت حیمینا صغیرا۔

اسے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر
جیسے آپ نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر برکت
نازل فرمائی بلاشبہ آپ ستائش اور بزرگی والے ہیں۔

پڑھتے ہیں۔ اس سے نامزد اور کیا مبارک الی الدہر ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ جس کیلئے دنیا کے ہر گوشہ میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہو۔

(۵) قوت میں آپ کا یہ حال تھا کہ نہ کا نہ پہلوان کہ جو قوت میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا

ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں مل گیا اور یہ کہا کہ اگر آپ مجھ کو بچھاؤ

دیں تو میں آپ کو نبی برحق جانوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچھا دیا اس نے

دوبارہ لڑنے کے لئے کہا آپ نے اس کو دوبارہ بھی بچھا دیا۔ اس کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے

یہ ارشاد فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور میرا اتباع کرے تو اس سے نہ لڑنا عجیب چیز دکھلاؤں

اس نے پوچھا کہ اس سے نہ لڑنا عجیب ہے۔ آپ نے ایک درخت کو بلایا آپ کے بلاتے

ہی آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں یہ فرمایا کہ لوٹ جا سو وہ درخت یہ سن کر اپنی

جگہ لوٹ گیا۔

(۶) اور آپ کا شمشیر بند اور صاحب جہاد ہونا بھی مسلم ہے اور حضرت علی علیہ الصلوٰۃ

والسلام نہ شمشیر بند تھے اور نہ صاحب جہاد۔ اور بقول نصاریٰ ان میں اتنی قوت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو یہود سے بچا سکتے۔

(۷) اور آپ صاحب حق و صداقت بھی تھے۔ کما قال تعالیٰ شانہ۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ
ذِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۗ بَلْ جَاءَ الْحَقُّ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۚ (اصافات)

خدا ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے
کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے
اگرچہ مشرکین کو ناگوار گذرے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم شاعر و مجنون نہیں بلکہ حق کو لے کر آئے

ہیں اور مغیروں کی تصدیق کی ہے اور جو سچی بات لے کر آیا۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالنِّصْدَاقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُوْبُرُكُمُ الْمُنْتَفُونَ (سورہ زمر)

اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ ہرگز گمراہ
ہیں۔

ایک مرتبہ نصر بن الحارث نے قریش کو مخاطب بنا کر یہ کہا۔

قد كان محمد فيكم غلاما حدثا
ارضاكم فيكم و اصدقكم
حديثا و اعظمكم امانة ، حتى
اذا رايتكم في صدغيه الشيب و
جاء بما جاءكم قد قلتم انه ساحر
لا والله ما هو بساحر .

محمد اللہ علیہ وسلم تم میں نوجوان تھے سب سے
نلید پسندیدہ سب سے زائد سچے سب سے زائد امین
لیکن جب تم نے ان کے جاتین راس میں بڑھایا
دیکھا۔ اور وہ تمہارے پاس یہ دین حق لے کر آئے
تو تم ان کو ساحر اور جادو گر کہنے لگے۔ ہرگز نہیں
نصراک قسم وہ ساحر نہیں۔

اور ہر قل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق
یہ دریافت کیا کہ تم نے کبھی اس کو بالکذب کیا ہے تو اس پر ابوسفیان نے یہ جواب دیا کہ
ہم نے ان سے کبھی کوئی کذب نہیں دیکھا۔

(۸) اور اقبال مندہ یونا بھی ظاہر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جیسا آپ کو

اقبال عطا فرمایا ایسا اقبال آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ ہوگا
(۹) اردو دائیں ہاتھ سے مہیب کام اور غیب و غریب کرشمہ ظاہر ہونے سے معجزہ
شق قمر کی طرف اشارہ ہے۔

چوردنش بر آہنخت شمشیر زیم بہ معجز میان قمر زود و نیم
اور علی ہذا جنگ بدر اور حنین میں ایک مٹی خاک سے تمام مشرکین کو خیرہ کر دینا
یہ بھی آپ کے دائیں ہاتھ کا مہیب کام تھا۔

(۱۰) تیر انداز ہونا بنی اسمعیل کا مشہور شعار ہے چنانچہ حدیث میں ہے۔

ارمو ابی اسمعیل فان اباکم لے بنی اسمعیل تیر اندازی کیا کر اس لئے کہ
کان داصیا۔ تمہارا باپ تیر انداز تھا۔

(اور رووی حدیث میں ہے)

من تعلقہ الرمی ثم ترکہ فلیس منا جو تیر اندازی سیکھ کر تھوڑے دنوں میں نہیں

لال اور لوگوں کا آپ کے نیچے گرنا۔ یعنی خلق اللہ کا آپ کے تابع ہونا۔ یہ بھی انظر من
الشمس ہے چند ہی روز میں ہزاروں ہزار اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے۔ لکھا قال اللہ تعالیٰ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْعُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَوَّابًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّ
كَانَ تَوَّابًا

تو یہ قبول فرمائے والہ ہے۔

(۱۳) اور آپ کی شریعت ابد الابد تک رہے گی چنانچہ قرآن کریم حسب وعدہ انہی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمْ دِينَكُمْ حَقًّا لَا مَسَاسَ فِيهِ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس
کے محافظ ہیں۔

تیرہ صدی سے بالکل محفوظ چلا آتا ہے۔ محمد انساب تک اس کے ایک نقطہ اور ایک شوشہ میں بھی سرمولفادت نہیں آیا۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اسی طرح رہے گا۔ اور یہود و نصاریٰ کو اپنی تواریخ و انجیل کا حال خوب معلوم ہے لکھنے کی حاجت نہیں اور آپ کی سلطنت کا عصا راستی اور صداقت کا عصا ہے ہمیشہ اس سے استحقاق حق اور ابطال باطل ہوتا رہتا ہے۔

۱۱۴۱ اور آپ صداقت کے دوست اور شرارت کے دشمن تھے۔ کما قال اللہ جل جلالہ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ
 أَلْفَسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ
 رَّحِيمٌ۔

بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آئے
 گئے ہیں کہ جن پر تمہاری تکلیف شاق ہے تمہاری
 بھلائی کیلئے سرگرم ہیں۔ مومنین پر نہایت شفیق اور
 مہربان ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ
 وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ۔

اے نبی کریم کفار و منافقین سے جنگ کیجئے
 اور ان پر سختی کیجئے۔

اور آپ کی امت کے یہ اوصاف ہیں۔

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكُفْرَانِ حَتَّىٰ تَلْمِزَهُمْ
 آذِنَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
 نَوْمَةَ الْآيَةِ۔

کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بہت مہربان
 مومنین پر نرم اور کافروں پر سخت۔ اللہ کے راستہ
 میں جہاد کریں گے اور کسی ذمت کرنے والے کی
 ملامت کی بالکل پرواہ نہ کریں گے۔

اور عجیب نہیں کہ شرارت سے ابو جہل مراد ہو کہ جو سرتاپا شرارت تھا اور صداقت سے
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہوں جو کہ سرتاپا صدق و صداقت تھے اور بے
 شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل تھے کہ ان کو خلیل و صدیق یعنی دوست
 بنا یا جانتے۔

(۱۵) اور آپ کے کپڑوں سے جو طبعی آیا کرتی تھی۔ سخی کہ ایک عورت نے آپ کا پسینہ مبارک اس لئے جمع کیا تاکہ دلہن کے کپڑے اس سے معطر کرے۔

(۱۶) اور قرآنِ اول میں بہت سی شہزادیاں مسلمانوں کی خادم نبی ہیں چنانچہ شہر بانو یزدجرد شاہ کسریٰ کی بیٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔

(۱۷) نجاشی شاہ حبشہ اور منذر بن سادہ بنی شاہ بحرین اور شاہ عمان اور بہت سے امیر و کبیر آپ پر ایمان لائے۔ اور آپ کے حلقہ بیگوش بنے۔ اور آپ کی خدمت میں سلاطین و امراء لے ہلایا بھیج کر فخر و سرفرازی حاصل کی۔ چنانچہ مقوقس شاہ قبط نے آپ کی خدمت میں تین باندیاں اور ایک حبشی غلام اور ایک سفید چرخار اور ایک گھوڑا اور کچھ کپڑے بطور ہیرا ارسال کئے۔

(۱۸) اور آپ کے بعد قریش میں خلافت رہی۔ آپ کی اولاد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صدیق اکبر اور کھراں ہوئے۔ حجاز و یمن۔ مصر و شام وغیرہ میں حکومت و سلطنت پر فائز رہے۔ اور قیامت کے قریب امام ہمدی کا ظہور ہوگا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اور تمام زمین کے خلیفہ ہوں گے۔

(۱۹ و ۲۰) اور آپ کی ستائش و ذکر خیر بھی ابد الابد تک رہے گا۔ میرا ذائقہ میں اَشْفَقْتُ اَنْ كَايَلَا تَرَ اِلَّا اللّٰهَ - کے ساتھ بلند آواز سے اَشْفَقْتُ اَنْ مَتَّعْتُكَ اَرْسُولَ اللّٰهِ - روزِ تہ پانچ مرتبہ کروڑ ہا مسلمان پکارے ہیں۔ کہ نبی و عظیم اور خطیب ایسا نہیں کہ جس میں آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لیا جاتا ہو۔ محمد اور احمد کے معنی ستودہ کے ہیں۔ اس بشارت کے شروع میں يَا اَحْمَدُ کا لفظ صراحتاً مذکور تھا مگر حسد کی وجہ سے نکال دیا گیا مگر تاہم یہ اوصاف تو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر صادق نہیں آتے۔

نصاری کے زعم و اعتقاد پر تو حضرت مسیح بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی طرح اس

بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتے اس لئے کہ نصاریٰ صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کے ترپنویں باب کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت قرار دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے۔

”ہمارے پیغام پر کون اعتقاد لایا۔ اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا۔ اس کے ڈیل ڈول کی کچھ خوبی نہ تھی اور نہ کچھ رونق کہ ہم اس پر نگاہ کریں۔ اور کوئی نمائش بھی نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں نہایت ذلیل و حقیر تھا۔ آہ اور پھر آیت پنجم میں ہے۔

”وہ ہمارے گناہوں کے سبب گھائل کیا گیا۔ اور ہماری بد کاریوں کے باعث کھلا گیا۔ آہ معاذ اللہ تم معاذ اللہ حسب نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تھے تو وہ اوصاف زبور کا جو بالکل اس کی ضد ہیں کیسے مصداق ہو سکتے ہیں۔

ہمارے اعتقاد میں منجملہ دیگر تحریفیات کے صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کا ترپنواں باب قطعاً و یقیناً الحاقی اور اختراعی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حاشا تم حاشا ہرگز ایسے نہ تھے۔ وہ تو دنیا اور آخرت میں وجیہ (آبرو اور عزت والے) اور خدا کے مقربین میں سے تھے۔ لیکن بائیں ہمہ اس بشارت کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہیں اس لئے کہ نہ آپ شمشیر بند اور تیر انداز تھے اور نہ مجاہد تھے اور نہ آپ کی شہادت دائمی ہے۔ اور نہ آپ کی بعثت عام تھی۔ اور نہ آپ کے گھرانے میں کوئی شہزادی آئی کہ جو آپ کی بیوی یا لونڈی ہوتی اس لئے کہ اپنے کوئی نکاح ہی نہیں فرمایا۔ نیز آپ کے کوئی باپ دادا نہ تھا آپ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بشارت ہفتم

از زبور سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام باب ۱۲۹

(۱) خداوند کی ستائش کرو۔ خداوند کا ایک نیا گیت گاؤ۔ اور اس کی مدح پاک لوگوں

کی جماعت میں۔

(۳) اسرائیل اپنے بنانے والے سے شمار مان ہوئے۔ بنی صیہون اپنے بادشاہ کے سہب خوشی کریں۔

(۴) وہ اس کے نام کی ستائش کرتے ہوئے ناپسندیدہ۔ وہ طبلہ اور بربط بجاتے ہوئے اس کی ثنا خوانی کریں۔

(۵) کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ وہ علموں کو نجات کی ریت بناتا ہے۔

(۶) پاک لوگ اپنی بزرگواری پر فخر کریں۔ اور اپنے بستروں پر چلنے سے ہونے بلند آواز سے گایا کریں۔

(۷) خدا کی ستائش ان کی زبانوں پر ہو دین اور ائیس در دعاری تلواران کے ہاتھوں میں ہو (۸) تاکہ غیر امتوں سے انتقام لیں۔ اور لوگوں کو مزاد لیں۔

(۹) ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے اور ان کے امیروں کو لوہے کی بیڑیوں سے بکریں۔ (۱۰) تاکہ ان پر وہ فتویٰ جو لکھا ہوا ہے جاری کریں کہ اس کے باپ لوگوں کی ہی شوکت ہے کہ خداوند کی ستائش کرو۔ آمین۔

اس بشارت میں نبی مہشر کو بادشاہ کے لفظ سے اور اس کے مطیعین کو صالحین اور پاک لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ نبی موعود بادشاہ ہو گا اور اس کی شمشیر زنی موافق خوشنودی حق اور بے مقصدانہ غضب الہی کافروں کے حق میں ہو گی اور اس کے اصحاب اور احباب اس کی ساتھ ہو کر کافروں سے جہاد و قتال کریں گے۔

بعد ازاں مطیعین کے کچھ اوصاف ذکر کئے گئے ہیں جو میں اولیٰ قالیٰ انحرہا امت محمدیہ پر پورے منطبق ہیں یہی وہ امت ہے کہ جو اپنے بستروں پر بھی اللہ کو یاد کرتی ہے کما قال تعالیٰ۔

يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي مَا مَادُوا فُعُودًا وَعَتَلَى
 وَهُ الشُّرُوكُ كُفْرٌ مَعَهُ اور بھیجے اور کروٹ پر
 لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔

اور یہی وہ امت ہے کہ نمازیں اور جملہ میں اور ہر اذان میں اور عید الفطر اور
 عید النحر اور ایام تشریق اور ایام حج اور منیٰ اور مزدلفہ اور عرفات میں اللہ کو بلند آواز سے
 پکارتی ہے بخلاف یہود و نصاریٰ کے کہ یہود تو یوق اور نصاریٰ ناقوس بجاتے ہیں
 بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا اور اللہ کو یاد کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی
 آہ و صحبہ وسلم کی امت کا شعار ہے۔

اور ماجرین و نصاریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کی دو دعوات تواروں نے روم و
 شام و دیگر ممالک کو فتح کیا اور بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو قید کیا ہے۔ اور
 اہل کتاب کے نزدیک اس بشارت کا مصداق نہ سلیمان علیہ السلام ہو سکتے ہیں کیونکہ اہل کتاب کا
 زعم باطل اور اعتقاد فاسق ہے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اخیر عمر
 میں مرتد اور بت پرست ہو گئے تھے۔

اور نہ حضرت علی علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے اعتقاد کے مطابق اس بشارت کا
 مصداق ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک تو حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام خود ہی
 مقتول و مصلوب ہوئے۔ اور علی ہذا آپ کے اکثر حواریین گرفتار کئے گئے۔ وہ دوسرے
 بادشاہوں اور امیروں کو کہاں قید کرتے۔ اور بشارت میں یہ مذکور ہے۔ کہ وہ شخص موعود
 بادشاہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہ تھے اور معنوی بادشاہت برہنی کو
 حاصل رہی اس میں حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت۔

رہا کافروں سے قتال و جہاد کرنا اور ان کو گرفتار کرنا سو یہ عین عبادت ہے نہ کہ قابل
 اعتراض جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون
 علیہ السلام کا جہاد کرنا۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا جہاد فرمانا

تمام یہود و نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے خلاصہ کلام یہ کہ اس خیر کا مصداق حضرت مسیح نہیں ہو سکتے اس لئے کہ زبور مذکور کا مضمون باواز بند یہ کہ رہا ہے کہ آنے والا نبی بادشاہ ہوگا اور اپنے اصحاب کے ساتھ سلاطین کفار سے جہاد و قتال کرے گا اور بڑے بڑے جبارین اور تکبرین مقتول اور اسیر اور گرفتار ہوں گے اور آپ کے اصحاب تکبیر کہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ۵

بتکبیر مردان شمشیر زن کہ مردوخارا شمار نند زن

اور یہ تمام امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر ہوتے۔

بشارت ہشتم

از زبور بابک۔ ورس اول

- (۱) اے خدا بادشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے۔
- (۲) وہ تیرے لوگوں میں صداقت سے حکم کرے گا اور تیرے مسکینوں میں عدالت سے۔
- (۳) پہاڑ لوگوں کے لئے سلاطین ظاہر کریں گے اور چیلے بھی صداقت سے۔
- (۴) وہ قوم کے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور محتاجوں کے فرزندوں کو بچائے گا۔ اور ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔
- (۵) جب تک کہ سورج اور چاند باقی رہیں گے ساری پشتوں کے لوگ تجھ سے ڈرا کریں گے۔
- (۶) وہ بارش کے مانند جو کالے ہوئے گھاس پر پڑے نازل ہوگا اور بھری کے مہینہ کی طرح جو زمین کو سیراب کرتا ہے۔
- (۷) اس کے عصر میں جب تک کہ چاند باقی رہے گا صادق چلیں گے اور سلاطین فرادان ہوں گے۔
- (۸) سمندر سے سمندر تک اور دریا سے استواء زمین تک اس کا حکم جاری ہوگا۔
- (۹) وہ جو بیابان کے باشندے ہیں اس کے سامنے جمعیں گے اور اس کے دشمن

مانی چائیں گے۔

(۱۰) ترمیس اور جزیروں کے سلاطین تدریں لائیں گے اور سبا اور سبیا کے بادشاہ
بریے گناریں گے۔

(۱۱) سارے بادشاہ اس کے حضور سجدہ کریں گے ساری گروہیں اس کی بندگی کریں گی۔
(۱۲) کیونکہ وہ دہانی دینے والے محتاج کو اور مسکین کو اور ان کو جن کا کوئی مددگار
نہ ہوگا۔ چھڑائے گا۔

(۱۳) وہ مسکین اور محتاج پر ترس کھائے گا۔ اور محتاجوں کی جان بچاتے گا۔
(۱۴) وہ ان کی جانوں کو ظلم اور ظلم اور غضب سے بچالے گا ان کا خون اس کی نظر
میں بیش قیمت ہوگا۔

(۱۵) وہ جیتا رہے گا اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا اس کے حق میں سدا دعا ہو
گی ہر روز اس کو مبارک باد کہی جائے گی۔

(۱۶) اناج کی کثرت سرزمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوگی اس کا پھل لبنان کے
درخت کی طرح بھڑ بھڑائے گا اور شہر کے لوگ میدان کے گھاس کے مانند سر منبر ہونگے
(۱۷) اس کا نام ابد تک باقی رہے گا جب تک کہ آفتاب رہے گا اس کے نام کا
رواج ہوگا۔ لوگ اس کے باعث اپنے تئیں مبارک کہیں گے ساری قومیں اسے مبارکباد
دیں گے (۱۸) خداوند خدا اسرائیل کا جو اکیلا ہی عجایب کام کرتا ہے مبارک ہے (۱۹)
اس کا جیل نام ابد تک مبارک ہے سارا جہان اس کے جلال سے معمور ہو آمین آمین
(۲۰) داؤدین یسی کی دعائیں تمام ہوئیں وہ شرفاں زبور ختم ہوا،

جاننا چاہئے کہ اس زیور میں ایسے پتھر کے ظہور کی خبر دی گئی ہے کہ جس کو نبوت
ورسالت کے ساتھ من جانب اللہ بادشاہت اور حکومت بھی حاصل ہوگی اور اس
کا دائرہ سلطنت اتنا وسیع ہوگا کہ ہر پھر کو شامل ہوگا اور عدالت اور صداقت کے

سناؤ اس کی عدالتیں جاری ہوں گی مسکینوں اور محتاجوں کو ان کا حق دلائے گا اور
 ظالموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور اس کے دشمن لڑیاں اور ترسماں ہوں گے اور
 سلاطین عالم اس کے لئے ہریے اور تحفے لائیں گے اور تمام قبائل اس کے مطیع اور
 فرمانبردار ہوں گے ہر طرف سے ہر روز ساری قومیں اس کے حق میں دعا اور مبارکباد
 کہیں گی اور اب تک اس کا نام باقی ہے گا جب تک آفتاب ہے گا اس کے نام کا رواج رہے گا۔
 اہل عقل ایک سرسری نظر سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اوصاف مذکورہ حضرت مسیح خلیع السلام
 میں نہ تھے بلکہ رسالت مآب خاتمیت جناب سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلیمان اور ذوالقرنین جیسی حکومت عطا
 فرمائی کہ جس میں قوموں کے درمیان ایسی عدالت اور صداقت جاری ہوئی کہ دنیا نے
 نہ ایسی صداقت اور عدالت دیکھی اور نہ سنی۔ ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لیا گیا اور زمین
 کو ظلم اور غصب سے پاک کر دیا اور بحر اور صحراء و بیابان میں آپ کی حکومت پھیلی
 اور دشمن آپ سے حق رائے اور بڑے بڑے سلاطین آپ کے حضور سجدہ میں گرے اور
 ہدیے اور تحفے آپ کی بارگاہ میں بھیجے اور آپ نے صداقت اور عدالت کے جاری کرنے
 کے لئے جمادات اور خروارے سکئے اور آپ کی جاری کردہ صداقت اور عدالت کو صدیق اکبر
 اور فایوق اعظم جیسے صداقت اور عدالت کے علمبرداروں نے صدیکالی کو پہنچایا۔

اور اب تک جب تک کہ پاند اور سورن قائم ہیں آپ کا نام مبارک ہر اذان اور
 نماز اور ہر دعا اور ہر منبر و محراب میں لیا جائے گا۔ بلکہ خطبوں میں آپ کے نام مبارک
 کے ساتھ آپ کے خلفاء راشدین کا نام بھی لیا جائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں صداقت
 و عدالت کا علم بلند کیا۔

اسے علماء بیورد و نصاریٰ یہ ناپسند تم کو صداقت اور عدالت کا واسطہ دے کر پوجتے
 ہے کہ جس صداقت اور عدالت کے جاری کرنے کا ذکر اس زیور میں ہے خدا را یہ تبارک

کہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہاں ظہور ہوا اوصاف مذکورہ کا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین پر انطباق کسی صورت سے ممکن نظر نہیں
آتا۔

گذارش

حضرات اہل علم کی خدمت میں گذارش ہے کہ زبور کا باب ۱۱۲ اور ۱۱۳ اسی بہترین
باب کا تتمہ ہے جس میں صحابہ کرام کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی ملاحظہ
فرمائیں اور تشریح اور تطبیق کے لئے ازالۃ الادبام بزبان فارسی سنگ سنگ ملاحظہ فرمائیں
حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی قدس اللہ سرہ ملاحظہ فرمائیں۔

بشارت نہم

از صحیفہ ملاکی علیہ الصلوٰۃ والسلام باب سوم آیت اول

دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا۔
اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں ختنہ کا رسول میں سے تم خوش ہووے اپنی
بیکل میں ناگہاں آوے گا۔ دیکھو وہ یقیناً آوے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ پر اس
کے آنے دن کون ٹھہر سکے گا۔ اور جب وہ نمود ہوگا کون ہے جو کھڑا رہے گا۔ آوے

اس بشارت میں ایسے رسول کی آمد و ظہور کا ذکر ہے کہ جو صاحب ختان ہوگا۔ اور
اسی وجہ سے آپ کی بعثت سے قبل یہود و نصاریٰ کو رسول الختان کا انتظار تھا۔ او
قیصر روم بھی اسی پیشینگوئی کے مطابق رسول ختان کے ظہور کا منتظر تھا جیسا کہ صحیح بخاری
کی حدیث برقل میں مذکور ہے مگر آجکل نسخوں میں بجائے ختنہ کے رسول کے عہد کار رسول
مذکور ہے۔

لیکن اس صورت میں بھی عہد سے ختنہ ہی کا عہد مراد ہے جیسا کہ سفر پیدائش کے

باب ہفتم کی آیت دہم سے معلوم ہوتا ہے۔

اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا منتہہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ضنہ کرو۔ اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے آگ۔

بشارت دہم

از صحیفہ حقیقہ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام باب سوم آیت ۳
صلواتان سے۔ اور وہ جو حدوس بے کوہ فاران سے آیا۔ اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا۔ اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔ اس کی جگہ کا بٹ نور کی مانند تھی اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلیں۔ (اشہا)۔

یہ بشارت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت ہی ظاہر ہے سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون پیغمبر فاران سے بعوث ہوا۔ اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی ہو جتنا چاہے ہر دوست اور دشمن کی زبان پر آپ کا نام ملے اور احمد ہے۔ اور ایک قدیم عربی نسخہ میں یہ لفظ ہیں۔

واہتلات الزمان من تحمید
یعنی تمام زمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کی حمد سے بھر گئی۔

مگر حاسدین نے اس جملہ کا رہنا گوارا نہ کیا۔ اور بعد کی اشاعت میں اس جملہ کو صحیفہ مذکورہ سے غلط کر دیا۔ اور علی ہذا سارا عالم بھی آپ کے نور ہدایت سے جگمگا اٹھا۔

بشارت یازدہم

از صحیفہ یسعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام باب آیت ۶ و ۷
خداوند نے مجھے یوں فرمایا جا نگہبان بھلا جو کچھ دیکھے سو بتلائے۔ اس نے سوار دیکھے
گھڑ چڑھوں کے جو دو دو آتے تھے اور گدھوں پر بھی سوار اور اونٹوں پر بھی سوار آئے۔

اس بشارت میں حضرت یسعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو نبیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔
اول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے چنانچہ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ
والسلام گدھے پر سوار ہو کر بیروت تک آئے (مقدس) داخل ہوئے تھے۔

دوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اونٹ کی سوار سے اس حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم ہی کی طرف اشارہ ہے جو عرب کی خاص اور مشہور سوار ہے۔

چنانچہ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت اونٹ پر سوار تھے اور پھر
آیت نهم میں بابل کے سقوط یعنی اس کے گرنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ بابل کا سقوط
راشدین کے زمانہ میں ہوا حضرت مسیح اور عمارتین کے زمانہ میں بابل کا سقوط نہیں ہوا۔

بشارت دوازدہم

از صحیفہ یسعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام باب آیت ۱۶ و ۱۷

اس باب میں عرب کی بابت الہامی کلام کا ذکر ہے چنانچہ آیت ۱۶ میں ہے۔ ۱۶ خداوند
نے مجھ کو یوں فرمایا۔ ہنوز ایک برس ہیں مزدور کی، ایک ٹھیک برس میں قیام کی

ساری حسرت جاتا رہے گی۔ ۱۷ اور تیرا اندازوں کے جو باقی رہے قیام کے ہمارے
لوگ گھٹ جائیں گے۔ کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا۔ آہ

چنانچہ ٹھیک ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر میں نبی قیام یعنی قریش کی ساری

حشمت جاتی رہی۔ ستر سردار مار سکے۔ اور ستر قید ہوئے۔ اور بہت سے زخمی ہوئے اور نئی قیدار کا بنی اسمعیل سے ہوا تو بیت وغیرہ اور تواریخ سے ثابت ہے اور علماء انصاری کے نزدیک مسلم ہے۔

بشارت سیزدہم

از صحیفہ یسعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام باب ۲۲ آیت ۲۳

اور چاند مضطرب ہوگا۔ اور سورج شرمندہ کہ جس وقت رب الافواج کو دیکھوں اور
یرد علم میں اپنے بزرگوں کے گروہ کے آگے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا۔ اٹھ۔

پنناچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حشمت کے ساتھ سلطنت فرمائی اور چاند
مضطرب یعنی اپنی اصل حالت سے متغیر ہوا۔ اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کما قال تعالیٰ شانہ
اقترنبت الشفق وانشق القمر
قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔
اور سورج بھی شرمندہ ہوا۔ چنانچہ غزوہ خیبر میں اس کو حرکت معلوس کرنا پڑی۔

بشارت چہار دہم

از صحیفہ یسعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام باب ۲۸ آیت ۱۳

سو خداوند کا کلام ان سے یہ ہوگا حکم پر حکم۔ حکم پر حکم۔ قانون پر قانون۔ قانون پر قانون
تھوڑا ساں۔ تھوڑا ساں۔

چنانچہ قرآن عزیز اسی طرح مجھانچھا نازل ہوا۔ یہی انجیل سو وہ علماء مسیحین کے نزدیک
منزل من اللہ ہی نہیں بلکہ وہ حواریوں کی تصنیف ہے۔ اور صحیفہ مذکور کی عبارت سے یہ
معلوم ہوتا ہے کہ کتاب موصوف کا منزل من اللہ ہونا ضروری ہے۔
اور ہمارے نزدیک جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دی گئی وہ تمام کتاب

ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی طرح نیچا نیچا نازل نہیں ہوئی۔ قال تعالیٰ شانہ ،
 وَذُرَّا نَاقُورًا مَّا يَتَّقُوا عَلَيَّ الَّذِي اس عَلَيَّ
 مُكَدِّبًا مَّا تَزَيَّنَّا مَّا تَزَيَّنَّا
 وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا مُزِيلًا
 تَلِيهِ الْغَمَّاتُ جُمُودًا أَمِعْدَةٌ كَذِبِيكَ
 لَيْسَ ثَمَّتْ بِهِ شَرٌّ أَدْلُكَ وَ تَرْتَلُمَا
 تَزَيَّنَّا .

اور ہم نے قرآن کو عسوراً عسوراً نازل کیا کہ فرکتے
 ہیں کہ قرآن ایک ہی بار نہیں نازل کیا گیا۔ کہہ دو
 کہ ہم نے اسی طرح نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو
 مضبوط رکھیں اس لئے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو سنایا

بشارت پانزدہم

الرَّصِيفَةُ لِيَسْمِيَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَابُ آيَاتِ أَوَّلِ

دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالتا میرا برگزیدہ جس سے میرا حقِ راضی ہے۔ میں نے اپنی ریح
 اس پر رکھی وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا۔

یہ بشارت بھی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے صریح ہے اس لئے کہ میرا بندہ
 یہ ترجمہ عبداللہ کا ہے۔ اور عبداللہ بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسا کہ قرآن عزیز
 میں ہے۔

تَمَّامًا عَبْدُ اللَّهِ . جب عبد اللہ کہلا رہا۔

اور قرآن عزیز میں بکثرت عبداللہ کے لقب سے آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ قال تعالیٰ۔

سُبْحٰنَ الَّذِي اسْمٰى بِعَبْدِهٖ وَقَالَ تَعَالٰى
 وَمَا تَلٰكُمَا عَلٰى عَبْدِنَا .
 پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو سہ لے گیا اس
 چیز سے جو تم نے اپنے بندے پر نام رکھی۔

نصاری کہتے ہیں کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے۔

لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نصاریٰ کے اعتقاد میں خدا کے بندے

نہیں بلکہ خدا اور معبود ہیں۔ لہذا وہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ اور برگزیدہ بعینہ
ترجمہ مصطفیٰ کا ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف نام ہے۔ اور
جس سے میراجی راضی ہے۔ یہ ترجمہ مرتضیٰ کا ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا ایک نام پاک ہے۔

اور بزعم نصاریٰ اس جملہ کا مصداق یعنی جس سے میراجی راضی ہے۔ حضرت
علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ ان کے زعم میں مصلوب و
مقتول ہوئے۔ اور بر مقتول و مصلوب ہو جاتے وہ نصاریٰ کے نزدیک ملعون ہے
جیسا کہ گاہیتوں کے تیسرے خط کے تیرھویں درس سے معلوم ہوتا ہے۔

مسح جو ہمارے لئے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے
چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ آہ۔
اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نصاریٰ
کے اس زعم باطل کی بناء پر معاذ اللہ خدا ان سے راضی نہیں۔

الحاصل محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شبہ خدا کے برگزیدہ بندہ اور
رسول ہیں جن سے خدا راضی ہے۔

اور کتب سیر میں آپ کے اسماء مبارکہ میں آپ کا نام نامی مرتضیٰ اور رضی بھی لکھا ہے
اور اسکی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے صحابہ کرام کا خاص شعار ہے کما قال تعالیٰ شأنا

لقد اذینتی اللہ عن المؤمنین اذینا یعونک
تصرت المشجورہ

و محمد رسول اللہ و الذین من معہ اذینا
علی انکفأ فی رحمتنا یلذون تو اھلکم
و کما سجدت الیہ یسبحون فذلک من اللہ

البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا
جبکہ وہ اس رحمت کے نیچے آپ سے بیت کر رہے تھے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو
آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر رحمت اور آس
میں مہربان ہیں آپ ان کو رکوع و سجود کرتے

وَرِضْوَانًا سَيِّمَاهُمْ فِي دُجُوهِرِهِمْ مِنْ
آثَرِ الشُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرَةِ۔

اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے دکھیں گے صلاح
اور تقویٰ کی نشانی ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے
نمایاں ہے، یہ انکی نشانی جو توراہ میں مذکور ہے۔

۴۔ اور روح سے مراد وحی الہی ہے کہ جس پر ارواح و قلوب کی حیات کا دار و مدار
ہے۔ کما قال تعالیٰ شانہ

ذَكَرْنَاكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دُوحًا
مِنْ أَمْرِنَا۔

اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے
علم سے۔

سوال محمد ﷺ کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ پر مردہ قلوب کی حیات اور زندگی کیلئے
ایک بھڑک یعنی قرآن عظیم کو اتارا جس نے نازل ہو کر مردہ قلوب کو حیات اور بے شمار
مریضیوں کو شفا بخشی کما قال تعالیٰ شانہ۔

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ
رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

اور نازل ہوتے ہیں ہم ایسا قرآن کہ جو مؤمنین
کیلئے سراسر شفاء اور رحمت ہے۔

(۵) اور مبعوث ہو کر آپ نے باذن الہی عدالت کو بھی جاری فرمایا۔ کما قال اللہ جل
جلالہ و عظم نوالہ

فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَدَّتْ بِنَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْلِلَ
بَيْنَكُمْ۔

پس اسی طرف بلائیے اور اسی پر قائم رہیے
جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ اور ان کی خواہشوں
کی پیروی نہ فرمائیے اور یہ کہنے کہ میں ایمان لایا
اللہ کی اناری ہوئی کتاب پر اور حکم کیا گیا ہوں
کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔

(سورہ شوریٰ)

اور چونکہ عدالت کا جاری کرنا شوکت کو متقاضی ہے اس لئے یہ وصف بھی علی
زعم النصارى حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صادق نہیں۔ اس لئے کہ نصاریٰ

کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تو اتنی قوت بھی نہ تھی کہ جو اپنے کو قتل و صلب سے بچا سکتے شوکت تو درکنار۔
(۶) پھر باب مذکور کی دوسری آیت میں ہے۔

کہ وہ نہ چلائے گا۔ اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاریوں میں نہ سنائے گا۔
یہ جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح صادق آتا ہے چنانچہ صحیح بخاری کے باب کراہیۃ الصحۃ فی الاسواق میں عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر یہ دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں بیان فرمائیے۔ جواب میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رحمہ اللہ نے بہت سے اوصاف ذکر فرمائے۔ منجملہ ان کے یہ فرمایا۔

لیدس ببقظ ولا غلیظ ولا سخاب وہ نبی نہ بدخود اور نہ سنگ دل ہوگا اور نہ
بالاسواق۔ بازاروں میں شور کرنے والا۔

(۷) اور باب مذکور کی تیسری آیت میں ہے۔

وہ عدالت کو جاری کرانے کا کام دائم رہے یعنی وہ نبی صاحب حکومت اور صاحب عدالت ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے یہاں حکومت کا نام بھی نہ تھا نہ کا قود سے جہاد کیا اور نہ مجرموں پر کوئی عدالت جاری کی اس کا مصداق تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں اور دائم رہنے سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غراء کا الی یوم القیامت باقی رہنا مراد ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب تک برابر محفوظ ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہے گی کوئی امت اس بارہ میں امت محمدیہ کی ہمسری نہیں کر سکتی کسی امت نے بھی اپنے نبی کی شریعت اور اس نبی کے اقوال و افعال کی حفاظت امت محمدیہ کے مقابلہ میں عشر عشیر بھی نہیں کی۔ اور شریعت کے دائم ہونے سے خاتم الانبیاء ہونے کی طرف اشارہ ہے اس لئے شریعت کا دوام اور بقاء الی یوم القیامت جب ہی ہو سکتا ہے

کہ اس نبی کے بعد اور کوئی نبی نہ بنایا جائے۔ ورنہ اگر اس کے بعد کوئی اور نبی بنایا جائے تو شریعت سابقہ شریعت لاحقہ سے مسوخ ہو جانے کی وجہ سے دائمی نہ رہے گی۔
(۸) اور باب مذکور کی چوتھی آیت میں ہے۔

اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلا جائے گا جب تک لامتی کو زمین پر قائم نہ کرے۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا کہ جب راستی زمین پر قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

اللَّيَوْمَ آتَمَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَدِينَكُمْ
أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَتَمَّ جِذْبُكُمْ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا.
آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے
کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا العام تمام کر دیا
اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لئے
پسند کر لیا۔

کی بشارت نازل ہو گئی۔ اور

إِنَّا فَخَّرْنَا الذِّكْرَ فَخَّرْنَا مُبِينًا
اور إِذْ آجَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔
جب خدا کی مدد اور فتح آپ پہنچی۔

کا وعدہ پورا ہو گیا اور غیب نہیں کہ راستی قائم کرنے سے حفاظت صدیقہ کی جانب اشارہ ہو جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے اس لئے کہ راستی ترجمہ صدق کا ہے اور صدق کا اطلاق صدیق پر ایسا ہی ہے جیسا کہ عدل کا اطلاق زید پر چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا میں صدیق اکبر کو امام بنا کر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ میرے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہونے چاہئیں تاکہ صدق اور راستی قائم ہو۔

(۹) اور چوتھی آیت میں ہے۔

تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔

یہ جملہ بھی سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور صادق نہیں آتا اس لئے کہ اللہ نے

آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔

وَاللّٰهُ يَخْبِئُكَ مِنَ النَّاسِ اور آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

چنانچہ یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دستگیری کی اور حفاظت فرمائی
ہاں بزعیم نصاریٰ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حفاظت نہیں ہوئی۔

زبان اور بچھری آیت میں جو نور کا ذکر ہے کہ لوگوں کے عند اور قوموں کے نور کے لئے
تجھے دوں گا اس سے نور ہدایت اور نور شریعت کا دینا مراد ہے جیسا کہ قرآن عزیز میں متعدد
جگہ اس کا ذکر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔
اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف
سے ایک برہان آچکا ہے اور ہم نے تمہاری
طرف ایک نور (قرآن کریم) نازل کیا۔
(سورۃ نساء)

قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرَضُوا كَأَوْتَارًا كَذِبًا
پس جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد
کی اور اسی نور کا اتباع کیا کہ جو آپ کے ساتھ
نازل کیا گیا۔ یہی لوگ فلاح والے ہیں۔
(سورۃ اعراف)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
اے نبی ہم نے تمہیں بشارت دینے والا اور
ڈرانے والا اور خدا کی طرف خدا کے حکم سے
بلانے والا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے
وَسِيمًا لِّبَشَرٍ لِّتُؤَدِّعِيَ إِلَى اللَّهِ يَا ذَنبٍ
کافر اپنی موتوں کی پھونک سے اللہ کے نور
کو بھانا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے نور کو
مزدور نور فرمائیں گے اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو
(سورۃ احزاب)

يُؤَدِّعُونَ لِبُطِينِكُمْ أَن تُوَرِّثُوا اللَّهَ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللّٰهُ مُدَبِّرٌ لِّلنُّجُومِ ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
اور اپنی شوکت دوسروں کو نہ دوں گا۔
(سورۃ صفا)

(ال) آیت مہتمم میں ہے

اور اپنی شوکت دوسروں کو نہ دوں گا۔

یہ جملہ بھی حرفت بجز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔
 أعطیت ما لم يعط احد من الانبياء قبلي۔
 مجھ کو بخشا ہے اللہ جو چیزیں عطا کی گئیں کریم
 انبیاء سابقین میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔
 مثلاً ختم نبوت و رسالت۔ عموم بعثت و دعوت۔ مقام محمود۔ شفاعت گہری۔ معراج سبع
 سموات ان فضائل و مزایا سے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی کو سر فرزند نہیں
 کیا گیا۔ یہ حشمت و شوکت آپ کے سوا کسی کو نہیں دی گئی۔

اور اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو وہ آیات و بیانات محاسن اخلاق فضائل و شمائل۔
 علوم و معارف عطا فرمائے کہ جو کسی نبی اور رسول کو نہیں عطا فرمائے خصوصاً قرآن مجیم کا
 معجزہ تو ایسا روشن معجزہ ہے کہ جس کے سامنے موافق و مخالف سبب ہی کی گردنیں خم ہیں۔
 ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 یہ خدا کا فضل ہے۔ وہ فضل جس کو چاہتا ہے
 دے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
 ۱۳۳ اور گیارھویں آیت میں ہے۔

بیابان عرب اور اس کی بستیوں قبیلہ کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے۔ سنع
 کے پسے والے ایک گیت گائیں گے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لگا کریں گے وہ غلوں
 کا جلال ظاہر کریں گے۔ اھ

قبیلہ حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صاحبزادہ کا نام ہے جو حضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں اور اس بیابان سے فاران کا بیابان مراد ہے جہاں حضرت
 زہرا زینب علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چھوڑ گئے
 تھے جیسا کہ کتاب پیدائش کے اکیسویں باب کی اکیسویں آیت سے ظاہر ہے اور یہ وہی جگہ
 ہے کہ جہاں اس وقت مکہ معظمہ آباد ہے اور قبیلہ کے آباد دیہات سے یہی مکہ مراد ہے۔ اسی جگہ
 حضرت اسمعیل کی اولاد آباد ہوئی۔ الحاصل اس جملہ میں آپ کے مولد یعنی حملے و ولادت کی

طرف اشارہ ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کی امت اس بیان میں تالیہ **إِنَّا اللَّهُ** اور **أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ** اور **لَتَسْبِيحَكَ اللَّهُمَّ** **لَتَسْبِيحَكَ** کے نعروں سے اللہ کے جلال کو ظاہر کرے گی۔ سفر اور حضر میں اللہ کی تکبیر کہنا یہ خاص امت محمدیہ کا شعار ہے اذان اور تکبیر کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور نصاریٰ میں گھنٹہ اور ناقوس بجا کر نماز پڑھی جاتی ہے اور بجلے تکبیر و توحید کے تہلیل اور تجسیم کا نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا نے مریم کے پیش میں جسم پکڑا اور بندوں کی نجات کے لئے صلیب پر لٹکا۔

اور اس بشارت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نبی مبشر قیدار بن اسمعیل کی اولاد سے ہو گا لہذا اس بشارت کا مصداق انبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ سب حضرات اسرائیل کی اولاد سے ہیں نہ کہ قیدار بن اسمعیل کی اولاد سے۔ اور صلح مدینہ طیبہ کے ایک پاراگراف نام ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہجرت کی طرف اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

خلاصہ کلام

یہ کہ یہ کلام معرفت النیام از اول تا آخر یا واریلندریہ کہ ہے کہ وہ شخص موعود خدا تعالیٰ کا خاص برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اور عامۃً خلائق کی پیشوائی اور سارے جہان کی بادشاہی اور رہنمائی کا منصب اس کو عنایت ہوگا اور شخص موعود نبی قیدار یعنی بنی اسمعیل میں سے ہوگا نہ کہ بنی اسرائیل میں سے کیونکہ قیدار بالاتفاق حضرت اسمعیل کے بیٹے کا نام ہے۔ پس اس خبر کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں ہیں۔ بنی قیدار یعنی بنی اسمعیل میں سے نہیں۔

اور سارے جہان کی پیشوائی اور رہنمائی کا منصب بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا اس لئے کہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے گمراہ بھیڑوں کی طرف بھیجے

گئے یعنی ان کی بعثت عام نہ تھی اور نہ حضرت عیسیٰ نے کوئی حکومت کی اور نہ قوموں میں کوئی عدالت جاری کی پس اس خبر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مراد ہو سکتے ہیں اس خبر میں جس قدر اوصاف مذکور ہیں وہ سب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق اور منطبق ہیں لہذا وہی مراد ہو سکتے ہیں۔

بشارت شانزدہم

الر صوفیہ یسعیاہ علیہ السلام باب ۵۲ ورس ۱۳

۱۳۔ دیکھو میرا بندہ اقبال مند ہو گا وہ بالا اور ستودہ ہو گا اور نہایت بلند ہو گا (۱۳) جس طرح بہترے تجھے دیکھ کے دنگ ہو گئے کہ اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ اس کی پسیر بنی آدم سے زیادہ بگڑ گئی (۱۵) اسی طرح وہ بہت سی قوموں پر پھیلے گا اور بادشاہ اس کے آگے اپنا منہ بند کریں گے کیونکہ وہ کچھ دیکھیں گے جو ان سے کہا نہ گیا تھا اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ دریافت کریں گے۔ (ختم ہوا)

اس بشارت میں میرے بندے سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات مراد ہے جس کے اقبال مند اور بالا اور ستودہ ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں اور لفظ ستودہ شیک لفظ محمد کا ترجمہ ہے۔ ع

محمد ستودہ مشین استوار

اور حق تعالیٰ نے حضور پر نور کو وہ بلند شی اور رفعت عطا کی کہ جو نہ کسی نے کبھی سنی اور نہ دیکھی۔

حضرت نصاریٰ غور کریں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بلندی اور اقبال مندی بھی حاصل ہوئی نصاریٰ کے زعم فاسد کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اقبال مندی اور نہایت بلندی تو کہاں سے حاصل ہوئی نصاریٰ کے عقیدہ صلیب کی بناء پر تو حضرت

مسح علیہ السلام کو وہ ذلت اور بانسٹ حاصل ہوئی کہ جو دنیا میں کبھی بھی کسی برگزیدہ حق کو نہیں ہوئی اہل اسلام تو اس توہین و تذلیل سے بری اور بنیاد ہیں جو نصاریٰ اپنے مزعوم خدا کے لئے تجویز کرتے ہیں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حق تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور ان کے دشمنوں کو ناکام کیا۔

بشارت ہفتم

الصحیفة یسعیاہ علیہ السلام باب ۱۱

دربارہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ

(۱) اٹھ روشن ہو رہے سرزمین مکہ کہ تیری روشنی آئی اور خداوند کے جلال نے تجھ پر لادوغ کیا ہے۔ (۲) کہ دیکھ تاریخ کی زمین چھپا جاتے گی اور تیرگی قوموں پر لیکن خداوند تجھ پر طلوع کرے گا اور اس کا جلال تجھ پر نمودار ہو گا۔ (۳) اور تو میں تیری روشنی میں اور شاہان تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے اب یہاں سے زمین مدینہ کو خطاب ہے۔ (۴) اٹھ اٹھ جاؤں طرف نگاہ کروہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ تجھ پاس آتے ہیں تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھانی جائیں گی رہ سب تو دیکھے گی اور روشن ہوگی ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی (۵) اڈٹوں کی قطاریں اور مدیاں اور عقیفہ کی سانڈنیاں آکے تیرے گرد بے شمار ہوں گی وہ سب جو سب کے ہیں آئیں گے وہ سونا اور لبان لائیں گے اور خدا کی تعریفوں کی بشارتیں سنائیں گے (۶) قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی نہیٹ کے ہینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائیں گے اور میں اپنی شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا

(۸) یہ کون ہیں جو بدلی کی طرح اڑتے آئے ہیں اور کبوتروں کی مانند اپنی کابک کی طرف
 (۹) یقیناً بحری ممالک میری راہ تکیں گے اور تیرسوں (عرب کے جہاز پہلے آئیں گے تیرے
 بیٹوں کو ان کے روپے اور سونے سمیت دور سے خداوند تیرا خدا اور اسرائیل کے قدوس
 کے نام کے لئے لائیں کیونکہ اس نے تجھے بزرگی دی ہے۔ (۱۰) اور اجنبیوں کے بیٹے تیری
 دیواریں اٹھائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزار ہی کریں گے اگرچہ میں نے اپنے
 قہر سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے تجھ پر رحم کروں گا (۱۱) اور تیری پھاٹکیں نت کھلی رہیں گی
 وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گی تاکہ قوموں کی دولت کو تیرے پاس لائیں اور ان کے بادشاہ
 کو دھوم دھام کے ساتھ۔ (۱۲) کہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزار ہی نہ کرے گی
 برباد ہو جائے گی ہاں وہ تو میں ایک لخت ہلاک ہو جائیں گی۔ (۱۳) لبنان کا جلال تجھ پاس
 آئے گا سرور اور صنوبر اور دیودار ایک ساتھ تاکہ میں اپنی مقدس مکان کو آراستہ کروں اور
 اپنے پاؤں کی کرسی کو رونق بخشوں۔ (۱۴) اور تیرے غارتگروں کے بیٹے بھی تیرے آگے
 ٹھہرے ہوئے آئیں گے یا وہ سب جنہوں نے تیری تحقیر کی تیرے پاؤں پر پڑیں گے اور خداوند
 کا شہر اسرائیل کے قدوس کا صیہون تیرا نام رکھیں گے (۱۵) اس کے بدلے کہ تو ترک
 کی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کیا میں تجھے شرافت
 دائمی اور پشت در پشت لوگوں کا سرور بناؤں گا (۱۶) تو قوموں کا دودھ بھی چوس لے گی
 یاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی اور تو جانے گی کہ میں خداوند تیرا بچانے والا اور میں یعقوب
 کا قادر تیرا چھڑانے والا ہوں۔ (۱۷) میں پتیل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے
 روپا اور لکڑی کے بدلے پتیل اور پتھروں کے بدلے لوہا اور میں تیرے حاکموں کو سلائی
 اور تیرے عالموں کو صداقت بناؤں گا۔ (۱۸) آگے کو کبھی تیری سرزمین میں ظلم کی آواز نہیں
 سنی جائے گی اور نہ کہ تیری سرحدوں میں خرابی یا بربادی کی تو اپنی دیواروں کا نام نجات
 اور اپنے دروازوں کا نام ستودگی رکھے گی۔ (۱۹) آگے تیری روشنی دن کو سورج سے اور

رات کو تیری چاندنی چاند سے نہ ہوگی بلکہ خداوند تیرا پیری نور اور تیرا خدایتیرا اجلال ہوگا اور تیرا سورج پھر کبھی نہیں ڈھلے گا اور تیرے چاند کا زوال نہ ہوگا کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ساتھ کہ دن آخر ہو جائیں گے۔ ۱۲۱ اور تیرے لوگ سب راست باز ہوں گے وہ ابد تک سر زمین کے وارث اور میری لگائی ہوئی ثمنی اور میرے ہاتھ کی کارگیری ٹھہرے گا تاکہ میری بزرگی ظاہر ہو۔ ۱۲۲ ایک چھوٹے سے ایک ہزار ہوں گے اور ایک حقیر سے ایک قوی گروہ ہوگی میں خداوند اس کے وقت میں یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ باب ۶۰ ختم ہوا۔

اس باب کی پہلی آیت میں مکہ معظمہ کو خطاب ہے اور اس کو روشن اور منور ہونے کی بنا پر ہے اور نور اور روشنی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور یا قرآن کا نور مراد ہے قرآن کریم میں آپ کو اور قرآن کریم کو نور میں کہا گیا ہے۔

۱۳۰ صدی سال سے جو زمین پر کفر اور شرک اور گمراہی کی ظلمت اور تاریکی چھائی ہوئی تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نور قرآن سے نائل ہو گئی۔

۱۳۱ اور امیر و فقیر اور بادشاہ اس نور کے طلوع کی تجھی میں چلنے لگے۔

(۱۲) اور رفتہ رفتہ وہ نور زمین کے چاروں طرف پھیلنے لگا اور مختلف تباہی اس نور کے گرد اکٹھے ہونے لگے اور تیس برس کے اندر وہ نور دیا روم اور دیا مغرب اور دیا مشرق فارس اور کاشغر اور خمن اور ہند سندھ وغیرہ میں پہنچ گیا۔

(۱۳) اور لاکھوں مسلمان پیادہ اور سوار امیر اور غریب حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ میں جمع ہونے لگے اور بے شمار اونٹوں اور سانڈیوں کی قطاریں مکہ معظمہ پہنچنے لگیں اور اونٹوں کی افراط جس قدر عرب اور مکہ مکرمہ کے اطراف اور نواقی میں ہے وہ زمین کے کسی نقطہ میں نہیں۔ (۱۴) اور خداوند ذوالجلال کی حمد و ثناء اور تعریف کرنے والوں کے غول کے غول خانہ کعبہ کے گرد جمع ہونے لگے۔

(۱۵) اور روئے زمین کے سلاطین ابن اسلام خانہ کعبہ اور اہل مکہ کیلئے لاکھوں درہم و دینار کے

ہدایا بھیجنے لگے۔

۸) اور مدینہ میں حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے جو بطن قطور سے ہے اور شہر مدینہ انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اور قیدار حضرت اسمعیل کے دوسرے بیٹے کا نام ہے جیسا کہ تورات کے کتاب پیدائش کے پچیسویں باب میں صراحتاً مذکور ہے اور اہل مدینہ اور نواحی سب سب حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے ہیں جو مشرف باسلام ہوتے اور ہر سال اونٹوں اور سانڈنیوں پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور بن کی حمد و ثنا اور نَبِّئِكَ الْكَافِرَاتُ نَبِّئِكَ الْشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ کی آوازوں سے دشت و بیابان گونجنے لگتے ہیں اور قیدار کی ساری بھڑیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں اور غمیطہ سے عرب مشرقی و شمالی کے قبائل مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ سب یعنی مین کے قبائل۔ اور قیدار کی بھڑیں یعنی قریش کے وحشی لوگ اور غمیطہ کے مینڈھے یعنی موٹے اور فربہ آدمی۔ ہر طرف سے خدا کی تسبیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔

۹- اور کبوتروں کے مانند لوگ خانہ کعبہ کی طرف اڑ کر پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے۔
۱۰- اور اس وقت جو فخر اور جلال لبنان کو حاصل ہے وہ اس وقت مکہ معظمہ کو حاصل ہوگا اور اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہو جائے گا جو خاتم الانبیاء اور سید الاصفیاء کا مولد اور مسکن ہوگا اور اس کے اصحاب انبیاء بنی اسرائیل کا نمونہ ہوں گے۔

۱۱- اور جو غار مگر خانہ کعبہ کا رخ کرے گا وہ ایک تخت ہلاک ہوگا جیسا کہ اصحاب فیل کا قصہ مشہور ہے۔

۱۲- اور خدا کا مقدس مکان یعنی خانہ کعبہ آراستہ اور پیراستہ ہوگا ہر سال اس پر زریں غلاف چڑھائے جائیں گے۔

سے نبی حضرت اسمعیل کے ایک فرزند کا نام ہے۔

۱۳ اور اس بلدہ مقدسہ کا نام صیہون ہوگا۔ اس لئے کہ صیہون جس طرح یہ و ظلم کے ایک
 پہاڑ کا نام ہے۔ اسی طرح صیہون مکہ مکرمہ کا بھی نام ہے جیسے شیخ عبدالحق دہلوی نے مدارج
 النبوة باب چہام قسم اول میں لکھا ہے۔ دیکھو ازالۃ الاویام ص ۵۷
 ۱۴۔ اور آپ کے بعد جو خلیفہ اور حاکم ہوتے وہ عین سلامتی ہوتے اور آپ کی شریعت
 کے عالم میں صداقت بنے۔

۱۵۔ اور سرزمین عالم صداقت اور عدالت اور سلامتی سے ایسی معمور ہونی کہ کسی جگہ بھی
 ظلم کی آواز نہ سنی گئی۔

۱۶۔ اور امت کو ایسی شریعت کا وارث بنا کر دنیا سے رخصت ہوتے کہ جس کا نور اور
 روشنی ابد تک چمکتا رہے گا۔

۱۷۔ اور اس کا نور اور جلال ابدی ہوگا۔

۱۸۔ اور جو نہ کبھی ڈھلے گا اور نہ زوال پذیر ہوگا۔

۱۹۔ اور اس نبی کے تمام صحابہ راست بانہ ہوں گے۔

۲۰۔ اور ایک چھوٹے سے بےزار اور ایک حقیر سے قوی گروہ ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم

والمنته۔

گزارش

حضرات اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ کتاب یسعیاہ کا باب ۵۴ اور باب ۶۵ بھی
 ضرور ملاحظہ فرمائیں اس میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کے
 اوصاف کا تذکرہ ہے۔

اور اس کی تشریح اور تطبیق کے لئے ازالۃ الاویام ص ۲۹۴ و ص ۵۰۵ بزبان فارسی
 و اظہار الحق ص ۱۴۵ ج ۲ بزبان عربی و ص ۱۳۱ ج ۲۔

ہر دو مسند حضرت مولانا محمد اللہ کیرانوی ملاحظہ فرمائیں قطبویل کے انریشہ سے

اس کو ترک کر دیا ہے۔

بشارت ہشت دہم

از کتاب دانیال علیہ السلام باب دوم

کتاب دانیال کے باب دوم میں ایک طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

بخت نصر شاہ بابل نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بھول گیا اس سے اور بھی زیادہ پریشان ہوا۔ بادشاہ نے یہ ماجرا دانیال علیہ السلام سے ذکر کیا دانیال علیہ السلام نے وحی کے ذریعہ وہ خواب بھی بتلایا اور پھر اس کی تعبیر بھی بتلائی۔

۳۱۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت ہے جو نہایت خوبصورت بھی ہے اور ہیبت ناک بھی ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے۔

۳۲۔ جس کا سر خالص سونے کا ہے اور اس کا سینہ اور بازو چاندی کے ہیں اور اس کا فکرم اور رائیں تانبے کے ہیں اور اس کی پنڈلیاں لوبے کی ہیں اور اس کے پاؤں کچھ لوبے کے اور کچھ مٹی کے ہیں۔ بادشاہ اس عجیب و غریب مورت کو دیکھ رہا ہے۔

۳۳۔ کہ یکایک ایک پتھر نکلا بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے کاٹ کر نکالے خود بخود نکلا اور اس مورت کے پاؤں پر لگا کر جو لوبہ ہے اور مٹی کے تھے اور اسے ٹکڑے کر دیا۔

۳۴۔ اور لوبہ اور مٹی اور تانیا چاندی اور سونا جس سے وہ مورت بنی ہوئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور بتانی کھلیان کے بھوسے کے مانند ہو گئے اور ہوا انہیں اڑا کر لے گئی یہاں تک ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا (خواب ختم ہوا)

بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تھا مگر بھول گیا تھا دانیال علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلایا

گیا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے دانیال علیہ السلام نے حسب وحی خداوندی خواب
 بیان کر کے بادشاہ کو اس کی تعبیر بتلانی کہ اس خواب میں یکے بعد دیگرے پانچ سلطنتوں
 کی طرف اشارہ ہے۔ سونے کے سر سے باہل کا بادشاہ مراد ہے اور تیسری سلطنت سونے
 کی مانند ہے اور تیسرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو چاندی کے مانند ہوگی اور تیسری
 سلطنت سے کمتر ہوگی اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو تانبے کی مانند ہوگی
 پھر ایک چوتھی سلطنت آئے گی جو لہیے کی مانند مضبوط ہوگی پھر ایک پانچویں سلطنت
 آئے گی جس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے ہوں گے یعنی اس سلطنت میں کچھ
 ضعف اور اضطراب ہوگا لہذا درمٹی ملا جلا ہوگا یعنی وہ سلطنت قوت اور ضعف کا
 مجموعہ ہوگی کبھی اس میں قوت ہوگی اور کبھی ضعف اس پانچویں سلطنت کے زمانہ میں
 یکا یک عالم غیب سے ایک پتھر نمودار ہوگا جو کسی کے ہاتھ سے کاٹ کر نکالا جواد ہوگا بلکہ
 من جانب اللہ خود بخود بلا سبب ظاہری کے آسمان سے اترے گا اور اس آخری سلطنت
 کے پاؤں پر گرے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تا آنکہ اس کو بتانی کھلیان کے
 بھومہ کے مانند بنارے گا اور جو اس کو اڑا کر لے جائے گی یہاں تک اس کا نام و نشان
 نہ رہے گا اور رفتہ رفتہ وہ پتھر پہاڑ بن کر تمام زمین کو بھر دے گا جیسا چاہئے کہ اس تعبیر
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی آسمانی
 بادشاہت کو ایک پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ پتھر بہت جلد پہاڑ
 کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا یعنی اول اول وہ پھوٹی سی سلطنت ہوگی اور بعد میں
 تمام دنیا پر چھا جائے گی۔ چنانچہ عمرفاروقی میں قیصر و کسری کی شوکت کا خاتمہ ہو گیا اور
 اس طرح ہوا الذی آتسئل ذموتہ بانہذا ی قد دین النحق بیظہر کا علق
 الذین کتبہ کا وعدہ پورا ہوا اور ہلک کسری ہلا کسری بعد وہ ہلک قیصر ہلا قیصر بعد
 کی تصدق ہو گئی آسمانی بادشاہت کا پتھر زمین پر ایسا گر کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں

کو پیش کر رکھ دیا اور جو شریعت آپ پر آسمان سے نازل وہ قیامت تک باقی رہے گی تفصیل کے لئے اظہار الحق ص ۱۳۸ ج ۲ زبان عربی اور ازالۃ الاہام ص ۳۳۳ زبان فارسی ہر دو مصنفہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی قدس اللہ سرہ کو دیکھئے اور ہدایۃ الحیاری ص ۷۹ مصنفہ حافظ ابن قیم رحمہ بھی دیکھئے۔

عائکہ بنت عبدالمطلب کا خواب

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عائکہ بنت عبدالمطلب کا ایک خواب ذکر کریں جو سیرت کے تمام صحیح اور معتبر کتابوں میں مذکور ہے تاکہ ناظرین کو اس نیا نیا لیبہ کے سمجھنے میں مدد سے وہ خواب حسب ذیل ہے۔

ابو جہل کی سرکردگی میں قریش کا ایک ہزار کا قافلہ سات سو اونٹ اور سو سواروں اور دیگر سامان حرب کے ساتھ جنگ بدر کے لٹے روانہ ہونے لگا تو قبل از روانگی عائکہ بنت عبدالمطلب نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار مکہ میں آیا اور مقام ابعطح میں اونٹ بٹھلا کر باؤ از بلند یہ کہہ رہا ہے۔

ان انفس وایا آل غدیر لہم صادرکم
اسے غدیر یعنی خمار کے غدیر و تم بہت جلد اپنی
مقتل اور پھرنے کی جگہ کی طرف تین دن میں
مکمل جاؤ۔

اور پھر وہ شتر سوار مسجد الحرام میں گیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بھی اسی طرح اعلان کیا اس کے بعد وہ سوار جبل ابوقیس پر چڑھا اور وہی آواز دی اور پھر اوپر سے ایک پتھر اٹھا کر نیچے پھینکا وہ پتھر نیچے پہنچ کر چور چور ہو گیا اور مکہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جا کر نہ گرا ہو۔ عائکہ نے یہ خواب حضرت عباس سے بیان کیا جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے یہ خواب اپنے مخصوص دوستوں سے

بیان کر دیا اور سمجھ گئے کہ قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے شدہ شدہ اس خواب کی اطلاع ابوہبل کو بھی ہوگئی ابوہبل نے جب حضرت عباس کو مسجد حرام میں آتے دیکھا تو کہنے لگا اے ابو الفضل (حضرت عباس کی کنیت ہے) تمہارے مرد کو مدعی نبوت مٹھے ہی اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے ابوہبل نے عاتکہ کے خواب کا ذکر کیا۔ خواب بیان ہی کیا جا رہا تھا کہ یکایک منضم غفاری ابوسفیان کا پیام لے کر اس شان سے مکہ میں پہنچا کہ پیرا تن چاک ہے اور اونٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے اور آوازہ لگا رہا۔ اسے گروہ قریش اپنے کاروان تجارت کی خبر لو۔ اور جلد از جلد ابوسفیان کے قافلہ کی مدد کو پہنچو یہ خبر سنتے ہی قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور بدر کے میدان میں پہنچ کر اس خواب کی تعبیر بحالت بیداری اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

اور اس واقعہ پر بھی غور کرو کہ جو احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ غزوہ خندق میں۔ خندق کھودتے وقت جب ایک پتھر نکل آیا تو اس پر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کدال ماری جس سے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس سے روشنی نمودار ہوئی اور اس میں شام اور فارس اور یمن کے شہر نظر آتے اشارہ اس طرف تھا کہ یہ تمام ممالک اسلام کے مفتوح ہوں گے۔

بشارت نوزدہم

از انجیل متی باب سوم آیت اول

ان دونوں میں یوحنا یہودیہ کے بیابان میں ظاہر ہوئے کے منادی کرنے اور یہ کہنے لگا کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔ انتہی۔

اور اسی انجیل کے باب چہارم کے سترھویں آیت میں ہے۔ اسی وقت سے یسوع

نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔ انتہی۔

آسمانی بادشاہت سے یہ مراد ہے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوگی اور اس میں ہر طرح کے احکام مذکور ہوں گے۔ اور نہایت شوکت اور حاکمانہ طور سے اس کی نشر و اشاعت کی جائے گی خدائے سرکشوں اور نافرمانوں پر تمہیدی احکام نافذ ہوں گے۔ غرض یہ کہ نہ تو فقط دنیوی بادشاہت ہو جیسا کہ سلاطین دنیا کو حاصل ہوتی ہے اور نہ یہ ہو کہ فقط احکام خداوندی کی اشاعت نہایت مسکنت سے مقصور اور مغلوب ہو کر بلا کسی شوکت اور حکومت کے کی جاتے۔ بلکہ احکام آسمانی بھی ہوں اور اس کے ساتھ شوکت اور حکومت زہنی بھی ہو۔ احکام خداوندی سے سرتابی کرنے والوں کو سزا بھی دی جاتی ہو۔ حکومت الہی کے بانگیوں سے جہاد بھی کیا جاتا ہو اور یہ دونوں باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے عہد میں کما حقہ ظہور میں آئیں۔

احکام خداوندی اور شریعت آسمانی بھی نازل ہوئی اور نہایت شوکت اور قوت سے اس کو نافذ کیا گیا۔ قیصر و کسریٰ کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا۔ خدائے دشمنوں سے جہاد بھی کیا چورا اور رہزنیوں پر حد بھی قائم کی۔ زنا کاروں کو رجم اور سنگ سار کیا۔ شراب خواروں کے گولے لگواتے۔ آنکھ کھول کر دیکھے کہ آسمانی بادشاہت اس کو کتے ہیں اور خدا را یہ بھی آسمانی بادشاہت نہیں تو وہ بادشاہت تم بتلاؤ کہ جس کو آسمانی کہا جاسکے۔ اِنِّیْ ذٰلِکَ لَذِکْرٰی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفِی السَّمْعِ وَهُوَ شَہِیْدٌ۔

بشارت بستم

از انجیل متی باب ۲۱، آیت ۴۲

یسوع نے انہیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو راج گیروں

نے ناپسند کیا وہی کونے کا سرا ہوا۔

یہ خدا کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب۔ اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں
کیا خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جاتے گی اور ایک قوم کو جو اس کے سیوہ لاد سے
دی جیسے گی جو اس پتھر پر گرے گا چور ہو جاتے گا پھر جس پر وہ گرے اسے پس ڈالے
گا۔ انتہی۔ ران گیر اور معاموں سے نبی اسرائیل مراد ہیں اور کونے کے پتھر سے ہمارے نبی
اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ نبی اسرائیل کی نظر میں ایک
ناپسند پتھر کے مشابہ تھے نبی اسرائیل نے ہر چند آپ کو روکنا چاہا مگر آپ تائید الہی سے کونے
کا سرا یعنی خاتم النبیین ہو کر رہے۔ اور پتھر کے سرزاویہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو کونے عمارت
کے بلندی کی طرف خالی تھا وہ اس سے بھر جاتے گا اسی طرح قصر نبوت میں جو زاویہ خالی
تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ہو گیا اس طرح قصر نبوت کی عمارت پوری ہو گئی۔

کما روی ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی
مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل منی
بیتا فاحسنہ واجمده لا موضع لنبیہ من
زاویۃ فجعل الناس یظوفون بہ ویحجون
لہ ویقولون ہذا وضعت اللبنة وان کتکتہم
الانبیاء۔ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء و
فی روایۃ انما عددت موضع اللبنة وختم
فی البنیان وختم فی الرسل۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور
انبیاء سابقین کی ایسی مثال ہے کہ کسی نے ایک
محل نہایت عمدتیار کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ
چھوڑی ہوئی۔ لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں اور
یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی
میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ یعنی میں نے ہی اس
اینٹ کی جگہ کو پر کیا ہے اور میرے ہی سے یہ
تعمیر ختم ہوئی اور مجھ ہی پر انبیاء و رسل کا سلسلہ
ختم ہوا۔

پھر آپ پر جو گرا وہ بھی چور چور ہوا اور جس پر آپ گرے وہ چور چور ہوا۔ چنانچہ جنگ
یہ میں قریش آپ پر گرے اور وہ خدا کے فضل سے چور چور ہوتے اور فتح مکہ کے وقت

آپ ان پر گرجے تب بھی وہی چور چور ہوئے۔ اور آپ کے بعد صحابہ کرام ایران، شام و روم وغیرہ وغیرہ پر گرجے اور سب کو چور کیا اور پھل اور سیوہ لٹنے والی قوم بنی اسمعیل ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پھل لائی اور حکومت اور سلطنت کے مالک ہوئے اور یہ آسمانی بادشاہت ان کے حصہ میں آئی۔

لہذا اس بشارت کا مصداق، بجز خاتم النبیین سید الالذین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سو وہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت محترم تھے وہ ناپنہ پتھر کے کیسے مشابہ ہو سکتے ہیں روم یہ کہ وہ خاتم النبیین نہیں جیسا کہ ماسبق میں معلوم ہو چکا ہے کہ اہل کتاب علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اور نبی کے منتظر تھے۔ نیز ماسبق میں یہ بھی گذر چکا ہے کہ جب یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے ان سے دریافت کیا کیا السلام سوم یہ کہ حضرت مسیح خود تو کبھی کسی پر نہ گرجے اور یہود جب ان پر گرجے تو لفظ نصاریٰ حضرت مسیح چور چور ہوئے۔ واللہ اعلم۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے کسمان پر چلے جانے کے بعد کوئی سچائی نہیں آئے گا۔

بشارت بست وکیم

الانجیل یوحنا باب چہار دہم آیت ۱۵

۱۵ السلام تجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو گے ۱۶۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دو سیر امدد کا رنجشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہا ہے۔ ۲۶ وہ تسلی دینے والا جو روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب سے سس سکمائے گا۔۔۔ اتس جو کچھ کہیں نے تمہیں کسی میں تمہیں یاد دلائے گا۔۔۔

۲۹- اور اب میں تمہیں اس کے ذوق ہونے سے پیشتر کہتا کہ جب وہ وقوع میں آئے تو تم ایمان لاؤ۔ ۳۰- بعد اس کہیں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لئے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔

اور باب ۱۵- آیت ۲۷ میں ہے -

جب وہ مددگار آتے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کی روح تو وہ میری گواہی دے گا۔ انتہی -

اور باب ۱۶- آیت ۷ میں ہے -

(۷) میں تم سے سچ کہتا ہوں تمہارے لئے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا (۸) اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت سے قصور وار ٹھہرائے گا۔

(۹) گناہ کے بارہ میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔

(۱۰) راست بازی کے بارہ میں اس لئے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھرتا دیکھو گے۔

(۱۱) عدالت کے بارہ میں اس لئے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔

(۱۲) میری اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں اب کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔

(۱۳) لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

(۱۴) وہ میری زندگی اور جلال کو ظاہر کرے گا۔ انتہی -

اور انجیل متی بابت آیت ۱۱ میں ہے - میں تو یہ کہنے کے لئے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن جو

میرے بعد آتا ہے - مجھ سے زوراً اور بہت کرے گا اس کے جوئے اٹھانیکے لائق نہیں۔ انتہی -

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ جو آپ نے رفع الی السماء سے پہلے صحابہ میں
کی تسلی کے لئے فرمایا کہ تم یہود بنے یہود کی سازشوں اور قتل کے تدبیروں سے ہرگز نہ گھبرائو
اور میری تکلیف سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو میں عنقریب اس دنیا سے نکل کر ایسی جگہ پر چلا
جاؤں گا کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوگی یعنی آسمان پر چلا جاؤں گا۔ خدا کے یہاں بہت
مکان ہیں اور قیامت کے قریب پھر آسمان سے نازل ہوگا اور بعد ازاں ایک آنے والی فارقلیط
کی بشارت دی کہ ایک دن آئے گا کہ میرے علاوہ ایک دوسرا فارقلیط (رسول) ظاہر ہوگا اور
وہ اگر میری بزرگی بیان کرے گا اور میرے زمانے والوں یعنی یہود بنے یہود کو خوب سزا
دے گا اور وہ دین و دنیا کا سردار ہوگا اور وہ اس قدر بلند مرتبہ ہوگا کہ مجھ میں اس کی کوئی
بات نہیں حق صل شانہ نے قرآن کریم میں اس بشارت کا ذکر فرمایا ہے کما قال تعالیٰ۔

كَذٰلِكَ قَالَ عِيسٰى بَنُ مَرْيَمَ يٰكِبْرِيَّا اِنْتِ اِنْتِ
اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيَّ مِنْ الْكُتُبِ وَ اُبَشِّرُكُمْ بِرُسُوْلٍ
يٰقِيْلُ مِنْ بَعْدِي اِسْمٰهُ اَحْمَدُ ۔

رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔

اصل بشارت میں لفظ احمد موجود تھا اور جیسا کہ انجیل برنابا میں اب بھی موجود ہے
لیکن جب انجیل کا عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو یونانیوں نے اپنی عادت کی
بنا پر کہ وہ ترجمہ کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کر دیا کرتے تھے اُن حضرت کے نام مبارک (احمد)
کا ترجمہ بھی پیر کلوٹوس سے کر دیا اور پھر جب یونانی نسخہ کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا تو
پیر کلوٹوس کا معرب فارقلیط کر لیا گیا ایک عرصہ تک اردو اور فارسی اور عربی نسخوں میں
فارقلیط کا لفظ رہا اس کے بعد اس کا ترجمہ روح القدس سے کیا گیا اور مسیحین روح القدس
کے لفظ کو بطور تفسیر خطوط و حدانی میں لکھتے رہے رفتہ رفتہ فارقلیط کے لفظ کو بالکل محذوف

کر دیا پھر کسی نے فارقلیط کی جگہ روح القدس کا لفظ اور کسی نے روح حق کا لفظ اور کسی نے مددگار اور تسلی دینے والے کا لفظ رکھ دیا اور فارقلیط کے لفظ کو انجیل کے نسخوں سے بالکل حذف کر دیا۔

لفظ فارقلیط کی تحقیق

لفظ فارقلیط اصل میں یونانی زبان سے معرب کیا گیا ہے اور یہ لفظ یونانی زبان میں کسی معنی میں مشترک ہے اور وہ سب معنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق آتے ہیں علماء و لغویوں نے فارقلیط کے مختلف معنی بیان کئے ہیں۔

۱۔ کسی نے کہا کہ فارقلیط کے معنی تسلی دینے والے کے ہیں جس کا عربی ترجمہ معزتی ہے۔
۲۔ کسی نے کہا کہ اس کے معنی معین اور مددگار کے ہیں۔

۳۔ کسی نے کہا کہ اس کے معنی شافع یعنی شفاعت کرنے والے کے ہیں۔

۴۔ کسی نے کہا کہ اس کے معنی وکیل یعنی وکالت کرنے والے کے ہیں۔

۵۔ کسی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سراہنے والا۔ جس کا فارسی ترجمہ ستائشہ اور عربی ترجمہ حماد اور احمد صیغہ اسم تفضیل یعنی فاعل ہے۔

۶۔ اور کسی نے کہا کہ اس کے معنی بڑا سراہا گیا یعنی بڑا ستودہ کے ہیں جس کا عربی ترجمہ حمد ہے اور احمد اسم تفضیل یعنی مفعول ہے۔ کیونکہ لفظ احمد صیغہ اسم تفضیل کا ہے جو کبھی بمعنی فاعل آتا ہے اور کبھی بمعنی مفعول پس اگر احمد اسم تفضیل بمعنی فاعل ہو تو اس کا ترجمہ ہو گا بڑی حمد و ثناء کرنا یعنی خدا تعالیٰ کا بڑا سراہنے والا اور اگر احمد اسم تفضیل بمعنی مفعول ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہو گا بڑا ستودہ یعنی جو خدا اور بندوں میں بڑا ہی ستودہ ہے۔

۷۔ اور بعضوں نے فارقلیط کا ترجمہ امید گاہ عوام سے کیا ہے۔

۸۔ اور بعض نسخوں میں رسول کا لفظ ہے۔

۹۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی روح حق کے ہیں۔

۱۰۔ اور کسی نے کہا کہ اس کے معنی ثقہ اور معتبر کے ہیں۔

میں اگر قلیط کی اصل یونانی زبان میں پڑا کی موسیٰ قزوری نے قرآن کے معنی میں اور مددگار اور دیکھ کے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اصل پیر پلوٹوس ہے تو اس کے معنی محمد یا احمد یا صمد کے قریب قریب ہیں۔ انجیل کے نام قدیم نستوں میں عربی اور فارسی اور اردو تمام نسخوں میں قلیط کا لفظ موجود تھا مگر اب موجودہ نستوں میں لفظ قلیط کے بجائے زیادہ تر مددگار اور روح حق کا لفظ پایا جاتا ہے مگر باوجود ان تحریفات اور تغیرات و تبدلات کے پھر بھی اصل حاصل ہے اس لئے کہ اس بشارت میں قلیط کے جادو صاف ذکر کئے گئے ہیں وہ تمام کے تمام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علی وجہ الکمال والتمام صادق اور منطبق ہیں اور قلیط کے جو معنی بھی لئے جائیں وہ سب آپ پر صادق ہیں آپ خدا تعالیٰ کے کلیل اور سفیر بھی ہیں اور روح حق اور روح صمد اور روح راستی بھی ہیں معنی روح نصیحت نہیں جو جھوٹ بولے اور راست کے شافع بھی ہیں اور بشیر و نذیر بھی ہیں اور خدا کے ستودہ اور پسندیدہ بندہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ خدا کی حمد و ثناء کرنے والے بھی ہیں بلکہ یہ تمام آپ کے اسماء ہیں یعنی آپ کے نام ہیں کوئی ان میں سے اسم صفت ہے جیسے وکیل اور شافع اور معین و مددگار اور روح الحق اور کوئی اسم علم ہے جیسے احمد اور محمد اور محمود اور حماد اور آپ کے ناموں میں ایک نام آپ کا حمد بھی ہے حمد اگرچہ مصدر ہے معنی ستودن مگر بالفتح آپ پر اطلاق کر دیا گیا گویا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی قسم حمد و ثنا ہیں۔

قلیط کا سب سے زیادہ صحیح ترجمہ لفظ احمد ہے اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس بشارت کا ذکر لفظ احمد آیا ہے کما قال تعالیٰ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي فِيهِ بَقِيَّةُ الْإِسْمَاءِ أَحْمَدًا۔

یہ آیت قرآن مجید کی ہے اور قرآن مجید میں نازل ہوا اس وقت اس تک میں بے شمار علماء یہود اور علماء نصاریٰ موجود تھے اگر یہ بشارت اور یہ غیر غلط ہوتی تو ہزار ہا علماء یہود و نصاریٰ اس غلطی کو قاش کیتے اور ہر بلا اس خبر کی تردید کرتے اور جو علماء یہود اور نصاریٰ اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ اس غلط بیانی کو دیکھ کر فوراً اسلام سے برگشتہ ہو جاتے اور بغیر شور و غل مچلتے خاموش نہ بیٹھتے آں حضرت نبی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشین گوئی کو علی الاعلان ظاہر فرمانا اور بیان کرنا اور علماء نصاریٰ کا خاموش رہنا یہ ان کے اعتراف اور تسلیم کی روشن دلیل ہے اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر یہ بات سچی تھی تو اس وقت کے تمام علماء یہود و نصاریٰ کیوں مسلمان نہ ہو گئے۔

جواب

یہ کہ علماء نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئی نورث میں موجود ہیں مگر باوجود ان پیشین گوئیوں کے اور باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مشاہدہ کر لینے کے پھر بھی علماء یہود حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے دشمن ہو گئے اور بوجہ سنگدلی اور بوجہ دنیاوی اغراض یا بوجہ حسد کے حضرت مسیح کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ صاف طور پر علماء یہود یہ کہتے ہیں کہ تو ریت میں حضرت مسیح کی کوئی بشارت نہیں اور نہ ان کا کوئی ذکر ہے اسی طرح بہت سے علماء نصاریٰ نے بوجہ سنگدلی اور بوجہ دنیاوی اغراض آپ کا پیرو ہونا قبول نہ کیا۔ حالانکہ ان کو یقین تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی مسیح بن مریم نے بشارت دی ہے جیسے ہر نکل اور مقوقس نے صاف طور پر اس کا اقرار کیا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی انجیل میں بشارت دی گئی مگر اپنی سلطنت کی خاطر اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور علماء نصاریٰ میں جو منصف اور حق پرست تھے جیسے نجاشی شاہ حبشہ اور ضحاک زومی اور بنی النازر اور غیر ہم یہ لوگ ایمان لائے اور

بہت سے علماء نصاریٰ نے دیدہ و دانستہ علماء یہود کی طرح صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت و انجیل میں کوئی بشارت نہیں۔ علماء نصاریٰ کی یہ تکذیب اسی ہے جیسا کہ علماء یہود اور دیگر یہود حضرت مسیح کی بشارتوں کے منکر اور کذب ہیں علماء نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ اس بشارت میں فارقلیط کی آمد سے روح القدس کا حواریوں پر نازل ہونا مراد ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد جب حواریوں میں ایک مکان میں جمع تھے تو وہ روح ان پر نازل ہوئی اور اس روح کے نزول سے حواریوں میں تھوڑی دیر کے لئے مختلف زبانیں بولنے لگی۔

نصاری کا یہ خیال۔ سراسر خیال خام ہے یہ بشارت کسی مقدس اور برگزیدہ انسان کے حق میں ہے جو خدا کی طرف سے الام پائے گا اور خدا کی طرف سے اس کو جو انقاء ہو گا وہی کہے گا اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا اس بشارت کو روح القدس یعنی ہیر ایل امین کے نزول سے کوئی واسطہ نہیں اور کسی فرشتہ سے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں۔ فارقلیط کی آمد سے ایک رسول عظیم کی بعثت مراد ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔
حضرت مولانا عبدالحق صاحب حقانی صاحب تفسیر خفائی عقائد الاسلام ص ۶۵ میں لکھتے ہیں۔

ایک پارسی صاحب ایک رسالہ میں جو لفظ فارقلیط کی تحقیق میں انہوں نے لکھا ہے اور ۱۲۶۵ء میں کلکتہ میں چھپا ہوتا لکھتے ہیں کہ یہ لفظ فارقلیط یونانی زبان سے معرب کیا گیا ہے پس اگر اس کی یونانی میں پاراکلی طوس اصل قرار دی جائے تو اس کے معنی معین اور وکیل کے ہیں اور اگر کہیں اصل پیر کلوطوس ہے تو اس کے معنی محمد یا احمد کے قریب ہیں پس جس عالم اہل اسلام نے اس بشارت سے استدلال کیا تو وہ اصل پیر کلوطوس سمجھا کیونکہ اس کے معنی محمد یا احمد کے قریب ہیں پس اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد یا احمد کی خبر دی لیکن اصل پاراکلی طوس ہے فقط

ہم کہتے ہیں کہ اصل پیر کلوطوس ہے یونانی خط میں بہت تشابہ ہے اس کو پارا کلی
طوس غلطی سے پڑھ لیا۔ انتہی کلام۔

اور دیکھو اظہار الحق ص ۱۵۵ ج ۲ مصنفہ فاضل محقق مولانا محمد رحمہ اللہ کیرانوی قدس

اللہ سرہ یہ مضمون اظہار الحق ہی کی عبارت کا ترجمہ ہے جو عربی میں ہے۔

اور یونانی زبان میں پیر کلوطوس ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ سینٹ جروم نے جب
انجیل کا ترجمہ لاطینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو پیر کلوطوس لکھ دیا اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ جس کتاب سے نقل کیا تھا پیر کلوطوس تھا۔ تفسیر حقانی ص ۱۰۹ تفسیر سورۃ الصف۔

اور اگر ہم اس تحقیق سے قطع نظر بھی کر لیں تو تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ اس
بشارت میں اس آئے والے فارقیط کے بہت سے اوصاف بیان کئے ہیں جو یہ تمام وکمال
سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق اور سنطبق ہیں۔

اول۔ یہ کہ جب تک میں نہ جاؤں گا وہ نہ آئے گا۔

دوم۔ یہ کہ وہ میری گواہی دے گا۔

سوم۔ یہ کہ وہ گناہ اور راستی اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا۔

چہارم۔ یہ کہ مجھ پر نہ ایمان لانے والوں کو سزا دے گا۔

پنجم۔ وہ سچائی کی راہ بتلا دے گا۔

ششم۔ یہ کہ وہ آئندہ کی خیریں دے گا۔

ہفتم۔ یہ کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو اللہ سے سنے گا وہی کہے گا۔

ہشتم۔ یہ کہ وہ جہان کا سردار ہو گا۔

نہم۔ یہ کہ وہ میری تمام باتیں تم کو یاد دلانے گا۔

دہم۔ یہ کہ جو امور تم اس وقت برداست نہیں کر سکتے وہ نبی اس وقت آ کر تم کو بتلائے
گا اور جو باتیں غیر مکمل ہیں ان کی تکمیل کرے گا اور یہ تمام باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

پر صادق آئی ہیں۔

۱) آپ کا تشریح لانا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانے پر اس لئے موقوف تھا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لئے کہ کسی نبی کا آنا پہلے نبی کے جانے پر جب ہی موقوف ہو سکتا ہے جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہو ورنہ اگر وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو اس کے آنے سے پہلے نبی کا جانا شرط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لئے کہ جب وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو پہلے نبی کی موجودگی میں ہی وہ مبعوث ہو سکتا ہے۔

پہلے نبی کا جانا دوسرے کے آنے کیلئے واجب ہی شرط ہو سکتا ہے کہ جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہو۔ الحاصل حضرت مسیح نے اس جملہ سے یہ ظاہر فرمادیا کہ وہ فارغلیط اور روح حق خاتم الانبیاء ہوگا۔ کما قال تعالیٰ۔

فَلَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا آتَا أَحَدًا مِّن رِّجَالِكُمْ
ذٰلِكُمْ يَسْئَلُ اللّٰهُ وَتَحَاثَمَ النَّبِيّٰتِ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور کثیر انبیاء ہیں۔

اور حضرت مسیح خاتم النبیین تھے ورنہ علماء نصاریٰ و یہود حضرت مسیح کے بعد ایک نبی کے کس لئے منتظر تھے اور روح کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے پر موقوف نہ تھا روح کا نزول تو حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ہی ہوتا تھا۔

۲) اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی بھی دی۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شَكَّوْا
لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اَشْكَلُوْا فِيْهِ لَيَعْرِفُوْنَ
شَكْلَ بَنِي مَرْيَمَ الَّذِيْنَ كَانَ يُرْسَلُ
اِلٰى اَتْبَاعِ الْبَنِيّٰنِ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا
بَلْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ الْيَوْمَ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
ذٰلِكُمْ
اور انہوں نے نہ ان کو (عیسیٰ علیہ السلام کو) قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن اشکباہ میں ڈال دینے کے اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں خود ان کو اس کا یقین نہیں محض گمان کی پیروی ہے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا

بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ وہی غالب اور حکیم ہے۔

(۳) اور راستی اور عدالت سے ملزم بھی کیا۔

(۴) اور حضرت مسیح کے نہ ماننے والوں کو پوری پوری سزا بھی دی کسی سے قتال اور جہاد کیا اور کسی کو جلا وطن کیا جیسا کہ یہود خیبر اور یہود بنو نضیر اور یہود بنو قنیقاع کے واقعات سے ظاہر ہے اور روح نے نہ کسی کو ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی کی سرزنش کی اور سرزنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارقلیط ظاہر ہونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کو توڑیخ اور سرزنش کرے گا اور ظاہر ہے کہ روح القدس کا ظاہر ہونے پر عام لوگوں پر حکومت کرنا کہیں ثابت نہیں اور نہ حواریین کا یہ منصب تھا۔ حواریین نے حکومت کے طور پر کسی کی توڑیخ نہیں کی بلکہ واعظانہ طور پر لوگوں کو سمجھاتے تھے جس میں حکومت کا زور نہ تھا غرض یہ کہ کسی طرح بھی روح القدس کو فارقلیط کا مصداق نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اور آیت دہم میں سرزنش کی یہ وجہ بیان فرمانا اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس فارقلیط اور مددگار اور وکیل و شفیع کا ظہور منکر بن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو گا۔ بخلاف روح کے کہ اس کا ظہور تو آپ کے نزدیک حواریین پر ہوا کہ جو منکر بن عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اور نہ حواریین نے کسی کو سزا دی وہ خود ہی مسکین اور عاجز تھے کسی منکر کو کیسے سزا دے سکتے تھے۔

(۵) اور آنحضرت نے صدق اور راستی کی وہ راہیں بتائیں کہ جو نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی آپ کی شریعت غراء اور ملتہ میضاء اس کی شاہد ہے۔

(۶) اور آئندہ واقعات کے متعلق آپ نے اتنی خبریں دیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں اور ایسی صحیح خبریں دیں کہ جو ہو ہون ظاہر ہوئیں اور ان کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ نکلا اور تاقیامت اسی طرح ظاہر ہوتی رہے گی۔

(۷) اس لئے کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا لکن قال تعالیٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَجْهُ يُرْسِي (۸) اور یا میں ہمہ جہان کے سردار اور بادشاہ بھی ہوئے اور جہاں اور دنیا کی سرداری سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لئے ہوگی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی۔

(۹) اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعینات کو محروم کر دیا تھا ان کو بھی یاد دلایا جن میں توحید و تثنیث کا سکہ بھی ہے اس کو خوب یاد دلایا۔ اور حضرت مسیح کے قتل و صلیب کی نفی اور رفع الی السماء کا اثبات فرمایا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
اللَّهِ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اعْبُدُوا اللَّهَ سَرِيعًا وَتَرْتَابِكُمْ إِن مِّنْ
شُرَيْكٍ بِاللَّهِ فَقَدْ خَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْبَحَّةَ وَمَا دَاكُ الْبَحَّةُ وَالظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارِهِ -

آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب ایک ایسے
امر کی طرف آؤ کہ جو ہم میں اور تم میں مسلم ہے
وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ان
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ایک دوسرے
کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں اور فرمایا حضرت
عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائیل تنگ کر دو صرف ایک اللہ کی
جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے تحقیق جو اللہ کی عبادت نہ کرے
کہہ سے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے
اور سکاٹھکانا جہنم بنا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

(۱۰) آپ نے بعورت ہونے کے بعد وہ باتیں بھی بتلائیں کہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے محل سے باہر تھیں یعنی ذات و صفات، شریعت و طہریت، حشر و نشر، جنت و جہنم کے متعلق وہ علوم و معارف کے دریا بہاتے کہ جن سے تمام عالم رنگ ہے اور کسی کتاب میں ان علوم کا نام و نشان نہیں اور جو امور غیر تکمیل شدہ تھے آپ کی شریعت کا ملنے ان سب تکمیل بھی کر دی۔ کما قال تعالیٰ

اللَّهِمَّ اكْتُبْ لِكُلِّ دِينٍ كَمَلًا وَ

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا

أَحْمَدُ مَتَّعَنِيكَ بِدِينِي وَتَرَضِيَّتِي ادر تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لئے
تَكُنُّمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام کو پسند کیا دین بنا کر۔

ادریاست تک کے لئے دنیا کو ایک ایسا کامل اور مکمل دستور (یعنی شریعت) دے گئے
جو ان کے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح کا کفیل ہے اور اس کے حقائق اور دقائق اور
اسرار و حکم کو دیکھ کر دنیا حیران ہے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا حکم شریعت محمدیہ
سے معلوم ہو سکتا ہے علماء یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں جس کو سامنے رکھ کر علماء
امت اور فقہاء ملت کی طرح فتویٰ دے سکیں اس وقت کے نصاریٰ کے پاس شریعت کا
کوئی علم نہیں کہ جس کی رو سے وہ فتویٰ دے سکیں ہاں نصاریٰ کے پاس صنعت و حرفت
اور کاریگری کے علوم و فنون ہیں حکمرانی اور جہان بینی اور عدل عمرانی کے متعلق ان کے پاس
کوئی آسمان قانون نہیں کہ جس کے رو سے وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت
کر سکیں مغربی اقوام کے پاس جو دستور ہے وہ چند اہل فکر کے افکار اور خیالات کا نتیجہ
ہے شریعت اسلامیہ کی طرح آسمان سے نازل شدہ کوئی قانون ان کے پاس نہیں۔

علماء مسیحین اس بشارت کو روح القدس کے حق میں قرار دیتے ہیں جس کا نزول
حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رجب السماء کے ۲۷ یوم بعد حواریین پر ہوا۔ لیکن یہ
قول چند وجوہ سے باطل ہے۔

(۱) اس لئے کہ روح کا نازل ہونا حضرت مسیح کے جانے پر موقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہر
وقت حضرت مسیح کے ساتھ رہتی تھی۔

(۲) اور نہ روح نے کسی کو راستی اور عدالت سے ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی یہودی کو حضرت
مسیح پر نہ ایمان لانے کی وجہ سے کسی سزا دی البتہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین
اور کافرین سے جہاد بھی کیا اور یہودیوں کو کافی سزا بھی دی۔ اور ان کو ملزم ٹھہرایا اس لئے
کہ اہل دنیا کو الزام دینا اور ان کی سرزنش کرنا بغیر حکومت کے ممکن نہیں معلوم ہوا کہ آئندے

والا فارقلیط اور دوسرا مددگار دنیا کا حاکم اور بادشاہ ہوگا جو مجرموں کی سرزنش کرے گا اور چودھویں باب کے درس ۳۰ میں جو دنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے یہی دنیا کا حاکم مراد ہے کہ جس کی حکومت اور تویح اور سرزنش کا ذکر ہو چکا ہے۔

(۳) نیز حضرت مسیح عر کا اس پر ایمان لانے کی تاکید فرماتا، بالکل بے محل ہے اس لئے کہ حواریین پیشتر ہی سے روح القدس پر ایمان رکھتے تھے اس کے فرمانے کی کیا حاجت تھی کہ درجیب وہ آتے تب تم ایمان لاؤ؟ حضرت مسیح ع کا اس قدر اہتمام فرمانا اور اس پر ایمان لانے کی وصیت کرنا خود اس کو بتلا رہا ہے کہ وہ آتے والی ستے کچھ ایسی ہوگی جس کا انکار تم سے بعید نہ ہوگا۔

پس اگر فارقلیط سے روح مراد ہوتی تو اس کے لئے چنداں اہتمام اور تاکید کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ جس کے قلب پر روح کا نزول ہوگا اس سے روح کا انکار ہونا بالکل ناممکن ہے۔

روح القدس کا نزول بالبداہت مفید یقین ہے جس طرح روح القدس کے نزول سے بالبداہت پیغمبر کو اپنی نبوت کا یقین آجاتا ہے۔ پیش آنے والی چیز سے انسان کو ایسا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ قوت خیالیہ بھی اس کو دفع نہیں کر سکتی انسان پر جب کوئی کلمات ظاہری آتی ہے تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔

(۴) نیز اس بشارت کا سیاق اس بات کو بتلا رہا ہے کہ وہ آنے والا فارقلیط حضرت عیسیٰ سے مغایر ہے جیسا کہ سولہویں آیت کا یہ لفظ دوسرا مددگار بچھے گا۔ صاف مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علیحدہ صورت میں ظاہر اور نمودار ہوگا۔

پس اگر فارقلیط سے روح القدس مراد لی جاسے تو وہ حضرت عیسیٰ ع کے کسی طرح مدعا نہیں کیونکہ نصاریٰ کے نزدیک ابن اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے۔ اور روح القدس جو حواریین پر ظاہر ہوئی وہ کسی علیحدہ صورت میں ظاہر نہیں ہوئی جس طرح کسی شخص پر

جن پر مسلط ہو جاتا ہے سو جن کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو اس شخص کے من سے نکلتی ہیں علیحدہ صورتوں میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔

(۵) نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں کہا، یا دلاستے گا، یا نہ لے گا، کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات فراموش کر چکے تھے روح القدس نے ان کو علیحدہ صورت میں تباہ ہو کر یاد دلاستے ہیں۔

(۶) نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ "وہ میرے لئے گواہی دے گا، سو یہ وصفت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ آپ ہی نے آکر مشرکین اور یوں کے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کی گواہی دی اور ان لوگوں کے سامنے کہ جو حضرت مسیح سے منکر یا بے خبر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کیا۔

بخلاف روح القدس کے وہ حضرت عیسیٰ ص کے حواریوں پر نازل ہوئی اور حواریوں پہلے ہی سے حضرت مسیح علیہ السلام کو رسول جانتے تھے۔ ان کے سامنے گواہی دینے کی کوئی حاجت نہ تھی۔

گواہی کی ضرورت تو منکرین کے سامنے تھی نہ کہ مؤمنین کے سامنے بخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے یہود کے سامنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر اور دشمن تھے علی الاعلان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دی۔ اور ان کے دعوائے قتل و صلیب کی تردید کی اور رفع الی السماء کو ثابت کیا۔

(۷) نیز حضرت مسیح ص اس فارقلیط کی نسبت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ "مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں، سو یہ جملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آسکتا ہے کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ روح القدس اور مسیح تو ایک ہی چیز ہیں۔

(۸) نیز یہ بھی قابل غور ہے کہ اس روح نے کون سی آئندہ کی خبریں بتلائیں کہ جس سے اس

روح کو اس بشارت کا مصداق کہا جلتے۔

(۹) نیز اس بشارت کا تمام سیاق و سباق دلالت کرتا ہے کہ آنے والا دوسرا فارقلیط اور دوسرا مددگار لباس بشری اور پیکر انسانی میں ظہور کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس بشری میں دعوت حق اور لوگوں کی تسلی کے لئے آوے گا پس فارقلیط کا مصداق اس روح کو سمجھنا کہ جو آدمیوں پر جن کی طرح نازل ہوا اور ان میں حمل کرے بالکل غلط ہے (۱۰) نیز حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد سے عامۃ نصاریٰ فارقلیط کے منتظر رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی عظیم الشان نبی بسوٹ ہوگا۔ چنانچہ منتس عیسائی نے دوسری صدی عیسوی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی فارقلیط ہوں کہ جس کی حضرت مسیح نے خبر دی ہے۔ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے تھے جس کا مفصل تذکرہ ولیم میورسچی نے اپنی تاریخ کے تیسرے باب میں لکھا ہے۔ اور یہ کتاب ۱۸۴۵ء میں طبع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ علماء یہود اور نصاریٰ یہی سمجھتے تھے کہ فارقلیط سے کوئی انسان مراد ہے نہ کہ روح القدس اور لب التورہ کا مصنف جو کہ ایک مسیحی عالم ہے لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل یہود و نصاریٰ ایک نبی کے منتظر تھے۔ اور اسی وجہ سے شاہ حبشہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا حال سن کر ایمان لایا اور کہا کہ بلا شک یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی حضرت مسیح نے انجیل میں خبر دی ہے حالانکہ نجاشی انجیل کا عالم ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھا۔ کسی قسم کا اس کو خوف و خطر بھی نہ تھا۔

اور مقوقس شاہ قبط نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کے جواب میں یہ لکھا

سلام علیک اما بعد فقد خدات	سلام ہو آپ پر اما بعد میں نے آپ کے والا
کتابلک و عرفمت ما ذکرت فیہ	نامہ کو پڑھا۔ اور جو کچھ آپ نے اس میں ذکر
وما تدعوا الیہ وقد علمت ان نبیاً	فرمایا ہے اور جس کی طرف دعوت دی ہے اس
قد بقی وقد کنت اظن ان سینجرہ	کو سمجھا۔ مجھ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ

بالشام وقد اكرمت رسولك . اب صرف ایک نبی باقی رہ گیا ہے میرا لگان
یہ تھا کہ وہ نبی شام میں ظاہر ہو گا۔ اور میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا۔

مفقوس اگرچہ اسلام نہ لیا مگر اتنا اقرار ضرور کیا کہ ایک نبی کا آنا باقی رہ گیا ہے۔

اور جبارودین غلامیہ: اپنی قوم میں بہت بڑے عالم تھے جب اپنی قوم کے ساتھ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے تو یہ کہا۔

والله لقد حدثت بالحق و لطفتم خدا کی قسم آپ سچے لے کر آئے ہیں، اور آپ

بأنصديق فقد وجدت و صدف و الانجيل نے سچ فرمایا البتہ تحقیق میں آپ کی صفت انجیل

و بشیرویلث ابن البتونا فظنوا انما تحویرنا میں پائی ہے اور مسیح بن مریم نے آپ کو

لك و الف شكر لمن اكرمت لا انو بشارت دی ہے۔ آپ کے لئے طویل وعزیز

بعد عین و لا شك بعد یقین تجویز تکمیل پیش کرتا ہوں۔ اور شک ہے اس کے

مدیدك انمهد ان لا اله الا الله و لئے جو آپ کا اکرام کرے ذات کے بعد نشان

انك محمد رسول الله . کی اور یقین کے بعد شک کی ضرورت نہیں۔ ہاں

رست مبارک برپائیے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً آپ محمد

رسول اللہ ہیں۔

اور علی ہذا ہر قل شاہ روم اور دوسرے ذی شوکت علماء توراہ و انجیل نے آپ کی

نبوت و رسالت کا اقرار کیا پس ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ

کا نام انجیل میں لکھا ہوا تھا جس کو دیکھ کر لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی آمد سے پہلے

وہ آپ کے منتظر تھے جن کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور کسی ذنبوی طبع نے ان کو نہ گھیرا

وہ اس دولت سے مستمع ہوئے

اس سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشہ خدا تے بخشندہ !

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ هَذَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ -

(۱۱) اور سولہویں آیت کا یہ جملہ در کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا اس کا مطلب
ہیں کہ وہ فارقلیط خود بذاتہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس لئے کہ فارقلیط بمعنی
روح جس کے نصاریٰ قائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ نہ رہا۔
بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی شریعت اور دین ابد تک رہے گا اور اس کے بعد کوئی دین
نہ آئے گا جو اس کے لئے ناسخ ہو۔

(۱۲) اور باب چہارم کی سترھویں آیت کا یہ جملہ یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل
نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ آہ۔
اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا اس کے مرتبہ کو نہیں جانتی۔ وہ تمام کائنات میں سب
سے بہتر اور برتر ہوگا۔

نصاریٰ کے چند شبہات اور ان کا ازالہ

شبہ اول روح الحق اور روح القدس سے اقنوم ثالث مراد ہے۔ لہذا روح القدس
اور روح الحق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔
جواب ہر عہد قدیم اور عہد جدید میں روح کا لفظ اقنوم ثالث کے ساتھ مخصوص نہیں
بلکہ صالح اور طالع، بادی اور مفضل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

چنانچہ یوحنا کے پہلے خط کے باب چہارم میں ہے:-

(۱) اے عزیزو! ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روح کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے
ہیں یا نہیں۔

(۲) خدا کی روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم

ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔

(۳) اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔

اور آیت ششم میں ہے ”اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔“

اس مقام پر روح سے واعظ صادق اور واعظ مضل مراد ہے۔ اقنوم ثالت کسی کے نزدیک مراد نہیں۔

شہرت ثانیہ | اس بشارت میں خطاب حواریین کو ہے لہذا روح کا نزول و ظہور حواریین کی موجودگی اور حیات میں ہونا چاہیے۔ اور آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کا ظہور حواریین کے صد با سال کے بعد ہوا۔

جواب۔ حواریین کو خطاب اس لئے کیا گیا کہ اس وقت وہی حاضر تھے باقی وہ مقصود بالخطاب نہیں چنانچہ انجیل متی کے باب ۲۴ آیت ۲۴ میں ہے:-

”میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔“

اب ان مخاطبین کو مرے ہوتے ۱۹ سو سال ہو گئے اور مخاطبین میں سے کسی نے بھی

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان سے آتے نہیں دیکھا۔

پس جس طرح اس مقام پر مقصود بالخطاب وہ لوگ ہیں کہ جو نزول من السماء کے وقت موجود ہوں گے۔

اسی طرح اس بشارت میں وہ لوگ مقصود بالخطاب ہیں کہ جو روح حق اور فارقلیط کے ظہور کے وقت موجود ہوں گے۔

شہرت ثالثہ | انجیل یوحنا کے باب چہارم آیت تیسویں میں جو سردار کا لفظ آیا ہے اس پر بعض شدید التعصب انصار نے مضحکہ کرتے

ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سردار سے اس جگہ شیطان مراد ہے۔

جواب۔ سردار سے شیطان مراد لینا مراد جہالت ہے اور محض تعصب اور حسد پر

بتی ہے اس لئے کہ سردار عالم بول کر شیطان مراد لینا نہ کسی لغت سے ثابت ہے اور نہ کسی عرت سے اور سردار سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ ازراکل تا آخر روح حق یعنی فارقلیط کا اور اس کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ جس وقت اس فارقلیط کا ظہور ہوا اس وقت اس پر ایمان لانے کی تاکید اکید ہے۔ اور پھر اس کی علت باری الفاظ ذکر فرماتا ہے۔

”کیوں کہ دنیا کا سردار آتا ہے“

یہ جب ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ سردار جہان سے سید العالمین اور سردار انبیاء و المرسلین مراد ہوں۔ ورنہ معاذ اللہ اگر اس مقام پر سردار سے شیطان مراد ہو تو شیطان کا کیا امور متذکرہ بالذکر کی علت کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کے سردار سے وہی فارقلیط اور روح حق مراد ہے کہ جس کے ہاتھوں سے گناہ اور جرم پر دنیا میں شاہانہ اور حاکمانہ سزائیں دی جائیں گی۔ اور انجیل یوحنا کے سولہویں باب ورس ۱۱ میں جو یہ آیا ہے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا یہ قطعاً غلط ہے اور بلاشبہ تخریف ہے جو سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے ایک طرف تو فارقلیط کی صفات قاضیہ کا بیان ہوا اور ایک طرف اس سے شیطان مراد ہو یہ کیسے ممکن ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ علماء نصاریٰ کے نزدیک کبھی اس سے روح القدس مراد ہو کیا یہ صریح نادانی اور وسوسہ شیطان نہیں دوم یہ کہ حضرت مسیح کا یہ فرمانا کہ وہ سردار جہان آنے والا ہے اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ شخص زبھی تک دنیا میں نہیں آیا اور شیطان باتفاق یہود و نصاریٰ دہل اسقام ابتداء آفرینش افراد بشری سے دنیا میں موجود ہے اور لوگوں ہی مختلف ہے شیطان مردود لوگوں کے ساتھ ہے۔

وہ شیطان کہاں چلا گیا تھا کہ جن کی نسبت یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب آتا ہے۔ کیا وہ

پہلے سے موجود نہ تھا؟

سوم یہ کہ سردار کا اطلاق انجیل متی کے باب دوم کی آیت ششم میں حضرت مسیح بن مریم

علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کیا گیا۔

عبارت انجیل حسب ذیل ہے۔

”اسے بیت لحم یوداہ کے علاقے تو یوداہ کے حکاموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں

کہنکدان میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری اُمت اسرائیل کی حمد بان کرے گا۔“

اس عبارت میں سردار سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں جیسا کہ آیت مہتمم

سے آیت دوازہم تک پڑھنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے بلکہ کتب سماویہ میں سردار اور حکم

کا اطلاق حق تعالیٰ پر بھی آیا ہے معلوم ہو کہ سردار سے شیطان مراد لینا بالکل غلط ہے۔

بشارت بست دوم

انجیل متی باب ۳۱۔ آیت ۳۱

”اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہت اس

رائی کے دانہ کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بویا۔ ۳۲۔ وہ سب

بجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور ایسا

درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے اگر اس کی ڈالیوں پر بسیر کرتے ہیں۔“

آسمانی بادشاہت سے شریعت اسلام مراد ہے کہ جو ابتدا میں رائی کے دانے کے برابر

تھی لیکن چند ہی روز میں اس قدر بڑھی کہ شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک پہنچ گئی

اور قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں اسی بشارت کی طرف اشارہ ہے۔

وَعَسَّكَهُمْ فِي الْاَنْجِيلِ كَذُمَرٍ مِّنْ اَسْحَرٍ بَرٍّ

مَنْطَقًا بِحَاثَمَةٍ تَاكَاكَ مَسْتَنْفِظًا فَاسْتَوَىٰ

عَلَىٰ سَوَاقِمٍ يُعْجَبُ النَّوْرَامُ لِمُعِيْبَتِهَا

يَهْتَمُّ الْكُفَّارُ

اور ان کی صفت انجیل میں ہے کہ جیسے کھیتی کہ

اس نے اپنا پھٹا زمین سے نکالا پس اس کو

قوی کیا تو وہ موتا ہو گیا اور اپنی نال پر سیاہا کھڑا

ہو گیا اور اپنی روز افزوں ترقی سے کسانوں

کو خوش کرنے لگا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی نزل اس لئے دی کہ کافروں کو اس وجہ سے غصہ میں لائے۔

اور عجیب نہیں کہ اسی مناسبت سے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی
و۔ کما قال تعالیٰ۔

اَللّٰهُ تَرَكِيْفَتْ حَتَّوْبَ اِنَّهُ مَعْلُوْمٌ
صَلِيْمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
اَصْلُهَا نَارُ اَيْتٍ وَفَرْسُهَا فِي النَّسْتِ مَاءٌ
تُوْبِي اَكْرَبًا كُلُّ حَيٍّ يَبَادِنُ تَرَبُّهَا وَ
تَعْتَرِبُ اِنَّهُ اَوْ مَثَلِ يَلْتَمِسُ تَعْلُفُهُ
يَقْتَدِ كَرُوْنُ۔

اسے نبی کریم آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ اللہ نے
ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کلمہ طیبہ مثل ایک
پاکیزہ درخت کے ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور
شاخیں آسمان میں ہیں۔ ہر وقت اپنے میوے
اللہ کے حکم سے دربار جنت ہے حق تعالیٰ شاعر
لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتے رہتے ہیں

کیا عجیب ہے کہ نصیحت قبول کریں۔

بشارت بستان و سوئم

از انجیل متی باب بستم آیت اول

آسمان کی بادشاہت اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے انگوری
باغ میں مزدور لگاتے ۲۰۔ اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں باغ
میں بھیج دیا۔ پھر دن چڑھنے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بے کار کھڑے
دیکھا اور ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ پس وہ چلے گئے
پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے
پھر نکل کر۔ اور وہ کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بے کار کھڑے
رہے۔ انہوں نے اس سے کہا اس لئے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان

سے کہا تم بھی بلغ میں چلے جاؤ۔ جب مشام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پھیلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک دینار ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پھیلوں نے ایک گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا۔ تمہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ ان سے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میں تیرے ساتھ بیسے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجد سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا جو تیرا ہے اٹھائے چلا اب۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دینا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال کو جو چاہوں سو کروں یا تو اس لئے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح آخر اڈل ہو جائیں گے اور اول آخر انتہی۔

گھر کے مالک سے رب العزت مراد ہیں اور انگور کے باغ سے دین الہی مراد ہے اور مزدوروں سے امتیں مراد ہیں۔ اور مزدوروں کی وہ جماعت کہ جس نے سب سے آخر میں ایک گھنٹہ کام کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو سب سے اخیر میں تھی اور سب سے اول ہو گئی۔

چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔

عن ابن شہاب عن سائر بن عبد اللہ
عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول انما ابقاكم
حيما اسلف قبلكم من ارضه كما
بين صلوة العصر اني غروبت الشمس
ادق اهل العمرة العسرة اذ فعلوا

ابن شہاب نے سالم سے اور سالم نے عبد اللہ
بن عمر رض سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن عمر
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد
فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا دنیا میں رہنا بقا
احم گذشتہ ایسا ہے جیسا نماز عصر سے غروب
شمس تک۔ تورات والوں کو تورات دی گئی

حتى اذا انتصت النهار مجزوا فاعطوا
 قيراطا قيراطا شدا و قى اهل الانجيل
 الانجيل فعملوا الى صلوة العصر ثم
 عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا شدا
 او تبعا للقرآن فعمدنا الى غروب
 الشمس فاعطيت قيراطين قيراطين
 فقال اهل الكتابين اى ربنا
 اعطيت هوراء قيراطين واعطيتنا
 قيراطا قيراطا ونحن اكرم عملنا
 قال الله عز وجل هل ظلمناكم من
 اجركم من شئ قالوا لا قال فهو
 فضلى او تبعا من يشاء

کام کرنا شروع کیا۔ جب دوپہر ہوئی تو تنگ
 گئے اور کام پورا نہ کر سکے۔ ایک ایک قیراط ان
 کو دیا گیا پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی۔ نماز
 عصر تک کام کیا۔ پھر تنگ گئے۔ ان کو بھی
 ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ پھر ہم کو قرآن مجید
 دیا گیا۔ ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا
 ہم کو دو دو قیراط دیئے گئے۔ تو تو ریت اور
 انجیل والوں نے یہ کہا کہ اسے پروردگار آپ
 نے ان کو دو دو قیراط دیئے اور ہم کو ایک ایک
 حالانکہ ہمارا عمل زیادہ ہے۔ اللہ عزوجل نے یہ
 ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت میں کچھ
 کمی کی ہے؟ کہا نہیں۔ پس فرمایا رب اعزت

(صحیح بخاری باب المواقیب ص ۴۹ ج ۱)

اور انجیل متی کی سولہویں آیت کا یہ بدلہ کہ اسی طرح آخر اقل ہو جائیں اور اول

آخر بعینہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق ہے :-

حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال نحن الاخرون السابقون .
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد
 فرمایا کہ نحن الاخرون السابقون .

(بخاری شریف ص ۴۲ ج ۲)

یعنی زمانہ کے لحاظ سے ہم سب سے اخیر میں ہیں۔ مگر دخول جنت میں حق تعالیٰ شانہ
 کے فضل سے سب سے مقدم ہیں۔

بشارت بست و چہارم و بست و پنجم از انجیل برنابا

نقل القسيس سيل في مقدمة
ترجمة للقرآن العظيم من انجيل
برنابا وطبعت ١٨٥٢م وانشرت
ثم طبعوا الكتاب مرة ثانية
فاخرجوها وحذوها وهي فانصها
اعلم يا برنابا ان الذنب ان كان
صغيرا يجزي الله عليه لان الله
تعالى غير راضى عن الذنب وما
اجتنبى امتى وتلاميذى لانجيل
الدنيا سخط الله لتبطل هذا الرهب
و اراد باقتضاء عدله ان يجزؤهم
في هذا العالم على هذه العقيدة
الغير اللائقة ليحصل لهم النجاة
من عذاب جهنم ولا يكون لهم
اذية هناك و انى ان كنتما برنابا
لكن بعض الناس لما قالوا فى حقى
ان الله دابن الله كره الله هذا
القول واقتضت مشيئته بان

پادری سیل نے اپنے ترجمہ قرآن عظیم کے مقدمہ
میں انجیل برنابا سے نقل کیا اور یہ انجیل ١٨٥٢ء
میں طبع ہو کر شائع ہوئی۔ لیکن دوسری طباعت
میں اس بشارت کو حذف کر دیا۔ اور وہ بشارت
کو حذف کر دیا۔ اور وہ بشارت جس کو پادری
سیل نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اے برنابا گناہ
اکرم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی
بخش دیتے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ گناہ سے
راضی نہیں میری امت اور میرے شاگردوں
نے سب دنیا کے لئے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض
ہو گئے اور باقتضاء عدل و انصاف یہ ارادہ
فرمایا کہ ان کو اسی دنیا میں اسی غیر مناسب
عقیدے کی بناء پر سزا دے تاکہ عذاب جہنم
سے نجات پائیں۔ اور وہاں ان کو کوئی تکلیف
نہ ہو۔ اور میں اگرچہ اس عقیدہ فاسد سے
بالکل بری ہوں۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں نے
مجھ کو اللہ اور ابن اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ
کہنا ناگوار ہوا اور اس کی مشیت اس کے

مقتضی ہوئی کہ قیامت کے دن شیاطین مجھ پر نہ ہنسیں اور نہ میرا مذاق اڑائیں۔ پس اللہ نے اپنی مہربانی اور رحمت سے یہ پسند کیا کہ یہود اکی وجہ یہ ہنسی دنیا ہی میں ہو۔ اور ہر شخص یہ گمان کرتا رہا ہے کہ میں سولی دے دیا گیا۔ لیکن یہ ابانت و استہزار فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آنے تک رہے گا۔ پس جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہر مومن کو اس غلطی پر تنبہ فرمائیں گے اور یہ شبہ لوگوں کے دلوں سے مرتفع ہو جائے گا۔ ترجمہ بلفظہا نحم ہوا۔

اظہار الحق میں ہے کہ اگر لوگ یہ اعتراض کریں کہ اس انجیل کو علماء نصاریٰ نے رد کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس رد کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے کہ یہ انجیل قدیم انجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری اور تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ہے۔ پس اس بنا پر کہ یہ انجیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے دو سو سال قبل کھی گئی ہے اور اس جیسے عظیم الشان امر کی ہر دن الامام کے خبر دینا اہل فہم کے نزدیک ناممکن ہے۔ دوسری

لا تصحك الشياطين يوم القيمة
 علي ولا يستهنون بي فاستحسن
 بمقتضى لطفه ورحمته ان يكون
 الضحك والاستهزاء في الدنيا
 بسبب يهوداه ويطن كل شخص
 اني صلبت لكن هذه الاهانت و
 الاستهزاء يبقيان الى ان يرجي
 محمد رسول الله فاذا جاء في
 الدنيا يذم كل مومن على هذا
 الغلط وترفع هذه الشبهة من
 قلوب الناس. انتهت ترجمته
 بحروفها قال في اظهار الحق
 فان اعتراضوا ان هذا الانجيل
 رداه مجالس علماءهم فنقول
 لا اعتبار لردهم وهذا من
 الانجيل القديمة ويوجد ذكره
 في كتب القرن الثانی والثالث
 فعلى هذا كتب قبل ظهور نبينا
 صلي الله عليه وسلم بمائتي
 سنة ولا يقدر احد ان يخبر
 بشئ هذا الزمر من غير الهام لما لا

یخفی علی ذوی الافہام قال والبشائر
 الثانیة قال الفاضل ان حیدر علی
 القریشی فی کتابہ المسوی خلاصۃ
 سیف المسلمین الذی ہو فی
 لسان الاراد وای الہندی فی
 الصحیفۃ الثالثۃ والیتن ان
 التفسیر اوسکان الامر منی ترجم
 کتاب الشہداء علیہ السلام بالنسب
 الامر منی فی ۳۶۶ الف وستوائتہ
 وست وستین وضعت ۴۳۳
 وفیہ فی الباب الثانی واربعین
 ہذا الفقرۃ ونصرہا وسبحوا اللہ
 تسبیحاً جدیداً وانشر سلطنتہ
 علی ظہرہ واسمہ احمد انتہت
 وھذہ الترجمة موجودۃ عند

بشارت) فاضل حیدر علی قرشی اپنی کتاب
 خلاصۃ سیف المسلمین جو اردو زبان میں ہے
 کہ پادری اوسکان امرنی نے صحیفۃ یسعیاہ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امرنی زبان میں ۳۶۶
 عیسوی میں ترجمہ کیا جو ۴۳۳ء میں طبع ہوا
 اس میں صحیفۃ یسعیاہ علیہ السلام کے باب ۳۴
 باب میں یہ فقرہ موجود ہے "اللہ کی تسبیح
 پڑھو۔ اس آنے والے پیغمبر کی سلطنت کا
 نشان اس کی پشت پر ہوگا (یعنی مہربوت)
 اور اس کا نام احمد ہوگا۔ انتہی۔

اور یہ ترجمہ ارمینویوں کے پاس موجود ہے۔

اس میں دیکھ لیا

جائے

انتہی کلامہ

از جواب فصیح ص ۹۷ ج ۱۔

ازرا امن فانتظروا فرہا انتہی کلامہ کذا فی اجواب الفسید لعلفقہ عبداللہ ص ۹۷

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بیراع العبد الضعیف المدعو بہ محمد ادریس الکاندھلوی غفر

اللہ لہ ولوالدیہ واولادہ امین بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

گزارش مولف

حق جل شانہ کی توفیق سے اس ناچیز نے یہ رسالہ پہلی بار ۱۳۳۷ھ میں لکھا اور
۲۲ جمادی الثانیہ یوم جمعہ بعد نماز عصر اس کی تالیف سے فراغت ہوئی اور بلدہ حیدر
آباد دکن میں طبع ہوا۔

بعد ازاں بلا کسی تغیر اور بلا کسی اضافہ کے "ماہنامہ انوار العلوم" جامعہ اشرفیہ
میں تسط وار شائع ہوا۔ اب پھر حق تعالیٰ شانہ کی توفیق اور تائید سے مفید اضافات
اور نافع ترمیمات کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے۔ وانشاء ولی التوفیق و سیدہ ازمہ تحقیق
رَبَّنَا أَنْفِقْ بِنِعْمَتِكَ إِذَا نَفَقْتَ آمَنَّا الشَّمِيمُ بِكُمْ الْعَلِيمُ ۝

ایں دعا از تو اجابت ہم تو
لطف تو بر ما نوشتہ صد کو
بندۂ ناچیز محمد ادریس کان اللہ
مدرس جامعہ اشرفیہ لاہور
ذی الحجہ الحرام ۱۳۹۱ھ

تقریظ از حضرت قدوة العلماء الراہین بقیۃ السلف و حجتہ الخلف حضرت الشاہ سید محمد انور کشمیری قدس سرہ

الحمد للذریب العالمین و العاقبۃ للمتقین و الصلوٰۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد سید ولد آدم
و خاتم النبیینؐ اما بعد احقر محمد انور کشمیری حفا اللہ عنہ اہل اسلام کی عالی ہند مستشرقین عزیز
گزار ہے کہ عاجز نے یہ رسالہ بشارت النبیین بظہور خاتم الانبیاء و المرسلین مؤلفہ جناب
فضائل مآب مولوی محمد ادریس صاحب کاندھلوی دام اللہ ظلہ مظالمہ کیا بذلف محمد صالح
نے اخلاص اور شہیت سے اس رسالہ کو جمع کیا ہے اور دعائے خلیل اللہ سید السلام اور
بشارت روح اللہ علیہ السلام کو یاد دلایا ہے حق تعالیٰ تالیف ہذا مؤلف کے لئے موجب
رضاء و خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کرے آمین۔ امید ہے کہ ایسا رسالہ باقتباس آیات
قرآنیہ و اسادیش نبویہ اور صفات درویشی مفید خاص و عام اور موجب انشراح صدر
ہوگا۔ واللہ الموفق۔

تقریظ از امام المتکلمین و عمدة المفسرین مولانا الحاج شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی قدس اللہ سرہ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَحَمْدًا وَ مَوْصِفَاتًا وَ مُسَلِّمًا
 بشارات کے باب میں علمائے اسلام نے نہت کچھ لکھے۔ عربی اور اردو میں مستقل
 رسائل بھی تصنیف کئے گئے لیکن حالی میں بشارات کے متعلق اپنے جس رسالہ کا سرور
 برادر مکرم مولوی محمد ادریس صاحب کا نہ صوفی فی ضل دیوبند نے اشقر کو دکھلایا اس میں
 کئی خصوصیات ایسی ہیں جن کا اس قدر التزام و اہتمام شاید دوسری تصانیف میں مرعہ
 نہ تھا مولوی صاحب ممدوح نے اول موجودہ بائبل سے کوئی بشارت (پیشین گوئی)
 مفصل سورہ کے ساتھ نقل کی پھر نہایت صاف و سلیس مگر مؤثر عبارتیں اس کی توضیح
 کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بلا تکلف شلیق ہونا ثابت کیا اسی کے ساتھ
 پیشین گوئی کے مناسب قرآن کریم یا احادیث سمجھ میں جو مسنون وارد ہوا تھا اس کو
 نقل فرما کر موصدقاً بالذین ینذیک شان نمایاں کرتے گئے۔ اس طرح پوری کتاب اکیس بشارت
 پر مشتمل ہے حق تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنوں کا ایمان بڑھائے اور منکروں کی آنکھیں
 کھول دے اور مؤلف ممدوح کے ذخیرہ سنات میں اضافہ کرے آمین۔ العبد

شبیر احمد عثمانی دیوبندی عفا اللہ عنہ

وارد حال حیدرآباد دکن، ۳ ربیع الثانی ۱۳۵۷ھ

كَلِمَةُ اللَّهِ
فِي حَيَاتِ رُوحِ اللَّهِ

تقریظ

از آیتہ السلف و حجۃ الخلف حضرت مولانا سید محمد انور شاہ
سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام علی
رسوله محمد وآله واصحابہ اجمعین

اما بعد ارسال کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ مصنفہ علامہ فہامہ جناب مولوی محمد ادریس
صاحب کاندھلوی مدرس دارالعلوم دیوبند کا احقر نے کہیں سے دیکھا اور بعض مضامین جناب
مؤلف محذوق کی زبان سے سنا۔ رسالہ مذکورہ حیات عیسیٰ علیہ السلام میں کافی و شافی اور مبہ
متعلقہ کاماوسی اور جامع ہے نقول معتد اور مستند کتابوں سے لی گئی ہیں اور عمدہ سے عمدہ
قول سامنے رکھ دیا ہے علماء اور طلباء کو تلاش اور متبع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ امید ہے کہ
ہلباء اس کی قدر کریں گے اور مخلوق کو جو وہیال کے فتنہ میں مبتلا ہے ہدایت اور ارشاد کا ذریعہ
ہوگا۔ حق تعالیٰ جناب مؤلف کی سنی مشکور اور عمل مبرور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

اختر محمد انور عفا اللہ عنہ

مدرس دارالعلوم دیوبند

تقریظ

از فخر المتکلمین حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

تقریباً دو سال ہوئے ہیں کہ بمقام فیروز پور پنجاب، قادیانی مزار شیوں سے ممتاز معارفیہ مسائل میں علماء دیوبند کی گفتگو ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بحث حضرت مسیح بن مریم علی نبینا وعلیہ السلام کی حیات اور نبی الی السما اور دوبارہ تشریف آوری کے متعلق تھی، جس میں دیوبند کی طرف سے برادر مکرم جناب مولوی محمد ادریس صاحب کاندھلوی مدرس دارالعلوم وکیل تھے مولوی صاحب نے جو عالمانہ اور محققانہ تقریر فرمائی، بحمد اللہ تعالیٰ نہ صرف عام پبلک ہی اس سے محفوظ اور مطمئن ہوئی بلکہ بندہ کے روبرو بعض ممتاز مزار شیوں نے بھی اس کی معقولیت اور سنجیدہ روش کی داد دی اور اس طرح مولوی صاحب کے عالمانہ طرز استدلال نے منکرین سے بھی نمرانج تحسین وصول کیا۔

والفضل ما شہدت بہ اذاتہ ۶۱

میں نے اسی وقت مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ آپ اس مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب کی توضیح و تحقیق ایک کتاب کے ذریعے سے اس طرح کو دیجئے کہ غائب و حاضر کے لئے اس میں بصیرت ہو اور مسئلہ کا تمام مادہ بیک نظر سامنے آجائے اور کسی باطل پرست کو گنجائش نہ رہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد وہ ایک حق پرست کے قدم ڈگمگائے۔ حق تعالیٰ شانہ، مولوی صاحب موصوف کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے میری اس ناپختہ گزارش کو رائیگاں نہیں جا۔ نہ دیا اور بڑی محنت و عرق ریزی کے بعد ایک

ایسی حالیفت برادران اسلام کے سامنے پیش کر دی جس میں اس اہم مسئلہ کا کافی وضاحتی حل موجود ہے اور شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ اس باب میں اس وقت تک کوئی کتاب اس قدر جامع اور جاوی ایسے سادہ اور بے تکلف طرز میں نہیں لکھی گئی۔ ناظرین مطالعہ کے بعد خود اندازہ لگا سکیں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ از سر تا پا واقعہ ہے اور ان کو ممنون ہونا چاہیے مولف محترم کا اور ان کا برادر العموم کا جن کی وجہ اور سعی سے یہ پیش بہا رسالہ نور افزائے دیدہ شائقین ہوا۔

شبیر احمد عثمانی

دیوبند، ۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۲ھ

تہذیب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ
 وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَجْزَلُ مَا أَجْزَلُ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَا عَمَّ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ -
 آقَابَعْدُ

بندہ گنہگار امیدوار رحمت پروردگار محمد اور مس کا مذہبی کاغذ صلی کاغذ ہو سکتا ہے اور کان ہو سکتا ہے۔
 (آئین) اہل اسلام کی خدمت میں عرض پر دوازہ ہے کہ اس امت مرحومہ پر قوم عاد اور قوم
 کی طرح عذاب تو نہیں لیکن فتنے ہیں جن سے نکلنے کا راستہ سولے کتاب و سنت کے کچھ
 نہیں اور کتاب و سنت تک رسائی بدون حضرات صحابہ و تابعین کے ناممکن ہے۔ اس لئے
 کہ صحابہ اور تابعین ہی کے ذریعہ ہم تک کتاب و سنت پہنچی۔ نبی اور امت کے درمیان میں
 صحابہ واسطہ ہیں اور ایسا واسطہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوتے
 لہذا قرآن و حدیث کا وہی مطلب معتبر ہو گا جو حضرات صحابہ اور تابعین نے سمجھا۔ سولے
 حضرات انبیاء و مرسلین کے دنیا میں صحابہ کرام جیسا نور علم اور نور فہم اور نور تقویٰ نہ اولین
 ہیں سے کسی کو میسر آیا اور نہ آخرین میں سے کسی کو حاصل ہوا۔ پس اگر صحابہ کرام رضی کی تفسیر
 اور شریعت معتبر نہیں تو پھر کسی کی بھی معتبر نہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک صحابی کے نور علم اور نور فہم اور
 نور تقویٰ کی زکوٰۃ نکالی جلتے اور کل عالم پر تقسیم کی جلتے تو عالم کا ہر فرد علم و فہم کا امیر اور
 دولت مند بن جاتے۔

اس دور پر فتنے میں ہر طرف سے دین پر فتنوں کا ہجوم ہے جس میں ایک بہت بڑا فتنہ
 مرزائیت کا ہے۔ اس فتنہ کا بانی منشی غلام احمد قادیانی ہے اولاً اس نے اپنے مجدد ہونے کا
 دعویٰ کیا۔ پھر مشیل مسیح ہونے کا۔ پھر مسیح اور عیسیٰ ہونے کا۔ اور اپنی مسیحیت کی دھن میں حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مدعی بنا اور ان کے رفع الی السماء کو محال قرار دیا اور مسدود
اوراق اس بارے میں سیاہ کئے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کر مدفون ہو چکے اور جو شخص مر
کر دفن ہو گیا، وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس نہیں آسکتا اور پھر اس
زعم فاسد اور خیالی کا سد کی بناء پر ان احادیث میں تحریر ہے کہ جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا آسمان سے نازل ہونا اور دنیا میں دوبارہ آشرف لانا صراحتاً مذکور ہے۔ ان احادیث صحیحہ
اور صحیحہ میں یہ تخریج کی کہ نزول مسیح سے قبل مسیح کا پیدا ہونا مراد ہے اور یہ اس قبل مسیح کا مسدود
اپنی ذات کو قرار دیا جس کا حال یہ تھا کہ تمام احادیث میں مسیح بن مریم سے وہ مسیح مراد نہیں جن کا قرآن
میں ذکر ہے بلکہ ان کا قبل اور شیعہ مراد ہے اور نزول سے آسمان سے اترنا مراد نہیں بلکہ ماں کے پیٹ سے
ہونا مراد ہے اور پھر ولادت سے یہ مراد ہے کہ وہ مثل مسیح قادیان کے ایک دیہقان کی بیچا بن
عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور بڑا ہو کر عیسائیوں کے اسکول میں تعلیم پانے اور جوان ہو کر
عیسائیوں کی دفتری ملازمت کرے اور پھر چند روز بعد مریم بنے اور پھر خود اپنے سے عیسیٰ
پیدا ہو جاتے۔ خود ہی والد خود ہی والدہ اور خود ہی مولود۔ خدا کی قسم! اب تک میری سمجھ میں نہیں
آیا کہ لوگ کس طرح اس جنون اور دیوانگی پر ایمان لے آتے ہیں۔ رَبَّنَا آتِنَا لَكَ تَوْحِيدًا لَكُمُ الْعِبَادَةُ
هَذَا يَنْتَازِعُ هَبْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً طَرِيقًا آتَتْ الْوَهَّابُ.

علماء اہل سنت والجماعت نے رومزائیت پر غمونا اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع
پر خصوصاً مفصل اور مختصر اور توسط کتابیں تالیف فرمائیں۔ اور بارگاہ خدادادی سے اجراء
کیا۔ جزاء ہم اللہ تعالیٰ عن سائر المسلمین خیر الجزاء۔ آمین۔

۱۳۴۲ھ میں اس ناچیز اور بے بضاعت نے بھی ایک رسالہ کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ
کے نام سے لکھا تھا جس کو حضرت مخدومنا الحبيب و مطاعنا المبین حضرت مولانا سید الرحمن
صاحب ہستم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ بالرحمة والغفران نے اپنے اہتمام سے شائع فرمایا
تھا۔ پھر اسی میں دوبارہ نظر ثانی اور اضافات کے ساتھ یہ رسالہ شائع ہوا۔ اب تیسری مرتبہ

میں بہت سے بدیہہ اختلافات اور رسمیات کے ساتھ اہل اسلام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے آمین۔

حضرت الاستاذ و شیخنا الاکبر مولانا الشاء السید محمد نور نور اللہ و بہار یوم القیمۃ و نظر دائیں
 صدر المدد رحیم دارالعلوم دیوبند جس طرح اپنے زمانہ میں بے مثال تھے اسی طرح انہوں نے اس
 مؤثر و شہ بہ ایک بے مثال اور جواب کتاب عربی زبان میں تالیف فرمائی جس کا نام "عقیدۃ
 اسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام" ہے جو علم اور فضلاء کے لئے مشعل راہ اور شمع ہدایت
 بنی۔ اس ناپزیر نے بھی اس کتاب مستطاب کے لطیف مضامین کے وہ انتہا سات حین کو
 نام اور توسط الاستاذ و طبیقہ مجھ سکے اپنے اس رسالہ میں اضافہ کر دیئے ہیں۔

تحدیث بالنعمة

وَمَا بَدَعْنَا ذَلِيلًا فَحَدِيثًا ۝

ناپزیر کا یہ رسالہ پہلی مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہتمم دارالعلوم
 دیوبند نے مطبع قادی میں طبع کرایا جس شب میں اس رسالہ کی لوح کا ورق تیار ہو رہا تھا۔
 اس شب میں اس ناپزیر نے یہ خواب دیکھا کہ یہ ناپزیر دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں داخل
 ہوا دیکھتا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام منبر کے قریب اور محراب امام
 کے سامنے تشریف فرما ہیں، چہرہ مبارک پر عیب و غریب انوار ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک
 فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور حضرت کے ساتھ کوئی خادم بھی ہے۔ یہ ناپزیر نہایت ادب کے ساتھ
 دوڑا لو سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک قادیانی پکڑ کر لایا گیا۔ اور سامنے کھڑا کر دیا گیا۔
 بعد ازاں دو عبالائے گئے۔ ایک نہایت سفید اور خوب صورت ہے اور دوسرا نہایت سیاہ
 اور بدبودار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ سفید عبا اس ناپزیر کو پہنایا
 اور سیاہ عبا اس قادیانی کو پہنایا جسے۔ چنانچہ سفید عبا اس ناپزیر کو پہنایا گیا۔ ۝ بِرَبِّهِ الْحَمْدُ


والمنته۔ اور سیاہ عبا اس قادیانی کو۔ اور یہ ناچیز خاموش کھڑا ہے اور قادیانی کو دیکھ کر دنا
 میں یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ سَوَاءٌ لَكُمْ مِنْ قَبْلِ إِيَّانَ وَ تَفْشِي وَ جَوْهَرُهُ النَّادُ اس کے بعد
 آنکھ کھل گئی۔

اب میں حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے پروردگار! علمائے ربانین کی جوتیوں
 کے صدقہ اور طفیل میں اس ناچیز خدمت کو بھی قبول فرما اور اس تالیف کو اہل
 اسلام کے لئے موجب سکینت وطمیننت اور قادیانیوں کے لئے موجب ہدایت و سعادت
 اور اس نابکار گنہگار کے لئے ذخیرہ آخرت اور موجب نجات و مغفرت فرما۔ آمین یا ارحم
 الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تَبَّ عَابِدَاكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بضاعت تیا وردم الا أمید

تدایا ز عقوقم مکن نا أمید



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

در بیان امکان رفع جسمانی

مرزا صاحب اور ان کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پا کر مدقون ہو چکے اور وہیں یہ ہے کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر جانا محال ہے جیسا کہ ازالۃ الادلہ ص ۱۱۱ ج ۱ تقطیع خورد اور ص ۱۱۲ ج ۱ تقطیع کلان پر ہے۔

جواب

یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کے ساتھ لیلۃ المعراج میں جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا حق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بجدہ العنصری آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا بھی بلاشبہ حق اور ثابت ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف ہبوط ممکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے۔

جعفر بن ابی طالبؓ کا شرف کے ساتھ آسمانوں میں اڑنا صحیح اور قوی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

مخروج الطہرانی بأسماء وحسن ترمذی اللہ
ابن جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسیدہ ہنیئۃ انک ابوالثبطیر ومع الملائکۃ
انہم طہرائی نے باسناد حسن عبد اللہ بن یحییٰ جعفر سے
روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حجر سے ایک بار بار بار شاہ فرمایا کہ اے جعفر کے

فی السماء۔ کے بیٹے عبداللہ تجھ کو مبارک ہو تیرا باپ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے (اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جعفر جبرائیل و میکائیل کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ ان ہاتھوں کے عوض میں جو غزوہ موتہ میں کٹ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح دوبارہ عطا فرمادئے ہیں اور اس روایت کی سند نہایت جمید اور عمدہ ہے۔
(زرقانی صفحہ ۲ ج ۲ وفتح الباری ص ۲۷ ج ۱)

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس بارے میں ایک شعر ہے:-

وجعفر الذی یصنحی ویبسی یطیر مع الملائکۃ ابن الہی
(ترجمہ) وہ جعفر کہ جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے وہ میری ہی ماں کا بیٹا ہے۔

اور علی ہذا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر معونہ میں شہید ہونا اور پھر ان کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا روایات میں مذکور ہے جیسا کہ حافظہ عسقلانی نے اصحاب میں اور حافظہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں اور غلامہ زرقانی نے شرح مواہب صفحہ ۲ میں ذکر کیا ہے۔ جبار بن سلمی جو عامر بن فہیرہ کے قاتل تھے وہ اسی واقعہ کو دیکھ کر ضحاک بن سفیان کلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور یہ کہا:-

دعانی الی الاسلام ما رأیت من مغنیل عامر بن فہیرہ کا شہید ہونا اور ان کا آسمان پر
عامر بن فہیرہ ورفعه الی السماء اٹھایا جانا میرے اسلام لانے کا باعث بنا۔
ضحاک نے یہ تمام واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لکھ کر بھیجی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

فان الملائکۃ وادت جنتہ و انزل فرشتوں نے اس کے حبشہ کو چھپا لیا اور وہ
فی علیین۔ علیین میں اتارے گئے۔

ضحاک ابن سفیان کے اس تمام واقعہ کو امام بیہقی اور البولعمی اصفہانی دونوں

نے اپنی اپنی دلائل النبوت میں بیان کیا شرح الصدور فی احوال الموقی والقبور للعلامة
السیوطی ص ۱۶۱

اور حافظ عسقلانی نے اصحابہ میں جبار بن سلمیٰ کے تذکرہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ

اشارہ فرمایا ہے۔

شیخ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ کے سران
پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو ابن مند اور حاکم اور موسیٰ بن عقبہ نے بھی روایت کیا ہے۔
غرض یہ کہ یہ واقعہ متعدد اسانید اور مختلف روایات سے ثابت اور محقق ہے۔

واقعہ جمع میں جب قریش نے خبیث بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری کو خبیث کی نعش اتار لانے کے لئے روانہ فرمایا
عمرو بن امیہ وہاں پہنچے اور خبیث کی نعش کو اتار ادفعہ ایک دھماکا سنائی دیا۔ پیچھے پھر کر دیکھا
تو درمیان نعش غائب ہو گئی عمرو بن امیہ فرماتے ہیں گویا زمین نے ان کو نگل لیا۔ اب تک اس
کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔

(ذرقانی شرح مواہب ص ۲ ج ۲)

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خبیث کو زمین نے نگلا اسی وجہ سے ان کا لقب
بلیع الارض ہو گیا۔ اور ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عامر بن فہیرہ کی طرح خبیث
کو بھی فرشتے آسمان پر اٹھالے گئے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو آسمان پر اٹھایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے عامر بن فہیرہ اور
خبیث بن عدی اور علاء بن حضرمی رحمہ کو آسمان پر اٹھایا۔ انتہی۔

علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اولیاء کا الہام و کرامت انبیاء کرام کی وحی اور معجزات
کی وراثت ہے۔

وما یقویٰ قصۃ الذی رفع الی السماء شیخ جلال الدین سیوطی شرح الصدور ص ۱۶۱

ما أخرجہ النسائی والبیہقی والظہرائی
وغیرہم من حدیث جابر بن صلیح
اصیبت اناملہ یوم احد ففتن
حتی ، فقال رسول اللہ صلی اللہ
عنیہ وسلم لو قلت بسم اللہ
لوفعتک الملائکۃ والناس ینظرون
الیک حتی تلج بک فی جوار السماء .
میں فرماتے ہیں کہ عامر بن قہیر اور نجیب رضی
اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعہ وقوع الی السماء کی واقعہ
بھی تائید کرتا ہے جس کو نسائی اور بیہقی اور ظہرائی
نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا
ہے کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کی انگلیاں زخمی
ہو گئیں تو اس تکلیف کی حالت میں انہوں نے
حس کا لفظ نکلا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر تجھ سے حس کے بسم اللہ کہتا تو لوگ دیکھتے ہوتے اور فرشتے تجھ کو اٹھا کر لے
جاتے یہاں تک کہ تجھ کو آسمان میں لے کر گھس بیاتے۔

واخرج ابن ابی الدنیائی ذکور الموقی
عن زید بن اسلم قال کان فی بخی
اسرائیل رجل قد اعتزل الناس فی
کھف جبل وکان اهل زمانہ اذا
وحظوا استغاثوا بہ فداعی اللہ فقام
فما ت فاحذوا فی جہنم زہ فبینا ہم
کذلک اذا ہم یسربون فوف فی عنان
السماء حتی انتھی الیہ فقام رجل
فاخذہ فوضعه علی السریر والناس
ینظرون الیہ فی الہواء حتی عاقبہم .
ابن ابی الدنیائی نے ذکر الموقی میں روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نابالغ
تھا کہ جو پہاڑ میں رہتا تھا جب قحط ہوتا تو لوگ
اس سے بارش کی دعا کرتے وہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ
اس کی دعا کی برکت سے باران رحمت نازل فرماتا
اس نابالغ کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کی تجہیز و
تکفین میں مشغول تھے اچانک ایک سخت آسمانی
سے اترتا ہوا نظر آیا یہاں تک کہ اس نابالغ کے قریب
آ کر رکھا گیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس نابالغ
کو اس تخت پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ تخت پر
اٹھ گیا۔ لوگ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب گیا۔

اور حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر حضرت

موسى علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے زمین پر اترا آنا مستدرک حاکم میں مفصل مذکور ہے
(مستدرک صفحہ ۵۵ ج ۲)

مقصود ان واقعات کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ منکرین اور ملحدین خوب سمجھ لیں کہ
حق جل شانہ نے اپنے مجبین اور مختصین کی اس خاص طریقہ سے بار بار تاکید فرمائی کہ ان کو
سبح و سالم فرشتوں سے آسمانوں پر اٹھو لیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ تاکہ اس کی قدرت کاملہ
کا ایک نشان اور کمرہ ظاہر ہو اور اس کے نیک بندوں کی کرامت اور منکرین معجزات
و کرامات کی رسوائی و ذلت آشکارا ہو۔ اور اس قسم کے خوارق کا ظہور مومنین اور مصدقین کے
لئے موجب طمانیت اور کمند بین کے لئے اتمام حجت کا کام دے۔

ان واقعات سے یہ امر بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ
قانون فطرت کے خلاف ہے نہ سنت اللہ کے متصادم ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ
یہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسمان پر اٹھالیا جائے تاکہ اس مالک مقدر کا کمرہ ظاہر ہو
اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی اپنے خاص الخاص بندوں کے ساتھ یہی سنت ہے
کہ ایسے وقت میں ان کو آسمان پر اٹھالیتا ہے۔ غرض یہ کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا
جانا قطعاً محال نہیں بلکہ ممکن اور واقع ہے اور اسی طرح کسی جسم عنصری کا بغیر کھلتے اور
پنے زندگی بسر کرنا بھی محال نہیں۔ اصحاب کعبہ کا تین سو سال تک بغیر کھاتے پئے زندہ
رہنا قرآن کریم میں مذکور ہے وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ اَزْدَادًا تِسْعًا
اس سے مراد صاحب کا یہ موسم بھی زائل ہو گیا کہ جو شخص اسی یا نوے سال کو پہنچ جاتا ہے
وہ محض نادان ہو جاتا ہے كَمَا قَالَ تَعَالَى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُؤَدُّ اِلَى اٰمْرِ رَبِّهِ الْغَيْرَ لِكَلِمَةٍ يَنْهٰ عَنْهَا
اس لئے کہ ارذل العمر کی تفسیر میں اسی یا نوے سال کی قید مرزا صاحب نے اپنی طرف
سے لگائی ہے، قرآن و حدیث میں کہیں قید نہیں۔ اصحاب کعبہ تین سو سال تک کہیں نادان
نہیں ہو گئے اور علی ہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام صد ہا سال زندہ رہے

اور ظاہر ہے کہ نبی کے علم اور عقل کا زائل ہونا ناممکن اور محال ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا صوم وصال رکھتے اور یہ فرماتے ایک مہنگی افا بیت یطعمنی یعنی دیستینی تم میں کون شخص میری مثل ہے کہ جو صوم وصال میں میری برابر کرے۔ میرا پروردگار مجھے غیب سے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہ غیبی طعام میری غذا ہے۔ معلوم ہوا کہ طعام و شراب عام ہے خواہ حسی ہو یا غیبی ہو۔ لہذا مَا جَاءَتْكُمْ مِنْهُ فَخُذُوا زَيَاتٍ مِّنْهُ لِيَتَذَكَّرَ الَّذِينَ لَمْ يُحِقُوا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ اللَّهِ عَنِ السُّمْرِقِ اسئلہ سے یہ استدلال کرنا کہ جسم عنصری کا بغیر طعام و شراب کے زندہ رہنا ناممکن ہے غلط ہے۔ اس لئے کہ طعام و شراب عام ہے کہ خواہ حسی ہو یا معنوی۔ حضرت آدم علیہ السلام اکل شجرہ سے پہلے جنت میں ملائکہ کی طرح زندگی بسر فرماتے تھے۔ تسبیح و تہلیل ہی ان کا ذکر تھا پس کیا حضرت مسیح نذیرؑ جبرئیل سے پیدا ہونے کی وجہ سے جبرئیل امین کی طرح تسبیح و تہلیل سے زندگی بسر نہیں فرما سکتے گمنا قال اللہ تعالیٰ اِنَّ مَثَلِ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ۔ کیا اصحاب کت کا تین سو سال تک بغیر کھانے اور پئے زندہ رہنا اور حضرت یونس علیہ السلام کا شکم باقی میں بغیر کھاتے پئے زندہ رہنا قرآن کریم میں صراحتاً مذکور نہیں؟ اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد فَكَلِمَاتٍ اِنْ كَانِ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَيُثَبِّتَنَّ فِي بَطْنِهِ لِيَوْمَ يُبْعَثُونَ اس پر صاف دلالت کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام اگر سبحین میں سے نہ ہوتے تو اسی طرح قیامت تک ٹنک ٹنک کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے اور بغیر کھانے اور پئے زندہ رہتے۔

ربا ملحدین کا یہ سوال کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی طویل مسافت کا چند لمحوں میں طے کر لینا کیسے ممکن ہے؟

سوجواب یہ ہے کہ حکماتے جدید لکھتے ہیں کہ نور ایک منٹ میں ایک کروڑ بیس لاکھ میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ بجلی ایک منٹ میں پانچ سو مرتبہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انسان جس وقت نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو حرکت شعاعی اس قدر سریع ہوتی ہے کہ ایک ہی آن

میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ آسمان سائل نہ ہوتا تو اوردورد تک وصول ممکن تھا نیز جس وقت آفتاب طلوع کرتا ہے تو لوہے کی ایک بی آن میں تمام کرۂ ارض پر پھیل جاتا ہے حالانکہ سطح ارضی ۶۰۳۶۳۶۳۶ فرسخ ہے جیسا کہ سنع شداد صحت پر مذکور ہے اور ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔ لہذا مجموعہ ۸۰۹۰۹۰۸۰۶۱۰ کر ڈیڑھ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں جرم شمس بتمامہ طلوع کرتا ہے اتنی دیر میں فلک اعظم کی حرکت ۵۱۹۶۰۰ لاکھ فرسخ ہوتی ہے اور ہر فرسخ چونکہ تین میل کا ہوتا ہے لہذا مجموعہ مسافت ۱۵۵۸۸۰۰ لاکھ میل ہوتی۔ نیز شیاطین اور جنات کا شرق سے لے کر غرب تک آن و آمد میں اس قدر طویل مسافت کا طے کر لینا ممکن ہے تو کیا خداوند عالم اور قادر مطلق کہنے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی فاس بندے کو چند لمحوں میں اس قدر طویل مسافت طے کرا دے۔ آصف بن برخیا کا مہینوں کی مسافت سے بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پلک بھپکنے سے پہلے پہنچے حاضر کر دینا قرآن کریم میں مصرح ہے کَمَا قَالَ تَعَالَى وَفَايَ الَّذِي بَعَثْنَا فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ آيَاتِنَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَبِّكَ آيَاتُكَ أَنْ يَتَوَكَّلْ آلِهَتَكَ خُفُّكَ فَذَلِكُمْ رَأَوْهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَالسَّمُومِ أَوْ حُبِّ النَّارِ الَّتِي تُوقَدُ مِنْ عَنَابِ الْكَافِرِينَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کا مسخر ہونا بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں چاہے اڑا کر لے سبائی اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرتی کَمَا قَالَ تَعَالَى وَتَدْنُوْنَ إِلَيْهَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ

آج کل کے محدثین نے گھنٹہ تین سوزیل کی مسافت طے کرنے والے ہوائی جہاز پر تو ایسا لے آئے ہیں مگر نہ معلوم سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، ہوائی جہاز نہ کہ کی بنائی ہوئی مشین سے اڑتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا حکم خداوند اڑا کر لے جاتی تھی کسی بندہ کے عمل اور صحت کو اس میں دخل نہ تھا اس لئے وہ معجزہ تھا اور ہوائی جہاز معجزہ نہیں۔

مرزا صاحب: ازلۃ الابد ہم صحت سے جی تقطیع خورد اور صحت سے جی تقطیع کلاں پر کھتے

ہیں کہ کسی جسد عنقریب کا آسمان پر جانا سزا بہ مجال ہے۔ اس لئے کہ ایک جسم عنقریب طبقہ
ناریہ اور کرہ زمہریریہ سے کس طرح صحیح و سالم گزر سکتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لیلۃ المعراج میں اور

ملائکہ اللہ کا لیل و نهار طبقہ ناریہ اور کرہ زمہریریہ سے مرود و عبور ممکن ہے اسی طرح حضرت

عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی عبور و مرود ممکن ہے اور جس راہ سے حضرت آدم علیہ السلام

کا بیہوش اور نزول ہوا ہے اسی راہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے مادہ کا نازل

ہونا قرآن کریم میں صراحتاً مذکور ہے کَمَا قَالَ تَعَالَى اِذْ قَالَ الْاِنْحَارِثُونَ لِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ هَلْ

يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ اَلَا خُوْلَهُ تَعَالَى اَقَالَ عِيسَىٰ بِن مَرْيَمَ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا اِذَا دَلَلْنَا وَاٰخِرَ نَاۤءٍ اَيُّهَا مَمْلُوكًا وَاَنْتَ

خَيْرُ الرَّاٰثِقِيْنَ قَالَ اِنَّهٗ تَعَالَى لِيۤنۡزِلُوْهُمۡ مَّا يَشَآءُ لِيۤسَ اِسۡمٰءُہٗ كَانُوۡدِلۡ بِہٖیۡ طَبَقۡہٗ نَارِیۡہٗ ہُوۡ كَرۡہُوۡ

ہے۔ مرزا صاحب کے زعم فاسد اور خیالی باطل کی بناء پر وہ اگر نازل ہوا ہوگا تو طبقہ ناریہ

کی حرارت اور گرمی سے جل کر خاکستر ہو گیا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ یہ سب

شیاطین اللفس کے دسو سے ہیں اور انبیاء و مرسلین کی آیات نبوت اور کرامات رسالت

پر ایمان نہ لانے کے بسالے ہیں۔ کیا خداوند ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام کے لئے طبقہ ناریہ

کو براہتہم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح برد اور سلام نہیں بنا سکتا؟ جب کہ اس کی شان یہ

ہے۔ ۱۔ رَبَّنَا اَسْرُوْہٗ اِذَا اٰتٰرَاۡدَ شَیْئًا اَنْ یَّقُوْلَ لَہٗ کُنْ فَیَکُوْنُ

فَسُبْحٰنَ ذِی الْعَرْشِ وَ الْمَلٰٓئِکَۃِ وَ الْمَمْدُوۡدِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْجَبْرُوۡتِ اٰمَنۡتَ بِاللّٰہِ وَ

کَفَرۡتَ بِالطَّغُوۡتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

پہلی دلیل

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبِمَا نَفَعْنَاهُمْ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكَرُوا وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَاتِلُوا
 الرَّسُلَ يَكْفُرُونَ خَلْقًا وَخَلْقًا قُلُوبُهُمْ غُلِقَتْ بِلِقَاءِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ كَثِيرًا هُوَ سَوَّاهُ يَوْمَئِذٍ
 الْاَلْمِيسِرَ وَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُكَفِّرُ هَمِّهُمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ نُبُهَتْنَا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا
 الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بِنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ
 لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اَنْبِيَاۡءَ
 الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَدَّكُمُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

(رابط) حق جل شانہ نے ان آیات شریفہ میں یہودیوں کے مہربان اور مغضوب اور مگرد و مژومہ ہونیکے کچھ وجوہ و اسباب ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے یہود کو متعدد وجوہ کی بناء پر مگرد و لعنت و غضب بنایا۔

۱) نقص عہد اور میثاق کی وجہ سے۔

۲) اور آیات الہیہ اور احکام خداوندیہ کی تکذیب اور انکار کی وجہ سے۔

۳) اور خدا کے پیغمبروں کو بے وجہ محض عناد اور دشمنی کی بناء پر قتل کرنے کی وجہ سے۔

۴) اور اس قسم کے تکبرانہ کلمات کی وجہ سے کہ مثلاً ہمارے قلوب علم اور حکمت کے ظرف ہیں۔ ہمیں تمہاری ہدایت اور ارشاد کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ان کے قلوب علم اور حکمت اور رشد و ہدایت سے بالکل خالی ہیں بلکہ اللہ نے ان کے عناد اور تکبر کی وجہ سے ان کے

دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے قلوب میں جہالت اور ضلالت بند ہے۔ اوپر سے مہر لگی ہوئی ہے اندر کا کفر باہر نہیں آسکتا اور باہر سے کوئی رشد اور ہدایت کا اثر اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ پس اس گروہ میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں مگر کوئی شاذ و نادر جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء۔

(۵) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر و عداوت کی وجہ سے۔

(۶) اور حضرت مریم پر عظیم بہتان لگانے کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابانت اور تکذیب کو بھی مستلزم۔ ابانت تو اس لئے کہ کسی کی ماں کو زانیہ اور بدکار کہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص ولد الزنا ہے اور العیاذ باللہ نبی کے حق میں ایسا تصور بھت بدترین کفر ہے۔ اور تکذیب اس طرح لازم آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے حضرت مریم کی برأت اور نزاہت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہٹ لگانا برأت اور نزاہت کا صاف انکار کرنا ہے۔

(۷) اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ جو بطور نفاخر کہتے تھے کہ ہم نے مسیح بن مریم جو رسول اللہ ہونے کے مدعی تھے ان کو قتل کر ڈالا۔ نبی کا قتل کرنا بھی کفر ہے بلکہ ارادۂ قتل بھی کفر ہے اور پھر اس قتل پر فخر کرنا یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے اور حالانکہ ان کا یہ قول کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر ڈالا بالکل غلط ہے ان لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ حضرت مسیح کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی صحیح علم اور صحیح معرفت نہیں سوائے گمان کی پیردی کے کچھ بھی نہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ امر قطعی اور یقینی ہے کہ حضرت مسیح کو کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھالیا اور ایک اور شخص کو حضرت عیسیٰ کا شبہیہ و نیم شکل بنا دیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر اسی کو قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا اور اسی وجہ سے یہود کو اشتباہ ہوا اور پھر اس

اشتباه کی وجہ سے اختلاف ہوا اور یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت سے بعینہ نہیں۔ مشککہ اللہ تعالیٰ
 بڑے غالب اور حکمت والے ہیں کہ اپنی قدرت اور حکمت سے اپنے نبی کو دشمنوں سے بچایا اور وہ زندہ
 آسمان پر اٹھایا اور ان کی جگہ ایک شخص کو ان کے مشکل بنا کر قتل کیا اور تمام قاتلین کو قیامت
 تک اشتباہ اور اختلاف میں ڈالی دیا

تفصیل

امید واقع ہے کہ مفسرین اس اجمالی تفسیر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیات شریفہ
 حضرت علیؑ علیہ السلام کے رفع جس میں نص صریح ہیں۔ اب ہم کسی قدر تفصیل کتنا چاہتے
 ہیں تاکہ طالبان حق کی بفضل خدا پوری تشفی اور تسلی ہو جاوے ورنہ ہم کیا اور ہماری مجال
 کیا اور ہماری تحریر کیا کہ جس سے تسلی اور تشفی کر سکیں لاجول ولاقوة الا باللہ۔ قلب یہی
 کے قبضہ قدرت میں ہیں جس طرح اور جہر چاہے دلوں کو پلٹتا اور پھیرتا ہے۔ اسی کی
 توفیق سے لکھ رہا ہوں اور اسی کی توفیق سے اپنے لئے اور ناظرین کرام کے لئے اسی کی
 توفیق اور دست گیری کی امید رکھتا ہوں اور اسی کی اعانت اور تائید سے ناظرین اور قارئین
 کی تعلیم و تفہیم کے لئے چند امور ذکر کرتا ہوں۔

(۱)

ان آیات میں یہودی بے بہود پر لعنت کے اسباب کو ذکر فرمایا ہے۔ ان میں ایک سبب
 یہ ہے وَحَوْرٍ رَّجْمًا عَلٰی مَرْيَمَ بَنِي مَرْيَمَ طُوفَانَ اَوْرِ بَهْتَانَ لُكَانَا۔
 اس طوفان اور بہتان عظیم میں مرزا صاحب کا قدم یہود سے کہیں آگے ہے۔ مرزا صاحب
 نے اپنی کتابوں میں حضرت مریم پر جو بہتان کا طوفان برپا کیا ہے۔ یہود کی کتابوں میں اس
 کا چالیسواں حصہ بھی نہ ملے گا۔ مرزا صاحب کی عبارتیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں
 عیاں واضح بیان۔ ہم سے تو مرزا صاحب کی وہ عبارتیں پڑھی بھی نہیں جائیں اور مرزا

کو تو قرآن کی طرح یادیں بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر اس لئے ان کے نقل کی ضرورت نہیں۔

(۲)

آیات کا سیاق و سباق بلکہ سارا قرآن روز روشن کی طرح اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ یہودیے ہیرو کی ملعونیت اور مفسوسیت کا اصل سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی ہے۔ مرزا صاحب اور مرزائی جماعت کی زبان اور قلم سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغض اور عداوت کا جو منظر دنیا نے دیکھا ہے وہ یہود کے وہم و گمان سے بالا اور برتر ہے۔ مرزا صاحب کے لفظ لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ظاہر ہے۔

قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَخْوَاهِهِمْ وَمَا تَنْتَهِي صُدُورُهُمْ الْكِبْرُ

انتہائی بغض اور عداوت خود بخود ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے اور جو عداوت ان کے سینوں میں غصہ اور پوشیدہ ہے وہ تمہارے خواب و خیال سے بھی کہیں زیادہ ہے۔

مرزا صاحب نے نصاریٰ کے الزام کے بہانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اپنے دل کی عداوت دل کھول کر نکالی جس کے تصور سے بھی کلیجہ شق ہوتا ہے۔

(۳)

پہلی آیت میں وَقْتَلْتُمُ الرِّبِّيَّاءَ بِغَيْرِ حَقِّ - فرمایا۔ یعنی انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ملعون اور مفسوس ہوئے اور اس آیت میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ فرمایا۔ یعنی اس کئے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر ڈالا۔ معلوم ہوا کہ محض قول ہی قول ہے اور قتل کا محض زبانی دعویٰ ہے۔ اگر دیگر انبیاء کی طرح حضرت مسیح واقع میں مقتول ہوئے تھے تو جس طرح پہلی آیت میں وَقْتَلْتُمُ الرِّبِّيَّاءَ فرمایا تھا اسی طرح اس آیت میں وَقَتْلَاهُمْ وَصَلَبُوا الْمَسِيحَ ہریم رسول اللہ فرماتے پہلی آیت میں لعنت کا سبب قتل انبیاء ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں لعنت کا سبب ان کا ایک قول بتلایا۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل

کر ڈالا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص یہ کہے کہ مسیح بن مریم مقتول اور معلوب ہوئے وہ شخص بلا شبہ ملعون اور مفضوب ہے۔ نیز اس آیت میں حضرت مسیح کے دعوتی قتل کو میان کر کے بَلَى دَفَعَهُ اللَّهُ فرمایا اور انبیاء سابقین کے قتل کو میان کر کے بَلَى دَفَعَهُمُ اللَّهُ نہیں فرمایا۔ حالانکہ قتل کے بعد ان کی ارواح طیبہ آسمان پر اٹھالی گئیں۔

(۴)

اس مقام پر حق بھل شانہ نے دو لفظ استعمال فرمائے۔ ایک مَا قَتَلُوْهُ جس میں قتل کی نفی فرمائی۔ دوسرا وَمَا صَلَّبُوْهُ جس میں صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی فرمائی۔ اس لئے کہ اگر فقط وَمَا قَتَلُوْهُ فرماتے تو یہ احتمال رہ جاتا کہ ممکن ہے قتل نہ کئے گئے ہوں لیکن صلیب پر چڑھائے گئے ہوں۔ اور علیٰ ہذا اگر فقط وَمَا صَلَّبُوْهُ فرماتے تو یہ احتمال رہ جاتا کہ ممکن ہے صلیب تو نہ دیئے گئے ہوں لیکن قتل کر دیئے گئے ہوں علاوہ انہی سے بعض مرتبہ یہود ایسا بھی کرتے تھے کہ اول قتل کرتے اور پھر صلیب پر چڑھاتے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے قتل اور صلیب کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا اور پھر ایک حرف نفی پر اکتفا نہ فرمایا یعنی وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّبُوْهُ نہیں فرمایا ہے بلکہ حرف نفی یعنی کلمہ ما کو قتلوا اور صلیبوا کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا اور مَا قَتَلُوْهُ اور پھر ما صلیبوا فرمایا تاکہ ہر ایک کی نفی اور ہر ایک کا جدا گانہ مستقلاً رد ہو جائے اور صوب واضح ہو جائے کہ ہلاکت کی کوئی صورت ہی پیش نہیں آئی نہ مقتول ہوئے اور نہ معلوب ہوتے اور نہ قتل کر کے صلیب پر لٹکائے گئے دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا سارا زور ختم کر دیا مگر سب بیکار گیا قادر تو انا جس کو بچانا چاہے اسے کون ہلاک کر سکتا ہے۔

کہ زور آورد گر تو یاری دہی

کہ گیرد چو تور سنگاری دہی

مرزائی جماعت کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں مطلق قتل اور صلیب کی نفی مراد

نہیں بلکہ ذلت اور لعنت کی موت کی نفی مراد ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ محض وسوسہ شیطانی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور اگر یہ کہا جاتے کہ یہود کے خیال کی تردید ہے تو تب بھی آیت میں یہود کا، پورا رد ہے۔ اس لئے کہ یہود کا گمان یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ جھوٹے نبی ہیں اور جھوٹا نبی ضرور قتل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ قتل ہی نہیں کئے گئے اور نہ صلیب پر چڑھاتے گئے اس لئے کہ وہ خدا کے سچے نبی تھے علاوہ ازیں اگر یہود کے اس عزم کی رعایت کی جلتے تو وہ قتل ہی نہ ہوتا اور نبیوں کو قتل کرنے سے منع ہے اور یہود کے یہ معنی ہونے چاہئیں کہ معاذ اللہ وہ انبیاء ذلت اور لعنت کی موت مرے۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ الزُّكُورَ بَاءً

(۵) وَلَٰكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ

یعنی ان کے لئے اشتباہ پیدا کر دیا گیا یا شبہ کی ضمیر حضرت مسیح کی طرف راجع کرو اور اس طرح ترجمہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شبہ اور ہمیشگی ان کے سامنے کر دیا گیا تاکہ عیسیٰ سمجھ کر اس کو قتل کریں اور ہمیشہ کے لئے اشتباہ اور التباس میں پڑ جائیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر اس طرح ترجمہ فرماتے ہیں "لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے کہ یہ ترجمہ اسی اشتباہ کی تفسیر ہے یعنی اس صورت سے وہ اشتباہ اور التباس میں پڑ گئے۔" ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسناد صحیح منقول ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مکان کے ایک دریچے سے آسمان پر اٹھالیا اور ان ہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل اور مشابہ بنا دیا یہودیوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اور بہت خوش ہوئے کہ ہم اپنے مدعا میں کامیاب ہو گئے چنانچہ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے کہ جو مکان میں تھا غسل فرما کر باہر تشریف لائے اور مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے (بظاہر یہ غسل آسمان پر جاتے کے لئے تھا جیسے مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرتے ہیں) اب ہر مجلس میں بارہ حواریین موجود تھے ان کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک شخص مجھ پر ایمان لائے کہ بعد ارادہ مرتبہ کفر کرے گا بعد ازاں فرمایا کہ کون شخص تم میں سے اس پر راہنمی ہے کہ اس پر میری بیضاہت ڈال دی جاتے اور وہ میری جگہ قتل کیا جاتے اور میرے درجہ میں میرے ساتھ رہے یہ سلتے ہی ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اپنے کو اس جاں نثاری کے لئے پیش کیا۔ عیسیٰ نے فرمایا بیچو جا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سابق کلام کا اعادہ فرمایا۔ پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا میں حاضر ہوں۔

نشو و نصیب دشمن کہ شو و پاک تیغ
سر دوستان سلامت کہ تو خیر آزمائی

قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد
ابن سنان حدثنا ابو معوية عن
الاعشى عن المنهال بن عمرو
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس
قال لما اراد الله ان يرفع عيسى الى
السماء صوبه على اصحابه و في
البيت اثنا عشر رجلا من
الحواريين يعني فخر به عليهم
من عين في البيت و راسه
يقطر ماء فقال ان منكم من
يكفر بي اثني عشر مرة بعد ان
اصوني فان ايكم يلقى عليه
شبهي فيقتل مكاني و يحسون
معي في درجتي فقام شاب من
احد ثلثهم سدا فقال له اجلس
ثم اعاد عليهم فقام ذلك
الشاب فقال انا فقال هو انت ذلك
فالتقى عليه شريكه عيسى و رفع
عيسى من روضة في البيت
الى السماء قال وجاء الطالب من
اليهود فاحذوا و الشبهه فقتلوا

ثم صلبوه الى اخر القصة وهذا
استناد صحيح الى ابن عباس
ورواه النسائي عن ابى كريب عن
ابى مغيرة وكذا ذكر غير واحد
من السلف انه قال ليهما ايكم
يلقى شديهي فيقتل مكاني وهو
رفيعي في انجبه
کہ گرفتار کیا اور قتل کر کے صلیب پر لٹکایا۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سند اس کی صحیح اور بہت سے سلف سے اسی طرح مروی ہے۔
(تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۲ جلد ۳)

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے رفیع الی السماء کا بذریعہ ورنہ
پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور یہ علم تھا کہ اب آسمان پر جانے کا تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے
اور بظاہر یہ غسل آسمان پر جانے کے لئے تھا جیسا کہ عید میں جانے کے لئے غسل ہوتا ہے
میرا گمان ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ذرہ برابر مضطرب اور پریشان نہ تھے
بلکہ غایت درجہ سکون اور اطمینان میں تھے بلکہ نہایت درجہ شادان و فرحان تھے۔

حرم اکی روز کزیں منزل ویراں بروم
راحت جاں ظلم و زسپے جاناں بروم

بعض روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رفیع الی السماء سے پہلے حواریوں کی
دعوت فرمائی اور خود اپنے دست مبارک سے ان کے ہاتھ دھلاتے اور بجاتے رومال کے
اپنے جسم کے کپڑوں سے ان کے ہاتھ پونچھے۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۲ ج ۳ پر ہے۔
گویا کہ یہ دعوت رفیع الی السماء کا ولیمہ اور خستہ تھا اور احباب و اصحاب کی الوداعی

دعوت تھی۔ الغرض غسل فرما کر برآمد ہونا اور احباب کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا یہ سب آسمان پر جانے کی تیاری تھی۔ جب فارغ ہو گئے تو اپنے ایک عاشق جاں نثار پر اپنی شہادت ڈال کر روح القدس کی معیت میں معراج کے لئے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ الی السمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج جسمانی تھی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل امین کی معیت میں آسمانوں کی معراج کے لئے روانہ ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرئیل کی معیت میں معراج کے لئے آسمان پر روانہ ہوئے۔

فائدہ

صحیح مسلم میں نو اس بن سمان روئی کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کے منارہ شریفہ پر اتریں گے تو سر مبارک سے پانی ٹپکتا ہوگا، سبحان اللہ جس وقت آسمان پر اتریں گے اس وقت بھی سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور جو وقت قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اس وقت سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے ہوں گے جس شان سے تشریف لے گئے تھے اسی شان سے تشریف آوری ہوگی۔

تنبیہ

سلف میں اس کا اختلاف ہے کہ جس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ڈالی گئی وہ یہودی تھا یا منافق عیسائی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص جواری گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن مخلص تھا اس لئے کہ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر میری شہادت ڈالی جائے گی۔ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

ایک شبہ کا ازالہ

جس طرح فرشتوں کا بشکل بشر متمثل ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ازدیابن جنانا قرآن کریم میں منصوص ہے اور انبیاء کرام کے لئے پانی کا شراب اور زمیون بن جنانا نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے۔ پس اسی طرح اگر کسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اور مشکل بنا دیا جائے، تو کیا استبعاد ہے؟ احیاء موتی کا معجزہ القاء شبیہ کے معجزہ سے کہیں زیادہ بلند تھا لہذا احیاء موتی کی طرح القاء شبیہ کے معجزہ کو بھی بلا شبہ اور بلا تردد تسلیم کرنا چاہیے۔

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

یعنی یہودی حضرت مسیح کو نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب دے سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا جیسا کہ امام راذی نے **وَأَيُّهَا يَا بُرُوحُ الْعَلَّامِ** کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرئیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص خصوصیت تھی کہ انہیں کے نَفْحَہ سے پیدا ہوئے، انہیں کی تربیت میں رہے اور وہی ان کو آسمان پر چڑھا کر لے گئے۔ تفسیر کبیر ص ۳۲ ج ۱۔

جیسا کہ شب معراج میں حضرت جبرئیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے **فَمَ أَخَذَ بِيَدِي فَحَمَلَنِي إِلَى السَّمَاءِ** یہ آیت رفع جسمی کے بارے میں نص صریح ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ اور صحیح اور سالم آسمان پر اٹھا لیا۔ اب ہم اس کے دلائل اور براہین ہدیہ تلمیذ کرتے ہیں۔ غور سے پڑھیں۔

(۱)

یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بئِ دَقْعَةِ اَنْفِیْہِہِ کی ضمیر اس طرف راجع ہے کہ جس طرف قتلوا اور صلیبوا کی ضمیریں راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ قتلوا اور صلیبوا کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک اور جسد مطہر کی طرف راجع ہیں۔ روح بلا جسم کی طرف راجع نہیں۔ اس لئے کہ قتل کرنا اور صلیب پر چڑھانا جسم ہی کا ممکن ہے۔ روح کا قتل اور صلیب قطعاً ناممکن ہے۔ لہذا بل رفعہ کی ضمیر اسی جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف قتلوا اور صلیبوا کی ضمیریں راجع ہیں۔

(۲)

دوم یہ کہ یہود روح کے قتل کے مدعی نہ تھے بلکہ جسم کے قتل کے مدعی تھے لہذا بئِ دَقْعَةِ اَنْفِیْہِہِ سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ لہذا بل رفعہ میں رفع جسم ہی مراد ہوگا اس لئے کہ کلمہ ریل کلام عرب میں ما قبل کے ابطال کے لئے آتا ہے۔ لہذا بل کے ما قبل اور ما بعد میں منافات اور تضاد کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ وَلَدِیۡتْ اَوْ عِبَادٌ رَّحِیۡمُوْنَ میں منافات ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اَقْرَبُ یَقُوْلُوْنَ رَبِّہِمْ رَحْمٰتٌ بَلٰی جَاؤْہُمْ بِالْحَقِّ عِبْرٰتٍ اور ایتیان بالحق (من جانب اللہ حق کو لے کر آنا) یہ دونوں متضاد اور متنافی ہیں یک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ شریعت حقہ کا ٹانفے والا مجنون ہو۔ اسی طرح اس آیت میں یہ ضروری ہے کہ مقتولیت اور مصلوبیت جو بل کا ما قبل ہے وہ مرفوعیت الی اللہ کے منافی ہو جو بل کا ما بعد ہے اور ان دونوں کا وجود اور تحقق میں جمع ہونا ناممکن ہے اور ظاہر ہے کہ مقتولیت اور روحانی رفع بمعنی موت میں کوئی منافات نہیں محض روح کا آسمان کی طرف اٹھا یا جانا قتل جسمانی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مشعل کا جسم تو قتل ہو سکتا ہے۔ اور رفع آسمان پر اٹھالی جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہوگا کہ بل رفعہ اللہ میں رفع جسمانی مراد ہو کہ

جو قتل اور صلب کے منافی ہے اس لئے کہ رفع روحانی اور رفع عزت اور رفعت شان قتل اور صلب کے منافی نہیں بلکہ جس قدر قتل اور صلب ظلمًا ہوگا اسی قدر عزت اور رفعت شان میں اضافہ ہوگا اور درجات اور زیادہ بلند ہوں گے۔ رفع درجات کیلئے تو موت اور قتل کچھ بھی شرط نہیں۔ رفع درجات زندہ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اَمْ يَرْجِعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَعْلَمَ مَا رَجَعْتُمْ

یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم کے قتل اور صلب کے مدعی تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ابطال کے لئے بِنِ دَفَعْنَا اللّٰهُ فرمایا۔ یعنی تم غلط کہتے ہو کہ تم نے اس کے جسم کو قتل کیا، یا صلیب پر چڑھایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو صحیح و سالم آسمان پر اٹھالیا۔ نیز اگر رفع سے رفع روح یعنی موت مراد ہے تو قتل اور صلب کی نفی سے کیا فائدہ؟ قتل اور صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے اور بل اضرابیہ کے بعد دفعہ کو بصیغہ ماضی لسنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السمار یا اعتبار ما قبل کے امر ماضی ہے۔ یعنی تمہارے قتل اور صلب سے پہلے ہی ہم نے ان کو آسمان پر اٹھالیا۔ جیسا کہ بِنِ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ میں بصیغہ ماضی اس لئے لایا گیا کہ یہ بتلا دیا جائے کہ آپ کا حق کو لے کر آنا کفار کے مجنون کہنے سے پہلے واقع ہو چکا ہے۔ اسی طرح بِنِ دَفَعْنَا اللّٰهُ بصیغہ ماضی لسنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السمار ان کے مزعوم اور خیالی قتل اور صلب سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔

(۳۳)

جس جگہ لفظ رفع کا مفعول یا متعلق جسمانی شے ہوگی، تو اس جگہ یقیناً جسم کا رفع مراد ہوگا۔ اور اگر رفع کا مفعول اور متعلق درجہ یا منزلہ یا مرتبہ یا امر معنوی ہو تو اس وقت رفع مرتبت اور بلندی مرتبہ کے معنی مراد ہوں گے کما قال تعالیٰ وَدَفَعْنَا قُورَيْبِكُمُ الطُّورًا۔ اٹھایا ہم نے تم پر کورہ طور اللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السُّوْبَاتِ بِعَلْوٍ عَدِيْدٍ تَرَوْنَهَا الشَّرْحُ نے بلند

کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ وَادَّيْرُفَعُوْا اَبْرٰهِيْمَ الْفَقُوْا اَبْعَدَ مِنْ
 التَّبِيْثِ وَالسَّنْبِيْلِ طیاروں کو اس وقت کو کہ جب ابراہیم بیت المقدی بنیادیں اٹھا رہے
 تھے اور اسمعیل ان کے ساتھ تھے وَرَفَعْنَا اَبُوْبَيْرٍ عَلٰی الْعَرْشِ یوسف علیہ السلام نے اپنے
 والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا۔ ان تمام مواقع میں لفظ رفع اجسام میں مستعمل ہوا ہے اور
 ہر جگہ رفع جسمانی مراد ہے اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور وَرَفَعْنَا
 بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ تَرْتِيْبًا ہم نے بعض کو بعض پر درجہ اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند کیا۔ اس
 قسم کے مواقع میں رفعت شان اور بلندی رتبہ مراد ہے۔ اس لئے کہ رفع کے ساتھ خود ذکر
 اور درجہ کی قید مذکور ہے۔

ایک حدیث میں ہے اِدْفَاعُ الْعَبْدِ رَفَعَهُ اللهُ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ۔ ساواۃ
 الاخترانی فی مکارم الاخلاق۔ جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان
 پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس حدیث کو خراطی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں ابن عباس رضی
 روایت کیا ہے۔ کنز العمال ص ۲۵ ج ۲۔

اس روایت کو مرزائی بہت خوش ہو کر بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں کہ رفع کا مفعول
 جسمانی شے ہے اور الی السماء کی بھی تصریح ہے مگر باوجود اس کے رفع سے رفع جسمی مراد
 نہیں بلکہ رفع معنوی مراد ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں مجاز کے لئے قرینہ عقلیہ قطعیہ موجود ہے کہ یہ زندوں کے
 حق میں ہے یعنی جو زندہ لوگوں کے سامنے زمین پر چلتا ہے اور تواضع کرتا ہے تو اس کا مرتبہ
 اور درجہ اللہ کے یہاں ساتویں آسمان کے برابر بلند اور اونچا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں رفع
 جسم مراد نہیں بلکہ رفع درجات مراد ہے۔ غرض یہ کہ رفع کے معنی بلندی رتبہ مجازاً اور جسہ
 قرینہ لفظیہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ کنز العمال میں روایت مذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال
 پر روایت مذکور ہے من بتواضع لله درجته يرفعه الله درجة حتى يجعله في عليين

یعنی جس درجہ کی تواضع کرے گا اسی کے مناسب اللہ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے یہاں تک کہ جب وہ تواضع کے آخری درجہ پر پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو علیین میں جگہ دیں گے جو علو اور رفعت کا آخری مقام ہے۔ اس حدیث میں صراحتاً لفظ درجہ کا مذکور ہے اور قاعدہ مسلم ہے الحدیث یفسر بعضہ ببعضاً ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر اور شرح کرتی ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ رفع کے معنی اٹھانے اور اوپر لے جانے کے ہیں، لیکن وہ رفع کبھی اجسام کا ہوتا ہے اور کبھی معانی اور اعراض کا ہوتا ہے اور کبھی اقوال اور افعال کا۔ اور کبھی مرتبہ اور درجہ کا۔ جہاں رفع اجسام کا ذکر ہو گا وہاں رفع جسمی مراد ہو گا۔ اور مثلاً جہاں رفع افعال اور رفع درجات کا ذکر ہو گا وہاں رفع معنوی مراد ہو گا رفع کے یہ معنی تو اٹھانے اور بلند کرنے ہی کے ہیں۔ باقی جیسے۔ شے ہوگی اس کا رفع اسی کے مناسب ہوگا۔

(۲۲۷ کمر)

اس آیت کا صریح مفہوم اور مدلولی یہ ہے کہ جس وقت یہود نے حضرت مسیح کے قتل اور صلیب کا ارادہ کیا تو اس وقت قتل اور صلیب نہ ہو سکا بلکہ اس وقت حضرت مسیح کا اللہ کی طرف رفع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ رفع جس کا بل رفع اللہ میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کو پہلے سے حاصل نہ تھا بلکہ یہ رفع اس وقت ظہور میں آیا کہ جس وقت یہود ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور وہ رفع جو ان کو اس وقت حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت بحمدہ العنصری صحیح و سالم آسمان پر اٹھائے گئے۔ رفعت شان اور بلند سی مرتبہ تو ان کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور وَجَّهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْمُعْتَرِفُونَ کے لقب سے پہلے ہی سرفراز ہو چکے تھے۔ لہذا اس آیت میں وہی رفع مراد ہو سکتا ہے کہ جو ان کو یہود کے ارادہ قتل کے وقت

(۶ یہ کہ)

وَمَا كُنْتُمْ وَوَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ
 تمام ضمائر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں جن کو مسیح اور ابن مریم اور رسول اللہ
 کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ اور مسیح اور ابن مریم اور رسول یہ جسم معین اور جسد عاقل
 کے نام اور لقب ہیں روح کے اسماء اور القاب نہیں۔ اس لئے کہ جب تک روح کا تعلق
 کسی بدن اور جسم کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک وہ روح کسی اتم کے ساتھ موسوم اور
 کسی لقب کے ساتھ ملقب نہیں ہوتی۔ وَرَأَى اسْحَدْرًا لَيْلَىٰ مِنْ بَنِي إِدْمُونِ فَهَلَّلَهُ هَيْدَرًا
 ذُرِّيَّتَهُ۔ وقوله صلى الله عليه وسلم ان ارواح جنود ومجنونة۔ الحدیث

(۷)

یہ کہ یہود کی ذلت و رسوائی اور حسرت اور ناکامی اور عیسیٰ علیہ السلام کی کمال عزت
 و رفعت بجدہ العنصری صبح و سالم آسمان پر اٹھتے جانے ہی میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے

(۸)

یہ کہ رفعت شان اور علوم مرتبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں
 زندہ اہل ایمان اور زندہ اہل علم کو بھی حاصل ہے کما قال تعالیٰ يَرْزُقْكُمْ اللهُ مَلَائِكُتُمْ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
 وَالْمَلٰٓئِكَةُ اُوْدُوْا الْعِلْمَ وَرَجِبَتْ ۝ بلندگی تلے ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کو باعتبار
 درجات کے۔

(۹)

یہ کہ اگر آیت میں رفع روحانی بمعنی موت مراد ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رفع روحانی
 بمعنی موت یہود کے قتل اور صلب سے پہلے واقع ہوا جیسا کہ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جَنَّةٌ ۝ سَبَّ
 جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ اٰيٰتِنَا اِيۡرَاقٌ ۝ اَلَيْسَ اِلٰنَا شَاہِدٌ ۝ قٰتِلُوْا بَنِي اِسْرٰٓءٰلَ ۝ اَلَمْ نَجْعَلِ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوسلے کر آنا ان کے شاعر اور محبون کہنے سے پہلے واقع ہوا ہی

طرحِ رفعِ روحانی بمعنی موت کو ان کے قتل اور صلب سے مقدم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔ مرزا صاحب کو (العیاذ باللہ) یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلامؑ اور سے خلاص ہو کر فلسطین سے کشمیر پہنچے اور عرصہ دراز تک بقیدِ حیات رہے اور اسی عرصہ میں اپنے زخموں کا علاج کرایا اور پھر طویل مدت کے بعد یعنی ستاسی سال زندہ رہ کر وفات پائی اور سری نگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ لہذا مرزا صاحب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ وما اقتلہ بالصلیب بل تخلص منهم وذهب الی کشمیر وواقم فیہم مدۃ طویلة ثم اصابہ اللہ ورحم الیہ۔

(۱۰)

یہ کہ رفعِ روحانی بمعنی موت لینے سے دکانِ اللہ عَزَّوَجَلَّ اَحْیَیْنَا کے ساتھ مناسبت نہیں رہتی۔ اس لئے کہ عزیزنا اور حکیم اور اس قسم کی ترکیب اس موقعہ پر استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں کوئی عجیب و غریب اور خارق العادات امر پیش آیا ہو اور وہ عجیب و غریب امر جو اس مقام پر پیش آیا ہو رفعِ جہانی ہے۔ اس مقام پر عزیزنا حکیمانہ کو خاص طور پر اسلئے ذکر فرمایا کہ کو شخص یہ خیال نہ کرے کہ جسمِ عنصری کا آسمان پر جانا محال ہے۔ وہ عزت والا اور غلبہ والا اور قدرت والا ہے اور نہ یہ خیال کرے کہ جسمِ عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہے۔ وہ حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں دشمنوں نے جب حضرت مسیح پر هجوم کیا تو اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا دیا کہ اپنے نبی کو آسمان پر اٹھالیا اور جو دشمن قتل کے ارادہ سے آئے تھے انہی میں سے ایک کو اپنے نبی کا ہم شکل اور شبیہ بنا کر انہیں کے ہاتھ سے اس کو قتل کرادیا اور پھر اس شبیہ کے قتل کے بعد ان سب کو شبہ اور اشتباہ میں ڈال دیا۔ مرزا صاحب انزالہ الادہام میں فرماتے ہیں۔

”جاننا چاہیے کہ اس رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ برصیا

کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے **وَدَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَابِقًا**۔ پھر تحریر فرماتے ہیں۔

لہذا یہ اثبات ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے مگر اسی موت جو عزت کے ساتھ ہو جیسا کہ مقررین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت کے اُنکی رو میں عیسیٰ تک پہنچائی جاتی ہیں **فِي صُفْحٍ صِدْقٍ عِنْدَ عَابِقٍ مُّقْتَدِرٍ**۔
رفع کے معنی عزت کی موت نہ کسی لغت سے ثابت ہیں اور نہ کسی محاورہ سے اور نہ کسی فن کی اصطلاح ہے۔ محض مرزا صاحب کی اختراع اور گھڑت ہے۔ البتہ رفع کا لفظ محض اعزاز کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے مگر اعزاز رفع جسمانی کے منافی نہیں اعزاز اور رفع جسمانی دونوں جمع ہو سکتے ہیں نیز اگر رفع سے عزت کی موت مراد ہو تو نزول سے ذلت کی پیدائش مراد ہوتی چاہیے اس لئے کہ حدیث میں نزول کو رفع کا مقابل قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نزول کے یہ معنی مرزا صاحب کے ہی مناسب ہیں۔

دراہم امر کہ آیت میں آسمان میں جلنے کی کوئی تصریح نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ **بَنِي دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ**۔ (اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا) اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے آسمان پر اٹھالیا جیسا کہ **تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ** کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف چڑھتے ہیں یعنی آسمان پر۔ وقال اللہ تعالیٰ **بِأَيْدِيهِمْ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْصَعُهُ** اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمل صالح کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اسی طرح **بَنِي دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ** میں آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہوگا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی عقل دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے **بَنِي دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ** کے یہ معنی کہ خدانے ان کو عزت کی موت دی۔ جس طرح انت کے خلاف ہیں اسی طرح سیاق و سباق کے بھی خلاف ہیں۔

دوم یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسناد صحیح یہ منقول

ہے لہذا ادا اللہ ان یوفی عیسیٰ الی السماء، تفسیر ابن کثیر ص ۳۰۳ ح ۳ حسب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا۔ الی آخر القصص اس کے علاوہ متعدد احادیث میں آسمان پر جانے کی تصریح موجود ہے وہ احادیث مختصر یہ ہم نقل کریں گے۔

سو ہم یہ کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ رفت سے اسی موت مراد ہے جو عزت کے ساتھ ہو جیسے مقررین کی موت ہوتی ہے کہ ان کی رو میں مرنے کے بعد عین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس عبارت سے خود واضح ہے کہ بَلْ رُفِعُوهُ مِنَ السَّمَاءِ پر جانا مراد ہے اس لئے کہ ”عین“ اور ”مقعد صدق“ تو آسمان ہی میں ہیں۔ یہ حال آسمان پر جانا تو مرزا صاحب کو بھی تسلیم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آسمان پر حضرت مسیح بن مریم کی فقط روح گئی یا روح اور جسد دونوں گئے۔ سو یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ آیت میں بحمدہ العنصری رفع مراد ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

دوسری دلیل

هَتَاكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

وَإِنْ مِنْكُمْ الْكٰفِرُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَتَوْمَ الْقِيٰمَةِ

يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَرِيْطًا ۗ

رابطہ، یہ آیت گزشتہ آیت ہی کے سلسلہ کی ہے گذشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا ذکر تھا، جس سے طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب رفع الی السماء کے بعد کیا ہوگا؟ اس آیت میں اس کا جواب مل کر ہے کہ وہ اس وقت تو آسمان پر زندہ ہیں

مگر قیامت کے نزدیک آسمان سے نازل ہوں گے اور اس وقت تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور چند روز دنیا میں رہ کر انتقال فرمائیں گے اور روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے اور یہ وہی ہے جو ان کے قتل کے مدعی ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ کر اپنی غلطی پر ذلیل اور نادم ہوں گے۔

بیان ربط بعنوان دیگر

گذشتہ آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہود کے کفر اور عداوت کا ذکر تھا۔ اس آیت میں ان کے ایمان کا ذکر ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے اگرچہ یہود حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت سے منکر تھے۔ مگر نزول من السماء کے بعد تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں گے پتا پتھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آئندہ جہان میں کوئی شخص اہل کتاب میں سے باقی نہ رہے گا مگر عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ان کی نبوت و رسالت پر ضرور بالضرور ایمان لے آئے گا۔ رفع الی السماء سے پہلے تکذیب اور عداوت تھی۔ نزول کے بعد تصدیق اور محبت ہوگی اور پھر اس سبب کے بعد قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق و تکذیب اور محبت اور عداوت کی شہادت دیں گے۔ تاکہ شہادت کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان

سلسلہ بیوقوفانہ میں دو حروف تاکید ہیں۔ ایک لام تاکید اور دوسرا نون تاکید مشغلہ۔ ایک ضرور لام تاکید کا ترجمہ ہے اور دوسرا ضرور نون تاکید کا ترجمہ ہے۔ قافم ذک و استقم ۱۲۔

لے آئیں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔

تفسیر آیت

اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین و علماء و مفسرین کے دو قول ہیں:-

قول اول

مشہور اور جمہور کے نزدیک مقبول اور راجح یہ ہے کہ رُبُّوْهُمُوتَّقٍ کی ضمیر کتابی کی طرف راجح ہے اور یہ اور قبلی تو تہ کی دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجح ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہمیں رجبے گا کوئی شخص اہل کتاب میں مگر البتہ ضرور ایمان لے آئے گا زمانہ آئندہ یعنی زمانہ نزول میں عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔

”نباشتریح کس انہاں کتاب الالبتہ ایمان آرد یعنی پیش از مردن در روز قیامت عیسیٰ گواہ باشد بر ایشان“

(فت) مترجم می گوید یعنی یہودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آزند۔ انتہی۔

شاہ ولی اللہ کے اس ترجمہ اور فائدہ تفسیر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اور عربیہ کی دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجح ہیں۔ جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ وَمَا تَقْتُلُوْهُ اور مَا صَلَبْتُمْ اور وَمَا قَتَلْتُمْ بِقِيَّتِنَا اور بَلَى رَدَقَعْنَا تمام ضائر مفعول حضرت مسیح بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجح ہیں اور پھر آئندہ آیت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْنَا شَهِيدًا میں يَكُوْنُ کی ضمیریں

بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف راجع ہوں گی تاکہ سیاق اور سباق کے تحت نہ ہو۔
اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی باسناد صحیح یہی منقول ہے کہ یہ
اور مَوْتِہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ چنانچہ حافظ عسقلانی
رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں۔

وہذا جزم ابن عباس نفیاً رواہ ابن جریر من طریق سعید بن جبیر
عنه باسناد صحیح ومن طریق ابی رجاہ
عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ واللہ
انہ الان لہی وکن اذا نزل منابہ
اجمعون ونقلہ: کتھل العلم ورجحہ
بن جریر وغیرہ۔ (فتح الباری ص ۲۶۷)

اسی کا ابن عباس نے جزم اور نفی کیا جیسا
کہ ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر ^{ابن عباس}
سے باسناد صحیح روایت کیا ہے اور بطریق ابی
رجاہ حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر قبل مرت
عیسیٰ کہے ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں واللہ
حضرت عیسیٰ اس آن میں بھی زندہ ہیں۔ جب نازل
ہوں گے اس وقت ان پر سب ایمان لے
آئیں گے اور یہی اکثر اہل علم سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر وغیرہ نے راجع قرار دیا ہے۔

اور قمارہ اور ابوالکسا سے بھی یہی منقول ہے کہ قبل مَوْتِہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف
راجع ہے۔ (تفسیر ابن جریر ص ۲۶۷)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اور امام مسلم نے
روایت کیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور مَوْتِہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کی طرف راجع ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس
کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک عنقریب
تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے وراکح الیک
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس
کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک عنقریب
تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے وراکح الیک

کہ وہ فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہوں گے صلیب کو توڑیں گے اور حضرت بر کو قتل کریں گے اور لڑائی کو ختم کر دیں گے، مال کو بہا دیں گے۔ یہاں تک کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا اور ایک سچو دنیا اور مافیہا سے بہتر جوگا پھر ابوہریرہؓ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جاہلوں کی تصدیق کیلئے

ويضع الحوباء في قبض النمل حتى لا يقبل احد حتى تكون السجدة الواحدة خبرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة واقراؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الا ليو من به قبل موته ويوم القيمة يحسبون عليه

یہ آیت پڑھو۔ وان من اهل الكتب الا ليو من به قبل موته وایوم القيمة یتکون علیہم شہیدا۔

حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :-

یعنی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس طرح آیت کا پڑھنا اس کی دلیل ہے کہ یہ آدمیت کی تعمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مراجع میں یعنی ہر شخص نماز اُسکو میں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لے آتے گا۔

وهذا مصير من اقرها بركة رضى الله عنه اى ان الضمير في قوله به وموته يعود على عيسى عليه السلام اى الا ليو من به عيسى قبل موت عيسى۔
(فتح الباری ص ۳۰۳ ج ۱)

ایک وعیم کا ازالہ

منا صاحب کہتے ہیں کہ اقراوا ان شئتم الی آخرہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ ابوہریرہؓ کا استنباط ہے جو حجت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ حدیث مرفوعہ میں بلکہ صحابی کا اثر ہے۔

جواب

یہ ہے کہ حدیث، کتاب اللہ کی شرح ہے۔ قرآن کریم میں جو چیز اجمالاً مذکور ہے حدیث

اس کی تفصیل ہے۔ اس لئے فقہاء صحابہ اس تمتع اور نکاح میں رہتے تھے کہ احادیث نبویہ اور کلمات طیبہ کے غشا اور ماخذ کا پتہ کتاب اللہ سے چلائیں اور ارشادات نبویہ کا کلمات الہیہ سے استنباط کریں۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں تطبیق اور توفیق دینا اور حدیث کی تصدیق اور تردید توثیق کے لئے کتاب اللہ کی کسی آیت سے استشہاد کرنا یہ بہر شخص کا کام نہیں۔ جس کو خدائے تعالیٰ نے تفقہ اور استنباط کی نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا ہو وہی کر سکتا ہے اسی طرح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ اکثر حدیث کی روایت کر کے استشہاداً کوئی آیت تلاوت فرمایا کرتے ہیں اور وہ اکثر بہنی رائے سے نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ اس کی تصریح فرمادیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعض مرتبہ اختصاراً فقط آیت کی تلاوت پر ہی اکتفا فرماتے ہیں۔ لیکن تمتع اور استقراء جب کیا جاتا ہے تو دوسری سند سے اس کے مرفوع ہونے کی تصریح مل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت بھی اسی قبیل سے ہے اور اس کی چند نظائر ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں۔

نظیر اول

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال	ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے چھپیں وہ بڑھ کر ہے اور صبح کی جماعت میں دن اور رات کے قریشے جمع ہوتے ہیں، پھر ابوہریرہ روایت نے کہا کہ اگر قرآن سے اس کی تصدیق و تائید چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول تفضل صلوة البجیم صلوۃ احدکم وصدایا بخمس وعشرون جزءاً وتجتمع ملائکۃ اللیل والنہار فی صلوة الفجر ثم يقول ابوہریرۃ	قرآن العجوب کان مشہوداً

تظیر دوم

عن ابی ہریرۃ یقول قال انبی صلی
 اللہ علیہ وسلم لیس المستمن
 الذی لا واقوا ان ضمتہ یعنی قولہ
 تعالیٰ لا یسئلون الناس الخفافاً
 (اخراجہ البخاری ص ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳)
 فی مسندہ ص ۳۰۵ ج ۲

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں کہ جس کو
 ایک دو رقم دے کر واپس کر دیا جائے۔ اسل
 مسکین وہ ہے جو سوائے اس سے بچتا ہو اور اگر
 چاہو تو یہ آیت پڑھ لو لا یسئلون الناس
 الخفافاً (بخاری و مسند احمد)

تظیر سوم

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود
 الا یولد علی الفطرة فابواه یہودان
 ادینصرانہ او یمجسانہ کما تفتح البھیمة
 البھیمة جمعاء هل تحسون فیہ من
 جدعاء ثم یقول فطرة اللہ للفقیر
 الناس عینہ لا یتبدل لکن اللہ ذلک الدین الثقیم اہ - (بخاری شریف)

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت
 اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ
 یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اور اگر
 چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فطرة اللہ للفقیر
 الناس عینہ قاً۔ الآیۃ

تظیر چہارم

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ الخلق فمما فرغ من خلق من الروح فاحذت بحضرة الروح فقال لها ما قالمت ہذا مقام العائذ بک من القطیعة قال الا توضیبن ان اصل من وصلک واقطر من قطعتک قالت بلی یا رب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقرأوا ان شئتم فقل عسیتم ان تؤیتم ان نفسد وافی الارض و تقطعوا ارحامکم اخرج البخاری ۳۳۵ و فی روایة قال ابو ہریرۃ اقرؤا ان شئتم مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری ۳۳۵

ابو ہریرہ رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو شمالی طور پر قرابتوں نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم قرابت قطع کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جو تم کو وصل کرے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جو تم کو قطع کرے اس سے میں بھی قطع تعلق کروں ؟ قرابتوں نے عرض کیا کیوں نہیں اسے پروردگار اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تمہارے لئے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو

فَقُلْ عَسَىٰ أَنْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا الْأَرْحَامَ ۚ (بخاری شریف ۳۳۵)

تظیر پنجم

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالیٰ اعددت لعبادہ الصالحین ما لا

ابو ہریرہ رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ

نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھیں
اور نہ کانوں نے سنیں اور نہ کسی دل میں ان کا
خطرہ گذرا۔ اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۗ
(بخاری شریف و مسند احمد)

ہیں رات و لا اذن سمعت ولا خطر
عن قلب بشروا واقراوا ان شئتم فلا
تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة
اعین اذ۔
(الخروج البخاری ص ۲۳ و احمد بن حنبل)

نظیر ششم

ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے
جس کے سایہ میں سوار سو برس بھی چلے تو قطع
نہیں کر سکے گا۔ اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو
وَوَظِلٌّ مِّنْهُ زَوْجٌ
(بخاری شریف و
مسند احمد)

عن ابی ہریرۃ یبلغ بہ النبی صلی
اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ
شجرۃ لا یسیر النواکب فی ظلہا مائۃ عام
لا یقطعہن واقراوا ان شئتم ووظیل
ممننا ووجہ۔
(الخروج البخاری ص ۲۳ و احمد بن
حنبل فی مسندہ ص ۲۳)

نظیر ہفتم

ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ میں اس کی
جان سے زیادہ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت
میں قریبوں اور اگر چاہو تو یہ پڑھ لو التَّيْبِيُّ اُولَىٰ
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّفْسِ ۗ (بخاری شریف و

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال ما من مؤمن الا وانا
اولیٰ بہ فی الدنیاء والاخرۃ واقراوا ان
شئتم النبی اولیٰ بالمؤمنین من
النفس ۗ ۵۲۔ (الخروج البخاری ص ۲۳ و

تظہیر، مشتم

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقموا
الساعة حتی تظلم الشمس من مغربہا
فاذا طلعت در عند الناس امن من
عیبہا فذلک حین لا ینفخ نفسا ایمنہا
لو تکن امنة من قبل ذکسبت
فی ایمانہا خیرا . ۱۰
الخروج رقم الاحمد فی مسندہ
ص ۲۳۱ و ص ۳۶۸ و ص ۵۳۰
۲۳ ۲۳ ۲۳

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت
تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک آفتاب مغرب
سے طلوع نہ کرے اور جب آفتاب مغرب سے
طلوع ہوگا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو اس
وقت سب ایمان لے آئیں گے۔ مگر اس
وقت یہ ایمان نفع نہیں دے گا اور اگرچہ ہو
تو یہ آیت پڑھ لو لا یتقن نفسا ایمنہا .

مسند احمد

تظہیر، نعم

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یخصم
الشیطان الا ابن مریم و امہ رحمہ فقال
ابو ہریرۃ اقروا ان مشتم اقی اعیزھا
بک و ذریعتھ من الشیطان الرجیم .

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ کو شیطان ولادت کے
وقت کو چوم دیتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام اور
ان کی والدہ کہ وہ اس سے محفوظ رہے پھر ابو ہریرہ
نے کہا اگرچہ ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔

اقی اعیزھا کما یلک و ذریعتھ من الشیطان
الرجیم .

آہ مسند احمد ص ۳۳۲

تظیر دوم

عن ابی ہریرۃ فی حدیث صحیحین النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل عن الحمد
 الاعلیٰ فقال ما انزل اللہ علی فیہا الا
 هذه الایۃ الجامعۃ فمن یعمل مثقال
 ذرۃ خیر ابیرہ او من یعمل مثقال ذرۃ شر ابیرہ
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں دریافت
 کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں مجھ پر کوئی
 حکم نازل نہیں ہوا۔ مگر یہ آیت جامعہ حتمی
 یعمل مثقال ذرۃ خیر ابیرہ۔

(بخاری و مسلم و مسند احمد)

(بخاری و مسلم و مسند احمد ص ۲۳۲ ج ۲)

حضرت اہل انصاف کو ان نظائر سے غالباً یہ اچھی طرح متکشف ہو گیا ہو گا کہ حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کسی حدیث کے بعد کوئی آیت استشہاداً ذکر فرماتے ہیں تو وہ مرفوع بھی
 ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بعض رواۃ کہ اس کے مرفوع ہونے کا گمان ہے جیسا
 کہ مسند امام احمد بن حنبل کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

حدثنا عبد اللہ قال حدثني يزيد الناصبيان عن ابي هريرة عن حفظة
 عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم
 فيقتل الصليبيون ويحرقون الصليب اني ان قال شعرة ابو هريرة وان من اهل
 الكتب الا نيو مني به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيداً اه فرغ حفظة
 ان ابا هريرة قال يوم من به قبل موت عيسى فلا ادري هذا كله حديث
 النبي صلى الله عليه وسلم او شيء قال ابو هريرة انتهى۔

مسند ص ۲۱۲ ج ۲ و انور جہ ابن کثیر ص ۲۳۵ ج ۲

یعنی حفظہ کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ روایت اول تا آخر سب حدیث

مرفوع ہے یا آخری حصہ ابوہریرہؓ کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔
 اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے
 منقول کیا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی کل روایتیں مرفوع ہیں۔ گو بظاہر وہ موقوف ہوں
 عن محمد بن سید بن ابیہ، کان اذا حدث عن ابی ہریرۃ فقیل لہ
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کل حدیث ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم۔ انتہی۔ شرح معانی الآثار ص ۱۰۱ باب سورۃ النورۃ۔

اور جلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر درمنثور کے ص ۲۲۲ ج ۲ پر اس روایت کو مرفوعاً
 نقل فرمایا ہے وہ یہ ہے:-

اخو حجاج بن مردویہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم عدلاً یقتل الدجال ویقتل الخنزیر
 ویکسر الصلیب ویضہ الجزیۃ ویفیض المال حتی یکون السجدۃ
 واحداً لا للہ رب العلمین واقرأوا ان شئتم و ان من اهل الکتب
 الا لیومن بہ قبل موتہ ط موت عیسیٰ بن مریم ثم یعبدها ابوہریرۃ
 ثلاث مرۃ۔ انتہی۔

اور تم یعبداھا کا لفظ نہایت صاف طور سے اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس سے
 ما قبل کا سب حصہ مرفوع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اگر بالفرض
 یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ ابوہریرہؓ ہی کا قول ہے تب بھی حجت ہے۔ ایک صحابی کا
 صحابہ کرام کے مجمع میں کسی بات کو علی الاعلان کہنا اور صحابہ کرام کا اس پر سکوت فرمانا
 یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے اور صحابہ کرام کا اجماع بہ اتفاق علمائے امت حجت قاطعہ
 ہے۔ اور خصوصاً وہ بات کہ جو بار بار اور مختلف مجامع میں کہی گئی ہو اور صحابہ نے اس پر
 کوئی اعتراض نہ فرمایا ہو اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ یہ امر صحابہ کے نزدیک بالکل مسلم

ہے اگر قابل انکار ہوتا تو ضرور صحابہ اس پر انکار فرماتے۔ صحت یہ کرام سے یہ ناممکن ہے کہ ان کے سامنے کوئی قول منکر کہا جاتے اور وہ اس پر انکار نہ فرمائیں۔ اسی طرح حضرت ابیہریرہؓ کا قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کرنا اور صحابہ کرامؓ سے مجامع اور مجالس میں اس کو بار بار بیان فرماتا اور کسی صحابی کا اس میں انکار نہ کرنا اس امر کی قطعی اور صریح دلیل ہے کہ یہ امر تمام صحابہ کے نزدیک مسلم تھا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں۔

وقد اختلفوا في كون الضمير بعيسى ابن
جبريل وانه قال جماعة من السلف وهو
انضموا لانه تقدم ذكر عيسى وذهب كثير
من التابعين فمن بعدهم الى ان العمود
قبل موت عيسى كما روي عن ابن عباس
قبل هذا - فتح الباءى
طرف ہیں کہ آیت کی مراد یہ ہے کہ قبل موت عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے جیسا
کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے۔

دونوں ضمیروں کا یعنی بہ اور موتہ کی ضمیر
کا حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہونا اس کو امام
ابن جریر اور سلف کی ایک جماعت نے راجع
قرآن دیا ہے اور قرآن کریم کا سیاق بھی اس کو
ہے کیونکہ گذشتہ کلام میں حضرت عیسیٰ ہی کا ذکر
ہے اور تابعین اور تبع تابعین کثرت سے ہی

قول ثانی

آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ بہ کی ضمیر تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف
راجع ہے اور قبل موتہ کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے
کہ ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت اور ان کی عبدیت پر
ایمان لے آتا ہے جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت و ان من اهل الكتاب اذ
يؤمنون به قبل موتهم اسی معنی کی صریح مراد ہے یعنی ہمیں ہے کوئی اہل کتاب ہیں سے

مگر وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت و رسالت پر یعنی اس بات پر کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ خدایا اور خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ مگر یہ ایمان چونکہ خروج روح کے وقت ہوتا ہے۔ اس لئے شرعاً معتبر نہیں اور نہ آخرت میں نجات کے لئے کافی ہے۔ اس قرأت میں بجائے قَبْلَ مَوْتِهِ کے قَبْلَ مَوْتِهِمْ بھیندہ جمع آیا ہے جو صراحتاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قَبْلَ مَوْتِهِمْ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے۔ لہذا اسی طرح دوسری قرأت میں بھی قَبْلَ مَوْتِهِ کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہونی چاہیے، تاکہ دونوں قرأتیں مستفح ہو جائیں۔ حافظ عسقلانی فتح الباری ص ۳۳ ج ۶ میں فرماتے ہیں۔

درجہ۔ جماعة هذا المذهب بقراءة
 ابی ابن کعب الا لیموتن بالضم بیہ
 قبل موته ای اهل الكتاب قال النوری
 معنی الزیة علی هذا لیس من اهل
 المکتب اذ یحضر الموت الا امن
 عند المعانیة قبل نحو ای روحه یعنی
 علیه السلام وان عبد الله ولكن لا
 ینفعه هذا الا یمان فی تلك الحالة
 كما قال الله عز وجل ولیست التوبة
 للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر
 احدهم الموت قال ابی تبت الان

علماء کی ایک جماعت نے ابی بن کعب کی قرأت
 کی بناء پر اس قول کو راجع قرار دیا ہے کہ موت
 کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہے اور اس قول
 کی بناء پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر کتابی
 اپنی روح نکلنے سے پہلے اس بات پر ایمان
 لے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے
 اور رسول تھے۔ مگر ایسی حالت میں ایمان اس
 کو نافع اور مفید نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے ولیست التوبة الا معنی جب موت
 آجائے تو اس وقت توبہ مقبول نہیں۔

فتح الباری

{ فتح الباری ص ۳۳ ج ۶ }

ترجیح النجیح و صحیح اصح

جمہور ملت اور خلفائے نزدیک آیت کی تفسیر میں راجح اور مختار قول اول ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اس قول کا دار و مدار ابی بن کعب کی قرأت پر ہے اور یہ قرأت شاذ ہے۔ کسی صحیح یا سند سے بھی ثابت نہیں۔ سند کے راوی ضعیف اور مہرج ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں اس قرأت کی اسانید مذکور ہیں اور علی بن ابی اسباب میں جس قدر روایتیں ابن عباس رض سے مروی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں امام جلیل و کبیر حافظ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں

واولیٰ هذا الاقوال بانصحة القول الاول وهو انه لا يبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام الا من به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام ولا مثلك ان هذا الذى قاله ابن جرير هو الصريح لان المقصود من سياق الاى و هذا القول هو الحق كما سنبينه بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحیح قول فقط یہی ہے کہ دونوں ضعیف ہیں عینی علیہ السلام کی طرف راجح ہیں اور آیت کی تفسیر اس طرح کی چلتے کہ آئندہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں تمام اہل کتاب عینی علیہ السلام کے نزول کے بعد میان لے آئیں گے کہ عینی علیہ السلام ہے شک نہ سوں ہیں اور یہی ابن جریر علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی صحیح اور درست ہے۔

آقا تفسیر ابن کثیر ص ۲۳ ج ۲

سب سے کبیر تمہیں سبحان آیت سے عینی علیہ السلام ہی کا ذکر مقصود ہے اور یہی قول حق ہے جیسا کہ ہم ان کو دلیل قطعی سے ثابت کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر اختیار ہے اور اسی پر

بھروسہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔

اور دلیل قطعی سے وہ احادیث متواترہ مراد ہیں کہ جن میں صراحتاً یہ مروی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس وقت کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے بسے۔

تطبیق و توفیق

جاننا چاہیے کہ دو قراءتیں دو مستقل آیتوں کا حکم رکھتی ہیں۔ ابی بن کعب کی قرات سے ہر کتابی کا اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت پر ایمان لانا معلوم ہوتا ہے اور قرات متواترہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ آئندہ میں تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان دونوں قراءتوں میں کوئی تناقض نہیں دونوں حق ہیں۔ ہر ایک قرات بمنزلہ مستقل آیت کے ہے جو حجت ہے ہر کتابی اپنے مرنے کے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور جب قیامت کے قریب حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت بھی ہر کتابی حضرت مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ قرات متواترہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے اس ایمان کا ذکر ہے۔ جو نزول کے بعد لائیں گے۔

اور ابی بن کعب کی قرات شاذہ میں حضرت مسیح کی حیات اور نزول کا ذکر نہیں۔ حیات کا ذکر ہے نہ وفات کا۔ فقط اہل کتاب کے اس ایمان کا ذکر ہے کہ جو اہل کتاب اپنی روح نکلتے وقت لائے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر قرات میں ایک جدا واقعہ کا ذکر ہے جیسا کہ آیت غیبت الزوم میں در قرأتیں ہیں ایک محدث اور ایک جموں۔ اور ہر قرات میں حضور علیہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے یہی وجہ ہے کہ جن حضرات صحابہ اور تابعین سے یہ قرات

شاذہ منقول ہے وہ سب کے سب بالاتفاق حضرت مسیح علیہ السلام کے مجبوراً انصاری
 آسمان پر اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب آسمان سے اترنے کے بھی قاسم ہیں۔ چنانچہ
 تفسیر درمنثور میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محمد بن المنفیع سے مروی ہے
 کہ لوگ حضرت مسیح سے پہلے مریں گے وہ اپنی موت کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام
 پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو اہل کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ نزول کو پائیں گے
 وہ تمام حضرت مسیح پر حضرت مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ لہذا ابی
 بن کعب کی قرأت نزول عیسیٰ سے پہلے مرنے والوں کے حق میں ہے اور قرأت متواترہ
 ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جو نزول کے بعد حضرت مسیح کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے

۱۔ وہ روایت یہ ہے۔ اخرج ابن المنذر عن ثمر بن حوشب قال قال لي الحجاج يا ثمر آيت
 من كتاب الله ما قرأه تبارك الا اعتراض في نفس مناشئ قال الله وان من اهل الكتاب الا يؤمنن
 به قبل موته واني اوتى بالاسارى فاضرب اعناقهم ولا اسمعهم يقولون شيئاً فقلت انك
 على غير وجهها ان النصراني اذا خرجت روحه من بين الملائكة من قبله ومن دبره وقالوا اي
 غيبه ان المسيح الذي زعمت انه الله وابن الله او ثالث ثلثه - عبد الله ورواه وكلمته
 فيؤمن من حين لا يتفهم ايمانه وان اليهودي اذا خرجت نفسه من بين الملائكة من قبله ودبره
 وقالوا اي غيبه ان المسيح الذي زعمت انك قبلته عبد الله ورواه فيؤمن من حين لا يتفهم
 الايمان فاذا كان عند نزول عيسى آمنت به احياء هم كما آمنت به موتاً هم فقال من اين
 نزلت فقلت من محمد بن علي قال لقا خذتها من معدن قال شبهه واهم الله ما حد ثيبه الا وكفى
 احببت ان اغيظه ۱۲ تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۷۰

پھر یہ کہ اہل کتاب جو اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے ہیں، وہ بھی یہی ایمان لائے ہیں کہ عیسیٰ ابھی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ صبح و ساط آسمان پر اٹھائے گئے جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

اخبرہ عبد بن حمید وابن المنذر عن شہر بن حوشب فی قوله تعا
وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موتہ عن محمد بن علی
ابن ابی طالب وهو ابن الحنفیة قالہ قال لیس من اهل الکتاب
احد الا انتہ المذککة یضربون وجہہ ودبرہ ضربتین یا عدو اللہ
ان عیسیٰ روحہ اللہ وکلمتہ کذبت علی اللہ وزعمت انه اللہ ان
عیسیٰ لم یمت وانہ رفع الی السماء وهو نازل قبل ان تقوم الساعة
فلا ینتی یهودی ولا نصرانی الا من بہ انتہی۔ تفسیر درمنثور ص ۲۳۲

(ترجمہ) عبد بن حمید اور ابن منذر نے بروایت شہر بن حوشب محمد بن علی بن الحنفیہ سے آیت **وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ** کی تفسیر اس طرح روایت کی ہے کہ نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر آتے ہیں فرشتے اس کی موت کے وقت اسے خوب سارتے ہیں اس کے چہرے اور سر پر اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن! بے شک عیسیٰ اللہ کے خاص روح ہیں تحقیق عیسیٰ ابھی نہیں مرے اور تحقیق آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے پس اس وقت کوئی یودی اور نصرانی باقی نہ رہے گا۔ مگر حضرت مسیح پر ضرور ایمان لائے گا۔

عجب نہیں کہ جس طرح مشرکین کو مرنے کے وقت عقیدہ فاسدہ پر توجیح اور سرزنش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ کی بنا پر توجیح کی جاتی ہے۔ کہنا قال ان الذین کفرہم اللہ لیسوا فی القلوب انفسہم
فانکروا انکم ما لستم بالکافرین من شروہ

امام ابن جریر اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب موت کا نزول ہوتا ہے تو حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے جیسا تک دین حق اور دین باطل کا ہتھیار نہ ہو جائے اس وقت تک روح نہیں نکلتی۔ اسی طرح ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس پر حق واضح ہو جاتا ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

تیسری دلیل

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ شَاطِرُ الْمُكَرِمِينَ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْفَعْكَ إِلَىٰ دُمُوطٍ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَٰلِكُمْ الَّذِي تَبِعُواكَ فَهَٰؤُلَاءِ سَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

ترجمہ و تفسیر

یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے اور قتل کرنے کی نھنیہ تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور عصمت کی ایسی تدبیر فرمائی، جو ان کے وہم و گمان سے بھی بالا اور برتر تھی۔ وہ یہ کہ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا اور یہودی جب گھر میں داخل ہوئے تو اس ہم شکل کو پکڑ کر لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرماتے

والے ہیں۔ کوئی تدبیر اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پریشانی دور کرنے کے لئے یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ تم گھبراؤ نہیں تحقیق میں تم کو تمہارے ان دشمنوں سے ہلکے اس جہان ہی سے پورا پورا لے لوں گا اور بھارتے اس کے کہ یہ ناہنجار تجھ کو پکڑ کر لے جائیں اور صلیب پر چڑھائیں میں تجھ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور آسمان پر اٹھاؤں گا کہ جہاں کوئی پکڑنے والا پہنچ ہی نہ سکے اور تجھ کو ان ناپاک اور گندوں سے محال کر پاک اور صاف اور معطر اور معطر جگہ میں پہنچا دینا گا کہ تجھ کو کفر اور عداوت کا رانٹہ بھی محسوس نہ ہو اور یہ ناہنجار تجھ کو بے عزت کر کے تیرے اور تیرے دین کے اتبوع سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس کے بالمقابل تیرے پیروؤں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غائب اور فائق رکھوں گا تیرے خدام اور غلام ان پر حکم دیاں ہوں گے اور یہ ان کے محکوم اور باج گزار ہوں گے۔ قیامت کے قریب تک یوں ہی سلسلہ رہے گا کہ نصاریٰ ہر جگہ یہود پر غائب اور حکمران رہیں گے اور یہود اپنی ذلت و مسکنت کا اور حضرت مسیح بن مریم کے نام لیاؤں کی عزت و رفعت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے اور اندر سے تلملے رہیں گے۔ یہاں تک کہ جب قیامت قریب آجائے گی اور جہاں کو جہنم سے چھوڑ دیا جائے گا تاکہ یہود بے بہرہ اپنی عزت اور حکومت قائم کرنے کے لئے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں تو یہ ایک عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد جاہ و جلال آسمان سے نازل ہوں گے اور جہاں کو جو یہود کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا اس کو تو خود اپنے دست مبارک سے قتل فرمائیں گے اور باقی یہود کا قتل و قتال اور اس جماعت کا بالکلہ استیصال امام مہدی اور مسلمانوں کے سپرد ہوگا۔ جہاں کے متبعین کو چن چن کر قتل کیا جائے گا نزول سے پہلے یہود اگرچہ حضرت مسیح کے غلام اور محکوم تھے مگر زندہ رہنے کی نواہزت

تھی مگر حضرت مسیح کے نزول کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت نہ رہے گی ایمان لے آؤ یا اپنے دہرے سے بھی دست بردار ہو جاؤ اور نصاریٰ کو حکم ہوگا کہ میرے الو میت بہت کے عقیدہ سے تائب ہو جاؤ اور مسلمانوں کی طرح مجھ کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھو اور صلیب کو توڑ دوں گے اور شہنشاہ کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے اور سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ فرمائیں گے۔

الغرض نزول کے بعد اس طرح تمام اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں **شَهْرًا نَبِيًّا مَّرَجَعَكُمْ فَاخْتُمُ بَيْنَكُمْ فِيهَا كَذِبًا وَتَحْتَفِظُونَ** پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے یہود کا یہ زعم باطل ہو جائے گا کہ تم نے حضرت مسیح کو قتل کر دیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ **ذَقُوا لِحْمِ اَنَا قَتَلْنَا النَّبِيَّ عِيسَىٰ مِنْ مَرْجَمٍ ذَمُّوا اللّٰهَ** اور نصاریٰ کا یہ زعم باطل ہوگا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں اور نبیات مسیح کے مسئلہ کا فیصلہ ہو جائے گا اور زور و روشن کی طرح تمام عالم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترے ہیں۔

لفظ توفیٰ کی تحقیق

قبل اس کے کہ ہم آیات کی مفصل تفسیر کریں لفظ توفیٰ کی تحقیق ضروری سمجھتے ہیں۔ توفیٰ وفا سے مشتق ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں۔ یہ مادہ خواہ کسی شکل اور کسی بہنیت میں ظاہر ہو مگر کمال اور تمام کے معنی کو ضرور لئے ہوئے ہوگا کما قال تعالیٰ **اَوْحٰی اِبْرٰهٖمَ نِیْ اٰوٰیۃٍ بِعَهْدِکُمْ** تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا **وَقَالَ تَعَالٰی وَاَوْفِ الْیٰمِیۡنَ اِذَا کُنْتُمْ نَابِ** کو پورا کرو جب تم نابو یوفون یا نذکر اپنی

نذر وہی کو پورا کرتے ہیں **وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** جزا میں نیست کہ تم پورا پورا اجر قیامت کے دن دیئے جاؤ گے۔ یعنی کچھ ٹھہرا بہت اجر کو دنیا میں بھی مل جائے گا مگر پورا پورا اجر قیامت کے دن ہی ملے گا۔

اور لفظ توفیٰ جو اسی مادہ یعنی وقاس سے مشتق ہے اس کے اصلی اور حقیقی معنی اخذ الٰہی و انبیا کے ہیں یعنی کسی چیز کو پورا پورا ملے لینا کہ باقی کچھ نہ رہے قرآن اور حدیث اور کلام عرب میں جس جگہ بھی یہ لفظ مستقل ہوا ہے سب جگہ توفیٰ سے استیفاء اور اکمال اور اتہام ہی کے معنی مراد لئے گئے ہیں۔ توفیٰ سے اگر کسی جگہ موت کے معنی مراد لئے گئے ہیں تو وہ کنایہ اور لزوم مراد لئے گئے ہیں اس لئے کہ استیفاء عمر اور اتہام عمر کے لئے موت لازم ہے۔ توفیٰ عین موت نہیں بلکہ موت تو توفیٰ بمعنی اکمال عمر اور اتہام زندگی کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے چنانچہ لسان العرب ص ۲۰۲ ج ۲ میں ہے:-

توفی الیبت استیفاء مدته الق وفیت الی وعدد ایامہ وشہوسہ وواعوامہ فی الدنیا۔

یعنی میت کے توفیٰ کے معنی یہ ہیں کہ اس کی مدت حیات کو پورا کرنا اور اس کی دنیاوی زندگی کے دنوں اور مہینوں اور سالوں کو پورا کر دینا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا وصال یا انتقال ہو گیا۔ وصال کے اصلی معنی ملنے کے ہیں اور انتقال کے اصل معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کے ہیں۔ بزرگوں کی موت کو موت کے لفظ سے تعبیر کرنا عرف میں خلاف ادب سمجھا جاتا ہے اس لئے بجائے موت کے لفظ وصال اور انتقال مستعمل ہوتا ہے یعنی اپنے رب سے جا ملے اور دار فانی سے دار جاوداتی کی طرف انتقال فرمایا اور کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ رحلت فرماتے عالم آخرت ہوئے یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس عالم سے رحلت ہوا یا فلاں شخص گزر گیا۔ تو کیا اس استعمال سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وصال اور انتقال اور رحلت اور رحلت وغیرہ ان الفاظ کے حقیقی اور اصلی معنی موت کے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اصلی اور

حقیقی معنی تو اور ہیں۔ تشریح اور تکریم کی غرض سے ہر رنگوں کی موت کو وصال اور انتقال کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ اسی طرح توفی کے لفظ کو سمجھے کہ اصلی اور حقیقی معنی تو استیفاء اور اکمال کے ہیں۔ مگر بعض مرتبہ بغرض تشریح و تکریم کسی کی موت کو توفی کے لفظ سے کنایہ تعبیر کر دیا جاتا ہے جس سے قادیان اور ربوہ کے احمق اور نادان یہ سمجھ گئے کہ توفی کے حقیقی معنی ہی موت کے ہیں۔

علامہ زہد شریسی اساس البلاغہ ص ۳۰۴ ج ۲ میں تصریح فرماتے ہیں کہ توفی کے حقیقی اور اصلی معنی استیفاء اور اشکال کے ہیں اور موت کے معنی مجازی ہیں۔

وفی بالعقد وادنی بہ وهو ذوق قوم وھما ووفیاً ووفاء واستوفیاً
وتوفیاً الاستحکامہ ومن المدح ان توفی وتوفاه انھا درکتہ
الوف . . . ۵۱

اور علیٰ ہذا علامہ زمیدی تاج العروس شرح قاموس ص ۳۹۴ ج ۱۰ میں فرماتے ہیں۔

وفی النبی وفیاتہ وکثر ظهور فی وفات بمعنی واحد وکل شیء
بلغ الکمال فقد و فی وکن و منہ او فی فلان أحقہ اذا اعضاءہ ووفیاً
ووفیاً وناستوفی وتوفیاً ای لمدیدہ شیباً ظہرہا مطاوعاً لوفیاء
وفیاء ومن المدح ان توفی ووفی انالی النبیۃ والموت وتوفی فلان
اذا مات وتوفیاً انہ عز وجل اذا قبض نفسه آہ۔

اب ہم چند آیتیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جس سے صاف طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ توفی کی حقیقت موت نہیں بلکہ توفی موت کے علاوہ کوئی اور شے ہے۔

آیت اول

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ بِحَيَاتِ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا أَفْئِدَةً
الَّتِي قَطَعْنَا بَلَدِهَا الْوَمُوتَ وَيُرْسِلُ
الْأَنْحُرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔

یعنی اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے، اروحوں کو جب
وقت ہو ان کے مرنے کا اور جو نہیں مریں
ان کو قبض کرتا ہے وقت نیند کے پس
روک لیتا ہے ان کو حزن پر مقدر کی ہے اور
واپس بھیج دیتا ہے انکو وقت مقرر تک۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ توفی بعینہ موت کا نام نہیں بلکہ توفی موت
کے علاوہ کوئی اور شے ہے کہ جو کبھی موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے اور کبھی نیند کے ساتھ
یعنی تمہاری جانیں نہ لگے قبضہ اور تصرف میں ہیں۔ ہر روز سوتے وقت تمہاری جانیں
کھینچتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے مرنے تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور جب موت
کا وقت ہوتا ہے تو پھر جان کھینچنے کے بعد واپس نہیں کی جاتی۔

خلاصہ یہ کہ آیت ہذا میں توفی کی موت اور نیند کی طرف تقسیم اس امر کی صریح دلیل
ہے کہ توفی اور موت الگ الگ چیزیں ہیں اور حیۃ مَوْتِہَا کی قید سے بھی یہی معلوم ہوتا
ہے کہ توفی موت کے وقت ہوتی ہے عین موت نہیں وہ نہ خود شے کا اپنے لئے ظرف ہونا
لازم آتا ہے لسان العرب سے ہم ابھی نقل کر چکے ہیں کہ توفی کے معنی استیفاء اور استکمال
ہیں کسی شے کو پورا پورا لینے کے ہیں۔ صاحب لسان توفی کی حقیقت میں کہ فیض کے بعد توفی
موسوئی کی تفسیر فرماتے ہیں۔

ومن ذلك قوله عز وجل: اللَّهُ
يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حَيَاتِ مَوْتِهَا
يَسْتَفِي هَذَا جَانِهَا فِي الدُّنْيَا وَهَذَا

یعنی مرنے کے وقت جان اور روح پر
پورے لے لی جاتی ہے اور نیند کے وقت عقل
اور ادراک اور ہوش اور قیاس کو پورا پورا لے لیا

توفی الناشر فهو استيفاء وقت هلكه جاتا ہے۔

وتبنيها الى ان نام۔ لسان العرب ص ۳۷

حاصل یہ کہ توفی کے معنی تو وہی استيفاء اور اخذ الشئ و افيا یعنی شے کو پورا پورا لینے ہی کے رہے۔ توفی میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں صرف توفی کے متعلق میں تبدیلی ہوئی۔ ایک جگہ توفی کا متعلق موت ہے اور دوسری جگہ نوم (نیند)

آیت دوم

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ۔ وہی ہے کہ جو تم کو رات میں پورا پورا کھینچ لیتا ہے

اس مقام پر بھی توفی موت کے معنی میں مستعمل نہیں ہوا بلکہ نیند کے موقع پر توفی کا استعمال کیا گیا۔ حالانکہ نوم میں قبض روح پورا نہیں ہوتا۔

آیت سوم

حَقُّ يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتِ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کر کے ہیں۔

مناں کہ عمر ایشاں را تمام کند مرگ

یعنی یہاں تک کہ موت ان کی عمر تمام کر دے۔

اس آیت میں توفی کے معنی اتمام عمر اور اکمال عمر کے لئے گئے ہیں علاوہ ازیں نثر آں پاک میں جا بجا موت کے مقابلہ میں حیات کو ذکر فرمایا ہے۔ توفی کو حیات کے مقابل نہیں ذکر فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ توفی کی حقیقت، موت نہیں۔ ورنہ اگر توفی کی حقیقت موت ہوتی تو جس طرح جا بجا موت کے مقابل حیات کا ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح توفی کے مقابل میں حیات کا ذکر کیا جاتا۔ چند آیتیں بدیہ ناظرین کرتے ہیں جن میں حق تعالیٰ نے

حیات کو موت کے مقابل ذکر فرمایا ہے تو فی کے مقابل ذکر نہیں فرمایا۔ قال تعالیٰ

(۱) يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ تُغَايَىٰ كَيْفَ آتَا أَمْوَانًا

(۲) يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ۗ (۳) هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَىٰ (۵) يُخْرِجُ الْحَيَّ

مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (۶) أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ ۚ

(۷) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (۸) لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

(۹) كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ (۱۰) يُحْيَىٰ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

ان آیات اور آئمہ لغت کی تصریحات سے یہ بات بخوبی منکشف ہو گئی کہ توفی کی حقیقت موت نہیں بلکہ توفی ایک جنس کا درجہ ہے جس کے تحت میں کئی فرد مندرج ہیں۔ حیوانیت کبھی انسانیت میں ہو کر پائی جاتی ہے اور کبھی فرس کے ساتھ وغیر ذلک چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لفظ التوفی فی لغت العرب معناه	لفظ عرب میں توفی کے معنی استیفاء پورا
الاستیفاء والغبض و ذلك ثلاث	پورا لینے کے ہیں اور توفی کی تین قسمیں ہیں
الاولی احدھا توفی النوم، والثانی	ایک توفی نوم یعنی نیند اور خواب کی توفی اور
توفی الموت، والثالث توفی الروح	دوسری توفی موت کے وقت روح کو پورا پورا
والبدن جمیعاً ۵	قبض کر لینا۔ تیسری توفی الروح والبدن یعنی

روح اور جسم کو پورا پورا لے لینا۔ آ۵۔

الجواب الصحیح ص ۲۳۳

یعنی روح اور جسم دونوں کو آسمان پر اٹھا لینا اور جن آئمہ لغت نے توفی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ فقط قبض روح کو توفی کہتے ہیں۔ اور اگر قبض روح مع البدن ہو تو اس کو توفی نہیں کہتے بلکہ اگر قبض روح کے ساتھ قبض بدن بھی ہو تو بدرجہ اولیٰ توفی ہوگی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ توفی ایک جنس ہے اور

کسی شخصے کو پورا پورا لینے کے ہیں اور یہ کسی کتاب میں نہیں کہ توفی کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ اگر کسی مرزائی سے ممکن ہے تو لغت کی کوئی کتاب لادکھاوے جس میں یہ تصریح ہو کہ توفی کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ بلکہ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہاں کہیں بھی لفظ توفی آیا ہے سب جگہ توفی کے اصلی اور حقیقی ہی معنی مراد ہیں یعنی استیفاء اور استكمال۔ مگر چونکہ عمر کے پورا ہوجانے کے بعد موت کا تحقق لازمی ہے اس لئے مجازاً یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں موت کے معنی مراد ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ توفی کے اصلی معنی پورا وصول کرنے اور ٹھیک لینے کے ہیں۔ قرآن کریم نے لفظ توفی کو نوم اور موت کے معنی میں اس لئے استعمال کیا کہ اہل عرب پر موت اور نوم کی حقیقت واضح ہوجائے۔ جاہلیت دہلے اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ موت اور نوم میں حق تعالیٰ کوئی چیز بندہ سے لیتے ہیں عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مر کر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ موت کو فنا اور عدم کے مترادف سمجھتے تھے اس لئے وہ بعثت اور نشاء ثانیہ کے منکر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے روئے لئے ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِي دُوِّنَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ ان منکرین بعثت سے کہہ دیجئے کہ مر کر تم فنا نہیں ہوتے بلکہ موت کا فرشتہ تم سے اللہ کا پورا پورا حق وصول کر لیتا ہے یعنی وہ ارواح کہ جو اللہ کی امانت ہیں وہ تم سے لے لی جاتی ہیں اور اللہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہی ارواح تمہارے اجسام کے ساتھ متعلق کر کے حساب کے لئے پیش ہوں گی۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو دھڑکھتے ہو کہ ناک میں رزل گئے تم جان ہو وہ فرشتہ لے جاتا ہے فنا نہیں ہوتے۔ انہی۔

شاہ صاحب نے اپنے ان مختصر الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کی

ہم نے وضاحت کی۔ اس آیت میں بھی توفیٰ کے معنی موت کے نہیں بلکہ حق وصول کرنے کے ہیں۔ موت دینے والا تو صرف وہی محی اور ممیت ہے۔ ملک الموت تو اللہ کا حق وصول کرنے والا ہے۔

آیت توفیٰ کی تفسیر

جب توفیٰ کے معنی معلوم ہو گئے تو اب آیت توفیٰ کی تفسیر سنیے یہود بے بہورد نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں شروع کیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا۔ لہذا قَالَ فَذَلِمَا أَحْسَنَ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی فرمائی کہ اے عیسیٰ گھبراؤ مت۔ یہ تو تدبیریں کر ہی رہے ہیں ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے ان پانچ وعدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے ایک توفیٰ، دوم رفع اور تطہیر من الکفار یعنی کافروں سے پاک کرنا اور چہارم متبعین کا نکرین پر قیامت تک غالب اور فائز رہنا اور پنجم فیصلہ اختلافات اول کے تین وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات یا برکات کے متعلق ہیں اور چوتھا خدام کے متعلق ہے اور پانچواں وعدہ فیصلہ کے متعلق ہے جس کا تعلق سب سے ہے۔

(۱) وعدہ توفیٰ

بمورد صحابہ اور تابعین اور امامت و خلفت اس طرف گئے ہیں کہ آیت میں توفیٰ سے موت کے معنی مراد نہیں بلکہ توفیٰ کے اصل اور حقیقی معنی مراد ہیں یعنی پورا پورا اندر ٹھیک ٹھیک سے لینا۔ لیونکہ مقدمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی اور تسکین ہے

کہ اسے نیشی تم ان دشمنوں کے ہجوم اور زرخند سے گھیراؤ نہیں میں تم کو پورا پورا روح اور جسم سمیت ان نابکاروں سے چھین لوں گا۔ یہ نابکار اور ناہنجار اس لائق نہیں کہ تیرے وجود یا وجود کو ان میں رہنے دیا جاتے۔ اس ناقدر ذاتی اور ناسپاسی کی سزا یہ ہے کہ ان سے اپنی نعمت واپس لے لی جائے۔ حضرت مولانا الشاہ سید محمد انور نور

اشد رحمة يوم القيمة ونضر آئین) فرماتے ہیں۔

وماخذ منهم عيسى اليبس

یہ چہرے خیر کے قابل نہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے لے کر اپنی طرف کھینچ لیا۔

ويرفعه ولا يبقيه فيهم

كاخذ الشيء لم يشكر عليه

اور اپنی طرف اٹھا لیا اور ان میں نہ چھوڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے ایسا لے لیا جیسا کہ اس شے کو لے لیا جاتا ہے کہ جس کی ناقدری کی جائے۔

وحيد كما يحاذر الشئ حفظا

داواه اولى ماوى لذي

اور ان سے چھین کر اپنے پاس محفوظ رکھا اور اپنے یہاں ان کو ٹھکانا دیا۔ اس مقام پر موت کے معنی مناسب نہیں اس لئے کہ جب ہر طرف سے خون کے ہیلے اور جان کے لیوا کھڑے ہوئے ہوں تو اس وقت تسلی اور تسکین خاطر کے لئے موت کی خبر دینا یا موت کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ دشمنوں کا تو مقصود ہی جان لینا ہے اس وقت تو مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم گھیراؤ نہیں ہم تم کو تمہارے دشمنوں کے زور سے صبح و ساء نکال لے جائیں گے۔ تمہارا بال بھی یہاں نہ ہوگا۔ ہم تم کو دشمنوں کے درمیان

سے اس طرح اٹھالیں گے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا سایہ بھی نہ ملے گا آیت میں اگر توفی سے موت کے معنی مراد ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو تسلی نہ ہوگی۔ البتہ یہودی تسلی ہوگی اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ اے یہود! تم بالکل نہ گھبراؤ اور نہ مسیح کے قتل کی فکر کرو۔ میں خود ہی ان کو موت دوں گا اور تمہاری تمنا اور آرزو پوری کروں گا خود بخود تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ تمہیں کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔

(۲)

بیزیرہ کہ توفی بمعنی الموت تو ایک عام شے ہے جس میں تمام مومن اور کافر، انسان اور حیوان سب ہی شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے جو خاص طور پر ان سے توفی کا وعدہ فرمایا گیا؟ قرآن کریم کے تتبع اور استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ توفی کا وعدہ حق تعالیٰ نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی سے نہیں فرمایا۔

(۳)

زیرہ تَمَكْرًا وَمَكْرًا اِنَّهُ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توفی سے پورا پورا لینا اور آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہو کیونکہ باجماع مفسرین وَمَكْرًا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلیب کی تدبیر مراد ہیں اور مَكْرًا اِنَّهُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تدبیر مراد ہے اور مَكْرًا اِنَّهُ کو مَكْرًا کے مقابلہ میں لالے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہود کا مکر اور ان کی تدبیر تو نیست اور ناکام ہوئی اور اللہ سبحانہ کا مکر اور اس کی تدبیر غالب

عہ قول تعالیٰ وَمَكْرًا اِنَّهُ بِالْقَلْبِ وَمَكْرًا اِنَّهُ بِالرَّفْعِ الِ السَّمَاوَاتِ اِنَّ التَّفْسِيرَ الْكَبِيرَ ص ۲۶۳ ج ۲۔ ابن کثیر ص ۲۲۹ ج ۲۔ در مشورہ ص ۳۶ ج ۲۔ کشاف ص ۳۹ ج ۱۔ ابن جینادی ص ۱۱ ج ۲۔ بحر المحیط ص ۴۲ ج ۲۔ ص ۲۰۵ ج ۲۔ روح المعانی ص ۲۰۰ ج ۲۔ والسراج المنیر ص ۱۱۵ ج ۱۔ تاریخ کامل ابن الاثیر ص ۱۰۰ ج ۱۔ جلالین ص ۵۰۔ ابوالسعود ص ۱۳۵ ج ۱۔

غالب علی امرہ - جیسے :-

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا أَوْ الْكَيْدُ
كَيْدًا -

وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیر
کر رہا ہوں -

اور دوسری جگہ ارشاد ہے :-

كَالْوَأْتِقَاتِ إِذْ يَقُولُنَّ يُبَيِّتُنَا
وَآهْلَنَا شَرًّا لَنْ نَكُونَنَّ لَهُنَّ لِيُؤْتِيَهُنَّ مَا
شَرِهْنَ نَأْتِيَنَّكُمْ أَهْلِيهِنَّ وَإِنَّا لَنَصِدُقُنَّ
وَمَكْرُؤًا صَفِيًّا وَمَكْرُؤًا مَسْكُورًا
وَهُنَّ كَالْبَشِيرِ قَوْمٌ فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْرِمِينَ
إِنَّا دَسَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْعَلِينَ -

قوم نمود نے آپس میں کہا کہ تمہیں اٹھاؤ کہ ہم
شب کے وقت صالح (علیہ السلام) اور
ان کے متعلقین کو قتل کر ڈالیں اور بعد میں
ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس
موقعہ پر حاضر نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں اس طرح انہوں نے صالح (علیہ السلام)
کے قتل کے مشورے اور تدبیریں کیں اور ہم
نے بھی ان کے چلانے کی خفیہ تدبیر کی کہ ان کو

خبر بھی نہ ہوئی وہ یہ کہ پہاڑ سے ایک بھاری پتھر لڑھکتے کر ان پر آگرا جس سے وہ سب
گئے (کافی الدرا المنور) دیکھ لو کہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے اپنے مکر اور تدبیر سے سب کو
غارت کر ڈالا۔

اسی طرح کہیں کہتے ہیں وکروا کے بعد وکر اللہ مذکور ہے -

جس سے حق تعالیٰ شانہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہود نے جو قتل کی تدبیر کی وہ تو
کارگر نہ ہوئی مگر ہم نے جو ان کی حفاظت کی نہالی اور انہی تدبیر کی وہی غالب ہو کر رہی
پس اگر روح اور جسم کا پورا پورا لینا مراد نہ لیا جائے بلکہ توفی سے موت مراد لی جائے تو
یہ کوئی ایسی تدبیر نہیں جو یہود کی مغلوبی اور ناکامی کا سبب بن سکے۔ بلکہ موت کی
تدبیر تو یہود کی عین تمنا اور آرزو کے مطابق ہے۔ کفار مکہ نے جی اکرم صلی اللہ علیہ

و سلم کے قتل کی تدبیریں کہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تدبیریں کہا قال تعالیٰ
 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُكِيرُونَ كفار مکہ آپ کے قتل کی تدبیریں کر رہے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرماتے والے
 ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے منصوبوں سے آگاہ کیا اور
 صحیح سالم آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرا دی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا عَصَا وَ مَكْرُ وَا وَا مَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُكِيرُونَ۔
 یعنی یہود نے آپ کے قتل کی تدبیریں کہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ
 نے آپ کی حفاظت کی تدبیریں کہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ
 اب اس ہجرت کے بعد ترویل اور تشریف آوری زمین کے فتح کرنے کے لئے ہوئی جیسا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے کچھ عرصہ بعد مکہ فتح کرنے کے لئے تشریف لائے اور
 تھام اہل مکہ مشرف باسلام ہوئے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام زمین کو فتح کرنے کیلئے
 نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے یعنی برزخ الی السماوات

وعدہ دوم

کہا قال تعالیٰ

وَرَأْفِعُكَ إِلَىٰ

یعنی اے عیسیٰ میں تم کو اپنی جانب اٹھاؤں گا جہاں کسی انسان کی رسائی بھی نہیں
 ہو سکتی جہاں میرے فرشتے رہتے ہیں وہاں تم کو رکھوں گا۔ اس آیت میں رفع سے رفع
 جہانی مراد ہے۔ اس لئے کہ۔

(۱) تَرَفُعَتْ میں خطاب جسم مع الروح کو ہے۔

(۲) رفع درجات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور رفع روحانی بصورت موت، یہ مرزا صاحب کے زعم کے مطابق خود مَتَوَفَّيْنَاكَ سے معلوم ہو چکا ہے۔ لہذا دوبارہ ذکر ناموجب تکرار ہے۔

(۳) نیز رفع روحانی ہر مرد صالح اور نیک بخت کی موت کے لمحے لازم ہے اس کو خاص طور پر بصورت وعدہ بیان کرنا بے معنی ہے۔

(۴) نیز باتفاق محدثین و مفسرین و مورخین یہ آیتیں نصارائے بھران کے مناظرہ اور ان کے عقائد کی اصلاح کے بارے میں اتریں ہیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ لہذا اگر رفع الی السماء کا عقیدہ غلط اور باطل تھا تو قرآن نے جس طرح عقیدہ ابنیت اور عقیدہ تثلیث اور عقیدہ قتل اور صلیب کی صاف صاف لفظوں میں تردید کی تو اسی طرح رفع الی السماء کے عقیدہ کی بھی صاف صاف لفظوں میں تردید ضروری تھی اور جس طرح وما تملوہ اور ما صلبوہ کہہ کر عقیدہ قتل و صلیب کی تردید فرمائی اسی طرح بجائے بَلْ زَفَعْنَا اللَّهُ سَكَ مَا دَفَعْنَا اللَّهُ فَمَا كَرَّ عَقِيدُ رَفَعِ اِلَى السَّمَاءِ کی تردید ضروری تھی۔ سکوت اور مبہم الفاظ سے نصارائی کی ٹوک کیا اصلاح ہوتی مسلمان بھی اشتباہ اور گمراہی میں پڑ گئے۔

بیز اگر توفی اور رفع سے موت اور رفع روحانی مراد ہو تو وعدہ تطہیر من الکفار اور وعدہ کف عن نبی اسرائیل کی کوئی حقیقت اور اصلیت باقی نہیں رہتی جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَادَّ كَفَعْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ يَا حِشْتَمُ ثُمَّ يَا نَبِيْتِي هَسْ كَيْتِمْ حَتَّى حَمَلِ شَانَهُ كَمَا انْ اِنْعَامَاتِ اور احسانات کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن حق حمل شانہ بطور امتنان عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائیں گے ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ تجھ کو نبی اسرائیل کی دست دہائی سے محفوظ رکھا۔

وَعْدَةُ سَوْمٍ وَمَطَهْرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ میں تجھ کو اپنے اور تیرے دشمنوں یعنی کافروں سے پاک کروں گا۔ اور ان کے ناپاک اور نجس پڑوس میں تجھ کو نہیں رہنے دوں گا۔ بلکہ نہایت مطہر اور معطر جگہ میں تجھ کو بلا لوں گا۔ لفظ مطہرک، کفار اور کافروں کی نجاست کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال فرمایا لکن قال تعالیٰ اِنَّمَا الْمَسْجِدُ كَوْنٌ فَجَعَلَسَ یعنی یہ نجس اور گندہ ہے آپ کے جسم مطہر کے قریب بھی نہ آنے پائیں گے اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَقْعَبْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ۔ اور اس وقت کو یاد کر کہ جب بنی اسرائیل کو تیرے پاس آنے سے روک دیا۔ پس اگر خدا تمہارا ستہ قتل اور صلب میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس تطہیر اور کفہ کے وعدہ اور انعام کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔

چنانچہ تفسیر درختور ص ۳۲ ج ۲ میں تین بصریہ سے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں مراد ہے یعنی وَمِنْ خَلْقِكَ مِنَ الْيَهُودِ فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكَ قَتْلِكَ یعنی تطہیر من الکفار سے یہ مراد ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو یہود سے چھوڑاؤں گا اور ان کو تیرے قتل تک بھی رسائی نہ ہوگی اور اِذْ كَفَعْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ الایہ کی آیت میں ایک خاص لطافت ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محفولیت کو اس عنوان سے بیان فرمایا كَفَعْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ۔ اور كَفَعْتُ یعنی نَجَّيْتُ كَمَا مَفْعُولٌ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَوَقَّارٍ دِيَا اور لفظ عَنكَ بعد میں ذکر فرمایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو تیرے سے دور رکھا۔ ان کو تیرے قریب بھی آنے نہ دیا کہ تجھے ہاتھ بھی لگا سکیں لفظ کفہ بھی تبعید کے معنی میں ہے اور لفظ عن بھی بعد اور مجاورۃ کے بیان کے لئے آتا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ اِذْ نَجَّيْتُكَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ تجھ کو بنی اسرائیل سے نجات دی اور ان کے ہاتھوں سے تجھ کو چھڑایا۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔

وَرَادَا أَجْدِيْنَكَ مِنْ آلِ إِسْرَائِيْلَ يَسُوْمُوْنَكَ مَسُوْمًا الْعَذَابُ بِسَبَبِ اسْرَائِيْلَ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعونوں کے عذاب سے بچایا اور نجات دی، اس لئے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عنوان اختیار فرماتے تو یہ شبہ ہوتا کہ نبی اسرائیل کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دشمنوں سے ایذائیں اور تکلیفیں اٹھائیں مگر اخیر میں اللہ نے ان مصائب اور تکالیف سے نجات دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایذا نہ تو کیا پہنچاتا وہ خود بھی ان تک نہ پہنچ سکا۔ اللہ نے دشمنوں کو دودہی رکھا اور کسی بد ذات کو پاس بھی نہ پھٹکنے دیا اور جبرئیل علیہ السلام کو بھیج کر آسمان پر اٹھالیا۔ تمام تفاسیر معتبرہ میں یہی تفسیر مذکور ہے۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حطیب سے رہا ہو کر کشمیر پہنچے اور ستاسی سال کے بعد کشمیر میں وفات پائی۔ حالانکہ کشمیر اس وقت کفر اور شرک اور بت پرستی کا گھر تھا جو ملک شام سے کسی طرح بہتر نہ تھا۔ شام حضرات انبیاء کا مسکن اور وطن تھا اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَ مَطْفِئُوْهُم مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔ کہ میں تم کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے لہذا اللہ تعالیٰ وَرُسُوْلًا اِلٰی نَبِيٍّ اِسْرَائِيْلَ۔ ان کی نبوت صرف نبی اسرائیل کے لئے تھی لہذا نبی اسرائیل کو چھوڑ کر کشمیر جانے کے کیا معنی؟

وعدۃ چہارم

غلبۃ متبعین بر منکرین

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور اے عیسیٰ! میں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک

غالب رکھوں گا۔

چنانچہ جس جگہ یہود اور نصاریٰ ہیں، وہاں نصاریٰ یہود پر غالب اور حکمران ہیں آج تک یہود کو نصاریٰ کے مقابلہ میں کبھی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔

وعدۃ پنجم

فیصلہ اختلاف

فَتَحَدَّثَنَا إِتَىٰ مَرَجِّعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَبَيْنَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ

یہ پانچواں وعدہ ہے کہ جو اختلافات کے فیصلہ کے متعلق ہے تمام اختلافات کا آخری فیصلہ تو آخرت کے دن ہوگا۔ لیکن یہود اور نصاریٰ اور اہل اسلام کے اختلافات کا ایک فیصلہ قیامت قائم ہونے سے کچھ روز پہلے ہوگا اور وہ مبارک وقت ہوگا کہ جب جیسے علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہاں کو قتل کریں گے اور یہود کو چن چن کر ماریں گے کوئی یہودی اس وقت اپنی جان نہیں بچا سکے گا۔ اس وقت شجر حجر بھی یہ کہیں گے ہذا یہودی درختی فاختہ یہ یہودی میسر پڑے پھسا ہوا ہے ان کو قتل کیجئے یصلیب کو ٹوڑیں گے جس سے نصاریٰ کی اصلاح مقصود ہوگی۔ یہود حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے اور نصاریٰ ان کی الوہیت اور انبیت سے تائب ہو کر ان کے عبداللہ اور رسول اللہ ہونے کا اقرار اور اعتراف کریں گے اور اہل اسلام اس وقت اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ نکلے گا۔

یہی ہے وہ کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور بے شک

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَسْ شُؤْلُهُ وَوَصَدَقَ اللَّهُ

اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔

اور اہل اسلام کے ایمان اور تسلیم میں اور زیادتی ہوگی اور عقائد اذہم الا ایماناً و تسليماً کے مصداق ہوں گے۔ اور اب تک تو نزول عیسیٰ بن مریم اور قتل و جہال وغیرہ پہلے ایمان بالغیب تھا لیکن اب مشاہدہ کے بعد ایمان شہودی ہو جائے گا کہ جس میں ارتداد کا اندیشہ نہ رہے گا۔ غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے اور روئے زمین پر کوئی دین سوائے اسلام کے باقی نہ رہے گا۔ اس طرح یہ فیصلہ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔

توفی کی دوسری نوع

اور اگر اس آیت میں توفی کی دوسری نوع یعنی نوم (نیند) مراد لی جائے تب بھی مرزا صاحب کے لئے مفید نہیں کیونکہ اس صورت میں متوفی کا معنی میں منہمک کے ہوگا اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو سلاؤں گا اور سونے کی حالت میں تجھ کو آسمان پر اٹھاؤں گا۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور معالم التنزیل میں ربیع بن انس سے منقول ہے۔

قال الربيع بن انس المراد
بالتوفى النوم وكان عيسى عليه
السلام قد نام فرفع الله نائماً
الى السماء معناه انى منيما
وارفعت انى كما قال تعالى و
هو الذى يتوفىكم بالليل اى يلقىكم
والله اعلم.

ربيع بن انس کہتے ہیں کہ آیت میں توفی سے
نوم یعنی نیند مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں
آسمان پر اٹھایا اور آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے
عیسیٰ میں تجھ کو سلاؤں گا اور اسی حالت میں
تجھ کو انہی طرف اٹھاؤں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
کے اس ارشاد و هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

(اور یہ ہے کہ جو تم کو رات میں سلائے گا میں توفی سے نوم مراد ہے۔)

لیکن توفیٰ بمعنی نوم سے بھی مرزا صاحب کی تمنا اور آرزو پوری نہیں ہوتی کیونکہ تیندگی کی حالت میں آدمی زندہ رہتا ہے مرنا نہیں۔

توفیٰ کی تیسری نوع!

یعنی موت

اگر اس آیت میں توفیٰ سے اس کی تیسری نوع مراد لی جائے جیسا کہ علی بن طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفیک کی تفسیر میں تیسرے کے ساتھ روایت کرتے ہیں، تب بھی مرزا صاحب کا مدعا وفات قبل النزول حاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو وہ ہے کہ جو وہب بن منبہ اور محمد بن اسحاق سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً حضرت عیسیٰ کو وفات دی اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کو زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا۔ وہب یہ کہتے ہیں کہ دن کی تین ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ اور محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ دن کی سات ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ غرض یہ کہ اگر توفیٰ بمعنی موت تین ساعت یا سات ساعت کے لئے پیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع ہو سکتا ہے اور مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔

دوسرا مطلب

ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کا دوسرا مطلب خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ذیاب یعنی ضحاک سے منقول ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے جیسا کہ شیخ جلال الدین سیوطی تفسیر درمثور میں فرماتے ہیں۔

انحرج اسحاق بن بشر و ابن عساکر
 من طریق جوهر عن الصادق عن
 ابن عباس فی قوله تعالیٰ انی متوفیک
 و رفعت الی یعنی رفعت ثم متوفیک
 صحاک کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
 متوفیک و رفعت الی کی تفسیر میں یہ لفظ
 ہیں کہ حضرت مسیح کا رفع مقدم ہے اور ان
 کی نجات کے اخیر زمانہ میں ہوگی۔

فی اخر الزمان . در عنثور ص ۲۶

پس اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفیک کی تفسیر ممیتک سے مروی ہے تو ان سے تقدیم
 و تاخیر بھی مروی ہے۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لصف قول کو جو اپنی ہوائے نفسانی اور غرض
 کے موافق ہو اسے لینا اور حجت قرار دینا اور دوسرے لصف کو جو ان کی غرض کے مخالف
 ہو اس سے گریز کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے نائوب نماز کا لا تعمر بوا الصلوٰۃ سے حجت
 پکڑنا اور انتم تکالیفی سے آنکھیں بند کر لینا۔ لصف قول کو ماننا اور لصف قول سے
 قطع نظر کر لینا۔ یہ لصف الاعمیٰ اور لصف البصیریٰ کا کام ہے۔

علاوہ ازیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفیک کی تفسیر جو ممیتک مروی ہے اس کا راوی علی
 بن طلحہ ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ علی بن طلحہ نے ابن
 عباس سے نہ کچھ سنا ہے اور نہ ان کو دیکھا ہے لہذا علی بن طلحہ کی روایت ضعیف بھی ہے
 اور منقطع بھی ہے جو حجت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے برعکس ابن عباس سے حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کا صحیح و سالم زندہ آسمان پر اٹھایا جانا باسانید صحیحہ اور حیدرہ منقول ہے۔ تعجب
 اور سخت تعجب ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ تفسیر کہ جس کی سند ضعیف اور منکر اور غیر معتبر
 ہو وہ تو مرزا یوں کے نزدیک معتبر ہو جائے اور ابن عباس کی وہ تفسیر جو اسانید صحیحہ
 اور حیدرہ اور روایات معتبرہ سے منقول ہے وہ مرزا صاحب کے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔

شیخینہ

حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تصریحات

وا، تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر اور فتح الباری کے حوالہ سے گذر چکا ہے کہ ابن عباس کے نزدیک ذٰلِذِیْنَ اَہْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا یَوْمَئِذٍ بِہِ قَسْبٌ عَنِہِمْ قَبْلَ مَوْتِہِمْ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعنی قبل موت عیسیٰ اور اسی پر ابن عباس کو جزم اور یقین تھا۔ علامہ آلوسی روج

والصحيح كما قال القرطبي ان الله تعالى رجع من غير وفاة ولا نوم وهو رواية الصحيحين عن ابن عباس آه روح المعاني۔
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت اور بغیر نیند کے زندہ آسمان پر اٹھالیا اور ابن عباس روج کا صحیح قول یہی ہے۔

امام قرطبی کے کلام کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابن عباس روج سے صحیح روایت یہی ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ان کے خلاف جو روایت ہے وہ ضعیف ہے قابل اعتبار نہیں۔

قال الحافظ عماد الدين بن كثير
عن ابن عباس قال لما اراد الله ان
يرجع عيسى الى السماء الى ان
قال ورفع عيسى من روضته
في البيت الى السماء قال وجاء
الطلب من اليهود فاخذوا المشبه
فقتلوه ثم صلبروه وهذا اسناد صحيح
حافظ عماد الدین بن کثیر
ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو ایک شخص یہ ان کی شاہد دل دی گئی اور وہ قتل کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دکان سے آسمان پر اٹھائے گئے ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن عباس کے اس اثر کی

الی ابن عباس۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۲ سند صحیح ہے۔

(۳) اور تفسیر فتح البیان ص ۳۲۲ ج ۲ پر ہے کہ حافظ ابن کثیر نے سچ کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ بے شک اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں۔

علامہ آلوسی نے ذکرہ و ذکرہ اللہ کی تفسیر میں ابن عباس کا قول نقل کیا کہ کبر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباهت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ روح المعانی ص ۵۷ ج ۲۔

(۴) تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وَإِنَّ لَعَلَّهُ لَشَا بَعَثَ سے نزول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔

(۵) محمد بن سعد نے طبقات کبریٰ ص ۲۱۱ ج ۱ پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر نقل کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء کے بارے میں نص صریح ہے ہم اس کو ہر جگہ ناظرین کرتے ہیں، جو پڑا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ موشی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانہ تیس سو سال ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جس وقت اٹھائے گئے تو ان کی عمر شریف ۳۲ سال اور چھ ماہ کی تھی اور زمانہ نبوت تیس ماہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم سمیت اٹھایا دراز حالاً لیکہ و نزلہ تھے اور آئندہ زمانہ میں پھر وہ دنیا کی طرف واپس آئیں گے اور بادشاہ ہوں گے اور پھر چند روز بعد وفات پائیں گے۔ جیسے اور لوگ وفات

اخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن ابيہ عن ابی صالح عن ابن عباس قال کان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم ائف سنه وتسع مائه الى ان قال وان عيسى صلي الله عليه وسلم حين رفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنه وسنة اشهرها وكانت نبوته ثلاثين شهرا وان الله دفعه رجساً وان الله حي الاكن وسيرجع الى الدنيا فيكون ملكا ثم يموت كما يموت الناس الخ

پڑتے ہیں۔ طبقات کبریٰ ص ۱۷۱ مطبوعہ لیدن (جرمنی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماوات اور دوبارہ نزول صراحتہ معلوم ہو گیا۔ اس روایت میں ابن عباس نے سیرج الی الدنیا کا لفظ استعمال فرمایا جو رجوع سے مشتق ہے جس کے معنی واپسی کے ہیں یعنی جس طرح جسم عتصری کے ساتھ آسمان پر گئے تھے اسی جسم کے ساتھ اسی طرح دوبارہ واپسی اور تشریف آوری ہوگی خود یہ نفس نفیس وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے کوئی ان کا مثل اور شبیہ نہیں آئے گا۔

خلاصہ کلام

یہ کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متوفیک کی تفسیر حدیث کے ساتھ منقول ہے تو ان سے تقدیم و تاخیر بھی منقول ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسم عتصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

مرزا صاحب کو چاہیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ان اقوال صریحہ کو بھی تسلیم کریں حالانکہ ان اقوال کی اسانید نہایت صحیح اور قوی ہیں اور متوفیک کی تفسیر جو حدیث سے مروی ہے اس کی سند ضعیف ہے۔

جواب دیگر

اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ متوفیک کی تفسیر حدیث کے ساتھ صحیح ہے تو یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب ازالۃ اللدبام کے جس ۹۴۲ پر لکھتے ہیں کہ امانت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلانا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ انتہی کلام۔
مرزا صاحب اس عبارت میں فقط اس امر کے مدعی نہیں کہ امانت کے معنی کہیں سلانے

کے بھی آجاتے ہیں بلکہ اس کے مدعی ہیں کہ جس طرح مارنا اور موت دینا امانت کے حقیقی معنی ہیں اسی طرح سلانا اور بے ہوش کرنا بھی امانت کے حقیقی معنی ہیں۔ لہذا جب مرزا صاحب کے نزدیک امانت کے حقیقی معنی سلانے کے بھی ہیں تو اسے عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ایک میں امانت سے سلانے کے معنی مراد لئے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لئے کہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ معنی بھی حقیقی ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تینہ کی ضمانت میں آسمان پر اٹھائے گئے جیسا کہ ربیع سے منقول ہے اور حدیث میں بھی امانت معنی امانت یعنی سلانے کے معنی میں آیا ہے۔ الحمد للہ الذی احیاناً بعد ما اعانتنا والیبہ بالانشور۔

اقوال مفسرین

گذشتہ تفصیل کے بعد اب کسی مزید توضیح کی ضرورت نہیں مگر چونکہ توفی کے استعمالات مختلف ہیں اس لئے حضرات مفسرین سے آیت کی جو توجیحات منقول ہیں ہم ان توجیحات کو نقل کر کے یہ بتلانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ تمام مفسرین سلف اور خلف اس پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بحمدہ العنصری زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ آیت شریفہ کی توجیحات اور تفسیری تعبیرات میں اگرچہ بظاہر اختلاف ہے لیکن رفیع الی السماء پر سب متفق ہیں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

عباد ایتنا مشتی وحسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال نیشید

ہماری تعبیرات مختلف ہیں اور تبرا حسن ایک ہے، سب کا اشارہ اسی ایک حسن کی

طرف ہے۔

قول اول

توفی سے استیفاء اور اسکماں کے معنی مراد ہیں اور استیفاء اور اسکماں سے عمر کا اتمام مراد ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے عینی تم دشمنوں سے گھبراؤ نہیں یہ قتل اور صلب سے تمہاری عمر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب ناکام رہیں گے میں تمہاری عمر پوری کروں گا اور اس وقت میں تم کو آسمان پر اٹھاؤں گا۔ چنانچہ انہم راڑی فرماتے ہیں۔

الاول معنی قولہ انی متوفیک ای
انی متوفیک کے معنی یہ ہیں کہ اے عیسیٰ میں
تیری عمر پوری کروں گا۔ کوئی شخص تجھ کو قتل کر
کے تیری عمر قطع نہیں کر سکتا میں تجھ کو تیرے
دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تجھ
کو قتل کر سکیں۔ بلکہ میں تجھ کو آسمان پر اٹھاؤں گا
اور اپنے فرشتوں میں رکھوں گا۔ امام راڑی فرماتے
وہذا تاویل حسن۔

تفسیر کبیر ص ۳۲۱ ج ۲

ہیں کہ یہ معنی نہایت عمدہ ہیں۔

اور اسی معنی کو علامہ زحمشری نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے اور اس معنی کو کلام اپنے

عہ قال الزحمشری انی متوفیک ای مستوفی اجلتک ومعناہ اذی صمدک من ان
یقتلک الکفار ومرحوک الی اجل کتبتہ لک ومیتک حتف الفک لاقلا بانیدیم آہ
فتفسرہ بعد ذہ من باب الاستفعال وقولہ ومعناہ الخ یورد حاصل المقام وما جری
فی سلسلۃ الواقعتہ لا تفسیرہ لفظیاً فانہ مرص فیما بعد ولم یرضہ ان یکون
تفسیرہ ابتداءً حیث قال ومیتک فی وقتک بعد النزول من السماء ورافعک
الآن وقد عدل اللہ عن لفظ الاماتۃ لئلا یبادرہ ویواجہ عیسیٰ بہ فی مقابلتہ
الیہود ہل ذکر التناول والاستیفاء ثم لیجری ما یجری کل شیء (باقی آگے)

حال پر ہے۔ کلام میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ توفی کے معنی اتمام عمر کے ہیں جو ابتدائے عمر سے لے کر اخیر عمر تک صادق ہیں اسی درمیان میں رفع الی السماء ہوا اور اسی ذریعہ ان میں نزول ہوگا اور وقت پر وفات ہوگی۔ اسی طرح عمر شریف پوری ہوگی۔

قول دوم

توفی سے قبض من الارض کے معنی مراد ہیں۔ یعنی اسے عیسیٰ میں تم کو ان کافروں سے پھینک کر پورا پورا اپنے قبضہ میں لے لوں گا۔ جیسا کہ امام باقری قدس اشرفہ فرماتے ہیں۔
 ان التوفی هو القبض یقال وفانی
 فلان در اھمی و اوفیتہ کما یقال
 سلو فلان الی در اھمی و
 تسلمتھا۔
 اور میں نے اپنے پورے روپے دے دیئے
 اور میں نے اپنے پورے روپے اس سے وصول
 کر لئے۔

تفسیر کبیر ص ۲۶۳

آیت کے یہ معنی حسن بصری اور مطر و راق اور ابن جریر اور محمد بن جعفر بن زبیر سے منقول ہیں۔ اور امام ابن جریر طبری نے اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے اس معنی کو بھی آیت میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ قول اول اور قول ثانی دونوں قولوں میں توفی کے معنی استیفاء اور استکمال ہی کے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے قول میں استیفاء سے اجل اور عمر کا اتمام اور اکمال مراد لیا گیا۔ اور دوسرے قول میں ایک شخص اور ایک ذات کا پورا پورا قبضہ میں لینا مراد لیا گیا ہے۔ ایک جگہ استیفاء اجل ہے اور ایک جگہ استیفاء شخص اور استیفاء قبضہ ہے۔

(بقیہ ماثیر) مستكمل مدة العمر و مورد ذالنتھی اجله ۱۲ مشكلات القرآن ص ۳۲

قول سوم

توفی کے معنی اخذ النبی و اقیامہ کے ہیں کسی شے کو پورا پورا لے لینا اور اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ لے لینا مراد ہے۔ جیسا کہ امام رازی فرماتے ہیں۔

ان المتوفی اخذ النبی و اقیامہ لہما
علمہ اللہ تعالیٰ ان من الناس من

یخاطر بیا لہ ان الذی رفعہ اللہ ہو
روحہ لاجسد کا ذکر ہذا الکلام

لیبدل علی اتہ عنیہ الصلوٰۃ والسلام
رفعہ بتمامہ الی السماء بروحہ و

بجسدہ و یدل علی صحیحہ ہذا
التأویل قولہ تعالیٰ و ما یضرونک

من شیء۔
تفسیر پر کبیر ص ۳۸۱ ج ۲

اجزائے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو
معلوم تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ دوسرے
گزرے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی
صورت روح کو اٹھایا اس لئے متوفیک کا
لفظ فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام
روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے
وَمَا یَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ط تم کو ذرہ براہ
ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ نہ روح کو نہ جسم کو

قول چہارم

توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔ یعنی سلا کر تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا
کہ تم کو خیر بھی نہ ہو کہ کیا ہوا اور آسمان اور فرشتوں ہی میں جا کر آکھ کھلے گی۔
قول رزیع بن انس سے مروی ہے۔

قال الربیع بن انس المراد بالتوفی
النوم وکان عیسیٰ علیہ السلام قد
رزیع بن انس کہتے ہیں کہ توفی سے نوم یعنی نیند
کے معنی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ

نام فرقعہ اللہ ناشا الی السماء۔
 معنا منیمک ورافعت الی کہا قال
 تعالیٰ هو الذی یتوفکھ بالنبیل۔
 کوسونے کی حالت میں آسمان پر اٹھایا جیسا
 کہ هو الذی یتوفکھ بالنبیل۔ اس
 آیت میں توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔
 تفسیر رقمشورہ ص ۳۱۳ ج ۱۰ معالم التنزیل و تفسیر
 کبیر وغیرہ وغیرہ۔

قول پنجم

توفی سے موت کے معنی مراد ہیں جیسا کہ علی بن ابی طلحہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
 متوفیک کے معنی میتک روایت کرتے ہیں۔
 امام بغوی معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی اس روایت کے دو مطلب
 ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے
 آسمان پر اٹھایا۔ جیسا کہ محمد بن اسحق اور وہب سے منقول ہے (اس قول پر آیت میں کوئی تقدیم
 و تاخیر نہیں۔

دوسرا مطلب وہ ہے جو شاک سے مروی ہے وہ یہ کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور
 اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ۔

انی متوفیک بعد انزلک من السماء۔ میں تجھ کو آسمان سے اترنے کے بعد موت دوں گا۔

کیا تقدیم و تاخیر تحریف ہے؟

مرزا صاحب الذیلة الاولیام ص ۹۲۲ ج ۲ و ص ۹۲۶ ج ۱ میں لکھتے ہیں اگر کوئی
 کہے کہ رافعک مقدم اور متوفیک مؤخر ہے سو ان یہودیوں کی طرح تحریف ہے کہ جن پر
 بوجہ تحریف کے لعنت ہو چکی ہے۔ انتہی۔

جواب

تقدیم و تاخیر نہ تو احد عربیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت میں مغل ہے بلکہ یہاں ادقات عین فصاحت اور عین بلاغت ہے۔ فصحاء اور بلاغ کے کلام میں شائع اور ذائع ہے۔ امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔

ومثلہ من التقدير والتأخير كثير في القرآن - (تفسیر کبیر ص ۳۸۱ ج ۱۷)

ابن عباس کی تفسیر میں جو تقدیم و تاخیر آئی اس قسم کی تقدیم و تاخیر قرآن کریم میں کثیر ہے

امام قرظی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

قال جماعة من اهل المعاني	اہل علم کی ایک جماعت جن میں ضحاک اور
منهم الضحاك والقراء في قوله	فراء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے اس
تعالى اني متوفيك رافعك الى علي	قول اني متوفيك رافعك میں تقدیم و تاخیر
التقدير والتأخير لان الواو لا	ہے اور اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں
توجب الراقية والمعنى اني رافعك	اس لئے کہ ترتیب کو مقتضی نہیں اور معنی آیت
الى ومطهرك من الذنوب كقروا و	کے اس طرح ہیں کہ اس وقت رفع ہو گا اور
متوفيك بعد ان تتول من السماء	ترقی یعنی وفات۔ بعد نزول کے ہوگی
كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من	اور تقدیم و تاخیر کے نفاذ قرآن کریم میں موجود
ربك لكان لزاما واجل مسي و	ہیں جیسا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ
التقدير ولولا كلمة سبقت من	بِزَامًا وَاجِلٌ مَسِيٌّ اس آیت میں بھی تقدیم و
ربك واجل مسي لكان	تاخیر ہے۔ اصل تفسیر عبارتہ اس طرح ہے

عه وفي الكشاف وقيل متوفى بنفسك بالنوم من قوله والتي لم تعبت في مناهجها ورافعك وانما

تأخر حتى لا يلحقك عوز تشتيط وانما في السماء امن مقرب ۱۲ کشاف ص ۱۰۱

وَنَوْلًا كَلِمَةً سَيِّئَةً مِنْ رَبِّكَ وَاجِلٌ مَسْهُومٌ بِعَيْنِي
 وَاجِلٌ مَسْهُومٌ — كاعطفت کلمہ پر ہے اور
 فَكُلُّنَا لِرَبِّهِمْ كَانٌ فَاعِلٌ — دونوں ہی کی تہر ہے۔ شاعر
 کہتا ہے۔

لِذَا هُمَا —
 قَالَ الشَّاعِرُ ه

الذَّيْءُ مُضَلَّةٌ مِنْ ذَاتِ عَرْقِ عَيْدِكَ وَ
 رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ .

اسے مقام نوحہ تہر پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو

(تفسیر قرطبی ص ۹۹ ج ۱)

اس شعر میں تقدیم و تاخیر ہے کہ السلام مؤخر ہے کہ جو معطوف علیہ ہے اور رحمت اللہ علیہ مقدم ہے
 جو معطوف ہے۔ تاہم یہاں کا مشتبہ یہ ہے کہ معطوف علیہ مقدم ہو اور معطوف مؤخر ہو اور شعر میں معطوف
 یعنی رحمت اللہ مقدم ہے اور معطوف علیہ یعنی السلام مؤخر ہے۔

(تفسیر قرطبی)

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول وَ مَا هِيَ إِلَّا
 حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَىٰ فِيهَا تَقْدِيمٌ وَ تَاخِيرٌ
 ہے اسل کلام نحوی و نموت ہے اس لئے کہ حیات
 مقدم ہے اور موت اس کے بعد ہے مگر آیت
 میں نموت مقدم ہے اور نحی مؤخر ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَ نَحْيَىٰ فَكُلُّنَا لِرَبِّهِمْ كَانٌ فَاعِلٌ هُوَ
 مُقَدِّمٌ وَ مُؤَخَّرٌ وَ مَعْنَى لَا نَحْيَىٰ نَمُوتُ
 لِسَانُ الْعَرَبِ ص ۱۸۰ ج ۱

اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل
 ہونے سے پہلے اجازت چاہو۔ اور سلام کرو و جواب
 کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے پہلے سلام ہے
 اور بعد میں اسکی زبان اجازت حاصل کرنے کے
 لئے اس طرح کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ادخل

وَقَالَ تَعَالَى حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسْلَمُوا
 قَالَ الْفَرَّاءُ هَذَا مُقَدِّمٌ وَ مُؤَخَّرٌ أَيْ
 هِيَ حَتَّى تَسْلَمُوا وَ تَسْتَأْذِنُوا السَّلَامُ
 عَلَيْكُمْ وَ ادْخُلْ .

(لسان العرب ص ۱۸۰ ج ۱)

سلام ہو تم پر کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔

یہی اسرائیل میں جو قتل کا واقعہ پیش آیا، قرآن کریم میں اس واقعہ کو وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا

قَاتِرْتُمْ سَعَىٰ بَعْدَ بَيَانِ فَرَمَا اِس کے متعلق جو احکام صادر ہوئے ان کو پہلے بیان فرمایا۔ کما قال تعالى اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَاحَدٌ اَنْ تَدَّبَحُوا بُقْعًا اَلآيَاتِ۔ اور قرآن کریم میں واقعہ شد کو کثرت مقدم و مؤخر بیان کیا گیا ہے۔

کما قال ابو حبان وقال بعض الناس المتقدم والتاخير حسن لان ذلك موجود في القرآن في الجمل وفي الكلمات وفي كلام العرب ذوارد من ذلك جملا من ذلك قصة نوم عينا السلام في اهلاك قومه وقول له وقال اركبوا وفي حكمة من مات عنها زوجها بالانحص بالاربعين المشهور وبتنازع الى القول اذ التاخير مقدم ومنسوخ متاخر۔

(کذا فی البحر المحیط صفحہ ۲۵۹ ج ۱)

بطور نمونہ چند آیات پر اکتفا کیا گیا اور قرآن و کریم ہی میں تقدیم و تاخیر کے صدمہ نظر میں موجود ہیں اور حدیث میں تو کوئی شمار نہیں غرض یہ کہ تقدیم و تاخیر تحریرت کو کیا ہوتی فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف نہیں اور آیت توفی میں تقدیم و تاخیر خود ابن عباس رضی سے مروی ہے جیسا کہ تفسیر درمثور میں مذکور ہے۔

مرزا صاحب بھی تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں

مرزا صاحب مسیح ہندوستان کے صدمہ پر لکھتے ہیں: "اور مطہر کی پیشین گوئی میں یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان الزاموں سے مسیح کو پاک کرے گا اور وہ زمانہ یہی ہے یعنی مرزا کی کا زمانہ" اور

اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مسیح سے جو تطہیر کا وعدہ تقاضا مرزا کی کے زمانہ میں پورا ہوا اور جاعل الدین النب حوٰک۔ یعنی متبعین کے غالب کرنے کا وعدہ اس وعدہ سے

ہے اور بالفرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آیت ماندہ میں توفی سے کنایہ موت مراد لی گئی ہے تب بھی مراد صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس آیت میں اس وفات کا ذکر ہے جو نزول قیامت سے پہلے ہوگی۔ کیونکہ آیت کا تمام سیاق و سیاق اس بات پر شاہد ہے کہ یہ تمام واقعہ کوئی گذشتہ واقعہ نہیں بلکہ مستقبل یعنی قیامت کا واقعہ ہے اور قیامت سے پہلے ہم بھی وفاتِ مسیح کے قائل ہیں جیسا کہ **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ إِلَهُ** اور **هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ** اور **يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْكُمْ** شہیدانہ سے صاف ظاہر ہے۔ تفسیر درمثور ص ۳۲۹ ج ۲ میں ہے۔

اخرج عبد الرزاق وابن ابی حاتم عن قتادة في قوله **اننت قلت للناس اتخذوني واخي الرهين من دون الله متي يكون ذلك قال**
يوم القيمة ان اتري انه يقول يوم ينفع الصديقين۔

توجہ بہ عبد الرزاق اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے نقل کیا کہ قتادہ نے **اننت قلت للناس اتخذوني واخي الرهين من دون الله متي يكون ذلك** تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا جیسا کہ **هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ** سے صاف معلوم ہوتا ہے بلکہ بعض مرفوع احادیث میں بھی اس کی تصریح موجود ہے، کہ یہ واقعہ قیامت کا ہے۔

روی ابن عساکر عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيمة يدعى بالانبياء
واعلمهم بشعب ابي يعيسى فيذكر نعمته عليه فيقر بها فيقول
يعيسى اذكر نعمتي عندك وعلى والدائك الاية ثم يقول انت
قلت للناس اتخذوني واخي الرهين من دون الله فينكر
يكون قال ذلك الحديث

تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۹ ج ۲

ترجمہ :- ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بلا کر یہ فرمائیں گے کہ تم نے ہی کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار فرمائیں گے کہ معاذ اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا۔

والخریج ابن مردویہ عن جابر بن عبد اللہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامة جمعت الازلام ودعا کل اناس بامامهم قال ویدعی عیسیٰ فیقول بعیسیٰ یعیسیٰ ء انت قلت للناس اتخذوا بی و اخی المریدین من دون اللہ۔ فیقول سبحانک ما یكون لیا ان اقول ما لیس لی بحق الی قوله یوم ینفخ الصفاقین۔ تفسیر درمنثور ص ۳۴۹ ج ۲۔

اس حدیث شریف کا ترجمہ تقریباً وہی ہے جو کہ پہلی حدیث کا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کی طرح جابر بن عبد اللہ کی اس روایت میں بھی اس امر کی تصریح موجود ہے۔ کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دریافت کیا جائے گا۔

مرزا جی جس موت کے مدعی ہیں وہ کسی لفظ سے بھی ثابت نہیں ہوتی مرزا جی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح واقعہ صلیب کے بعد کشمیر تشریف لے گئے اور ستاسی سال زندہ رہ کر شہر سرینگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے یہ نہ کسی آیت سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے۔ اور نہ کسی صحابی اور تابعی بلکہ کسی معتبر عالم کے قول سے بھی ثابت نہیں۔ ممکن ہے یہ بھی اسی کنہیا لال اور مراد لال اور روشن لال سے منقول ہو کہ جنہوں نے کریم بخش کے صادق ہونے کی گواہی دی ہے۔

مرزا جی ازالۃ الادلہ ص ۷۸ میں لکھتے ہیں کہ کریم بخش روایت کرتے ہیں کہ گلاب

شاہ مخدوم نے بیس برس پہلے مجھ کو کہا کہ اب علمی جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ پھر کریم بخش کی تعدیل بہت سے گواہوں سے کی گئی جن میں خیراتی بونٹا، کنہیا لال، مراری لال، روشن لال، گنیشاںل وغیرہ ہیں اور گواہی یہ ہے کہ کریم بخش کا جھوٹ کبھی ثابت نہیں ہوا۔ انتہی الکلام المرزا غلام۔

ائمہ حدیث جنب کسی راوی کی توثیق اور تعدیل نفل کرتے ہیں تو احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کا نام مبارک پیش کر دیتے ہیں۔ مرزا جی کو جب کریم بخش کی روایت کی تعدیل کی ضرورت پیش آئی تو کنہیا لال اور مراری لال کی تعدیل پیش کی۔ ناظرین کرام تعجب نہ فرمائیں۔ نبیؐ کا ذہب کے سلسلہ روایت کے لئے کنہیا لال اور مراری لال ہی جیسے راوی مناسب اور ضروری ہیں۔ مرزا جی بھی معذور ہیں اپنی مسیحیت کی گواہی میں آخر کس کو پیش کریں؟ حضرات مہر نہیں کے نزدیک مالک عن نافع عن ابن عمر یہ سند سلسلۃ الذہب کے نام سے موسوم ہے یہ سلسلۃ الذہب کو حضرات محدثین کا ہے اور مرزا صاحب کا سلسلۃ الذہب یہ ہے کہ جو حضرات ناظرین نے پڑھا۔ یعنی کنہیا لال اور مراری لال اور روشن لال۔

اے مرزا یو! تمہیں کیا مواہ مالک اور نافع اور ابن عمر کی روایت تو تمہاری نظر میں غیر معتبر ہو گئی اور مرزا اور مراری لال اور کنہیا لال اور روشن لال کی اور اس قسم کے پاگل داس لوگوں کی بکو اس معتبر ہو گئی۔ ع

بریں عقل و دانش بیاید گریست

ایک وہم اور اس کا ازالہ

مرزا صاحب ازالۃ الادبام ص ۶۰۲ پر لکھتے ہیں:-

”تعب ہے کہ اس قدر تاویلات رکیکہ کر لے سے ذہابی نہیں شرم کرے وہ نہیں سمجھے کہ آیت قلنا تو صبیحی سے پہلے یہ آیت ہے واذ قال اللہ یعینی بن مرثدہ ؓ ؕ اذ قال اللہ قلنا لیس۔“

اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اول اذ موجود ہے جو خاص واسطے
ماضی کے آتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت تدرول آیت زیادہ ماضی کا ہے
ایک قصہ تھا زمانہ استقبال کا۔ اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف
سے ہے یعنی قَدْ كُنَّا كَوَفِيَّتِي وَ دَبِي صِيغَةُ ماضی ہے انتہی کلام الغلام۔

جواب

یہ ہے کہ مرزا جی اس کے بعد الحکم علیٰ مورقہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۶۳ھ طاعون کی پیشین
گوئی کی نسبت لکھتے ہیں کہ "مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوئی۔
عفت الدیار محلہا ومقامہا۔

یعنی اس کا ایک حصہ سٹ جائے گا جو عمارتیں میں نابود ہو جائیں گی۔
اس پر اعتراض ہوا کہ یہ مصرع لبید کا ہے اس نے گذشتہ زمانہ کی خبر دی ہے کہ خاص
خاص مقام ویران ہو گئے۔

اس کا جواب خود یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کافیہ یا ہدایۃ النور بھی پڑھی ہوگی
وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب
کہ آنے والا واقعہ مکمل کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لستے ہیں تاکہ
اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ نَعْرِفُ الصُّوْرَ۔ وَ اِذْ
قَالَ اللهُ لِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ اَنْتَ خَلَقْتَ بِلْنَا مِنْ تَحْتِ وَاَنْتَ اَنْتَ الْيَهُودِيَّةُ الْيَهُودِيَّةُ مِنْ دُوْنِ اللهِ

عہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا جی نے کافیہ اور ہدایۃ النور پڑھی نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنے زعم
میں تمام اولین اور آخرین سے علم میں بڑھا ہوا اس کو بھی کافیہ اور ہدایۃ النور پڑھنے کی
ضرورت ہے ۱۲۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقِقُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ - وغیرہ اب معترض صاحب فرمائیں کہ کیا قرآنی آیات ماضی کے سینے میں یا مضارع کے اور اگر ماضی کے سینے میں تو ان کے معنی اس جگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے۔ جیورٹ بولنے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پر نہیں بلکہ یہ تو قرآن پر بھی ہو گیا۔ گو یا صرف دُخِرَ آپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں اس وجہ سے خدا نے جا بجا غلطیاں کھائیں اور مضارع کی جگہ ماضی کو لکھ دیا۔ انتہی الکلام المرزا الغلام۔

ناظرین انصاف فرمائیں کہ جس آیت پر یعنی إِذْ قَالَ اللَّهُ پر شد و مد سے یہ دعویٰ تھا کہ یہ قصہ ماضی ہے پھر اسی کی نسبت یہ دعویٰ کہ دیا، کہ مضارع کے معنی میں ہے تاکہ پشیم گونی غلط نہ ہو لیے پائے۔

اور عفت الدیار محلہا و مقامہا پر جو اعتراض تھا اس سے سبک دوش ہو جائیں حالانکہ مرناجی اول ہی بار ذرا بھی قرآن عزیز میں غور کر لیتے تو ہرگز نہ کہتے ہیں جیسا کہ بعد میں ہوش میں آ رہی گئے کہ اذ ہمیشہ ماضی کے لئے نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن عزیز میں
 وَتَوَقَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ. وَتَوَقَّىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْتًا وَجَعَدَ رَبُّهُمْ
 ان آیات میں ہر جگہ لفظ اذ موجود ہے۔ حالانکہ واقعہ سب جگہ مستقبل یعنی قیامت ہی

کا ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی

چوتھی دلیل

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَأَنذَرْنَا لَكُمْ الشَّاعِرَ فَلَا تَفْتَنُوا رَبَّكَ إِنَّبَعُثْ هَذِهِ إِنْ مَسْتَقِيمٌ وَلَا

يُضِلُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

(ترجمہ) اور تحقیق وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ علامت ہیں قیامت کی پس اس بارے میں تم ذرہ برابر شک اور تردد نہ کرو اور اے محمد! آپ کہہ دیجئے کہ اس بارے میں صرف میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے کہیں شیطان تم کو اس راہ راست سے نہ روک دے۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو اتنا ہی سیدھا راستہ ہے اور جو اس سے روکے وہ شیطان ہے۔

امام جلیل و کبیر حافظ عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ لَعَلَّمَهُ لِسَانَهُ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیا مت کے قریب آسمان سے نازل ہونا مراد ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عباس اور ابو ہریرہ اور مجاہد اور ابو العالیہ اور ابو مالک اور عکرمہ اور حسن بصری اور قتادہ اور ضحاک وغیرہم سے منقول ہے جیسا کہ دِلَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِذَا لَوْ هَمَّتْ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِہٖ۔ اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۶ ج ۱۔

معلوم ہوا کہ جو شخص حضرت مسیح بن مریم کے آسمان سے نازل ہونے کو قیامت کے علامت نہ سمجھے وہ شیطان ہے۔ تم کو سیدھے راستے سے روکنا چاہتا ہے اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے کہنے میں ہرگز نہ آتا۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی

پانچویں دلیل

قال الامام احمد حدثنا عفان ثنا همام بن ثابتنا قتادة عن عبد الرحمن بن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نبيا

الحوة لعلائک امرها تهم بشقی و دینہم واحد والی اونی الناس بیسی
ابن مرثد لانہ لم یکن نبی بقی و بینہ و انہ نازل فاذا ارا یتموہ
فامر فوکل جمل مرثد و الی الحدیث و البیاض علیہ ثوبان مہصراً
کان راسہ بقطر و ان یصیبہ بطل فیدق الصلیب و یقتل الخنزیر
و یضع الجزیة و یدعو الناس الی الاسلام و یرہلک اللہ فی زمانہ
السلام کما فی الکلام و یرہلک اللہ فی زمانہ المسیم الدجال ثم
تقع الامم انہ علی الامراض حقی تر نع الاسود مع الابل و النماز
مع البقر و الذئب مع الغنم و یلعب الصبیان بالحيات
لا تضرہم فیہم کثرت اربعین سنة ثم یتوفی و یصلی علیہ المسلمون
و کذا رواہ ابوداؤد و کذا فی تفسیر ابن کثیر ص ۳۰۰
و قال الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رواہ ابوداؤد و
احمد ہا سند صحیحہ۔ فتح الباری، ص ۳۵۰، ۶۷

ترجمہ

امام احمد بن حنبلؒ اپنی سند میں ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علاقہ بحالی ہیں۔ ماہیرے
مختلف یعنی بشریتیں مختلف ہیں اور دین یعنی اصول شریعت کا سب کا
ایک ہے۔ اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں
اس لئے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی شے نہیں۔ وہ نازل ہوں گے
جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ وہ میانہ قدر ہوں گے، رنگ ان کا سرخ
اور سفیدی کے درمیان ہوگا۔ ان پر دو رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے سر کی

یہ شان ہوگی کہ گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اگرچہ اس کو کسی قسم کی تری نہیں ہوگی، صلیب کو توڑیں گے جزیرہ کو اٹھائیں۔ سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں سولہ تے اسلام کے تمام مذہب کو نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح دجال کو قتل کر لے گا۔ پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں گے۔ اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلنے لگیں گے۔ سانپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی وفات نہیں ہوئی آسمان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے پیشتر جب یہ تمام باتیں ظہور میں آجائیں گی تب وفات ہوگی۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی

چھٹی دلیل

عن الحسن مرسلًا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لله يوم ان عيسى لم يبعث وان راجع اليكم قبل يوم القيامة

(۱۹ خروج ابن کثیر فی تفسیر ال عمران ص ۳۳ ج ۲)

امام حسن بصری سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں مرے وہ قیامت کے قریب نہر و لوٹ کر آئیں گے۔

اس حدیث میں راجع کا لفظ صراحتہ موجود ہے۔ جس کے معنی واپس آنے والے کے ہیں۔ محاورہ یہ لفظ اسی وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسری جگہ گیا ہو اور پھر وہاں سے واپس آئے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی

ساتویں دلیل

امام البیہقی کتاب الاسماء والصفات ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں۔

اخبرنا ابو عبد اللہ ان حافظ انا ابو بکر بن اسحاق انا احمد بن
ابراہیم ثنا ابن بکر ثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن نافع
مولیٰ ابی قتادة الانصاری قال ان اباہریرة قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتہر اذا انزل ابن مریم من السماء
فیکم واما مکرمکم۔ انتہی

ترجمہ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور اسناد اس روایت کی صحیح ہیں۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی

آنکھوں میں دھول

وعن ابن عباس في حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل عيسى بن مريم من السماء.

(اسحاق بن بشير كنز العمال ص ۲۶۷ ج ۱)

ترجمہ

ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اس وقت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہونگے ان دونوں حدیثوں میں من السماء کا لفظ صراحتاً موجود ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی

نویں دلیل

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويملك خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري اقوم انا

وعيسى بن مريم في قبري واحد بين ابى بكر وعمر.

رواه الجوزي في كتاب الوفاء وكتاب الاذاحه ص ۱۰

تقریباً

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے (اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پیشتر زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسمان پر تھے) اور میرے قریب مدفون ہوں گے۔ قیامت کے دن میں مریم کے ساتھ اور ابوبکر و عمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے کتاب النفا میں روایت کیا۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی

دسویں دلیل

حدثني المثنى ثنا اسحق ثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع في قوله تعالى آلم الله لا اله الا هو الحي القيوم قال ان النصامى انما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصمه في عيسى بن مريم فقالوا له من ابوه فقالوا على الله الكذاب البهتان لا اله الا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقال بهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام تعلمون انه لا يكون ولدا الا هو يشبه اباة قالوا بلى قال السلام تعلمون ان ربنا سى لا يموت وان عيسى ياتي عليه الغناء قالوا بلى قال السلام تعلمون ان ربنا قيوم على كل شىء يكلمه ويحفظه ويرزقه قالوا بلى فان فهدل يملك عيسى من ذنق شيتا قالوا قال فلسم تعلمون

ان اللہ عزوجل لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء قالوا بلی۔
 قال فهل یعلم عیسیٰ من ذلك شیئاً الا ما اعلم قالوا لا۔ قال فان ربنا
 صور عیسیٰ فی الرحمہ کما یشاء فهل تعلمون ذلك قالوا بلی قال
 المستم تعلمون ان ربنا لا یأکل الطعام ولا یشرّب الشراب لا یحدث
 الحدیث قالوا بلی قال المستم تعلمون ان عیسیٰ حبلتہ امرأۃ کما تحبل
 المرأۃ ثم وضعتہ کما تضع المرأۃ ولداً لها ثم غدق کما یغدی العبدی ثم
 کان یطعم ویشرب الشراب ویحدث الحدیث قالوا بلی قال فکیف
 یکون هذا کما زعمتم قال فعرضوا ثم ابوا فاقرزل اللہ عزوجل المرأۃ
 لا اله الا هو الحي القيوم۔ تفسیر ابن جبرین ص ۲۰۲

ترجمہ

ربیع سے امم اللہ لالا الہامی اقصیوم کی تفسیر میں منقول ہے کہ جب نصاریٰ
 نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت مسیح
 علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں آپ سے مناظرہ اور مکالمہ شروع کیا
 اور یہ کہا کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام ابن اللہ نہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے
 حالانکہ وہ خدا تھے لاشرک بوی اور اولاد سے پاک اور منزہ ہے تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ بیٹا
 باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بلہ شک ایسا ہی ہوتا
 یعنی جب یہ تسلیم ہو گیا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے تو اس قاعدہ سے
 حضرت مسیح بھی خدا کے مماثل اور مشابہ ہونے چاہئیں حالانکہ سب کو معلوم
 ہے کہ خدا بے مثل ہے اور یحییٰ و یونس و چگون ہے کیسے کیسیہ شیء و لہ
 ۲۵۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار جی ظالموت ہے یعنی زندہ ہے کبھی نہ مرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے اس جواب سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں مرے نہیں بلکہ زمانہ آئندہ میں ان پر موت آئے گی (نصاری نجران نے کہا بے شک صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم رکھنے والا تمام عالم کا نگہبان اور محافظ اور سب کا رازق ہے۔ نصاریٰ نے کہا بے شک۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ان چیزوں کے مالک ہیں۔ نصاریٰ نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے کہ اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں نصاریٰ نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا عیسیٰ کی بھی یہی شان ہے؟ نصاریٰ نے کہا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحم مادر میں جس طرح چاہا بنا دیا۔ نصاریٰ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم کو خوب معلوم ہے، کہ اللہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے اور نہ بول دہرا کرتا ہے نصاریٰ نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا تم کو خوب معلوم ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور عورتوں کی طرح ان کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو بنا۔ جس طرح عورتیں بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بچوں کی طرح غذا بھی دی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ اور بول دہرا بھی کرتے تھے نصاریٰ نے کہا بیشک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟

نصاریٰ نجران نے حق کو خوب پہچان لیا مگر وہ دیدہ و دانستہ اتباع حق سے

۱ انکار کیا۔ اللہ عزوجل نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔**

ایک ضروری تہنیه

ان تمام احادیث اور روایات سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ احادیث میں جس مسیح کے نزول کی خبر دی گئی اس سے وہی مسیح مراد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے یعنی وہی مسیح مراد ہیں کہ جو حضرت مریم کے بطن سے بنا باپ کے نغزہ جبرئیل سے پیدا ہوئے اور جن پر اللہ نے انجیل اتاری معاذ اللہ نزول سے امت محمدیہ میں سے کسی دوسرے شخص کا پیدا ہونا مراد نہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مثل ہو ورنہ اگر احادیث نزول مسیح سے کسی مثل مسیح کا پیدا ہونا مراد ہوتا تو یہ ان نزول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انوہر یہ رقم کا آیت کو بطور استشہاد تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ معاذ اللہ اگر احادیث نزول میں مثل مسیح اور مرزائی کا قادیان میں پیدا ہونا مراد ہے تو لازم آئے گا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں مسیح کا ذکر آیا ہے سب جگہ مثل مسیح اور مرزا صاحب ہی مراد ہوں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول مسیح کو ذکر فرما کر بطور استشہاد آیت کو تلاوت کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود انہیں مسیح بن مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں یہ آیت اتری، کوئی دوسرا مسیح مراد نہیں۔ اور علی ہذا امام بخاریؒ اور دیگر ائمہ اجماعیہ کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کو ذکر کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ احادیث میں ان ہی مسیح بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جن کی توفی (بھٹائے جانے) اور دفع الی السماء کا قرآن میں ذکر ہے۔ حاشا وکلا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں کوئی دوسرا مسیح مراد نہیں، دونوں جگہ ایک ذات مراد ہے۔ اور اگر بالفرض واقعہ مرزائی کے زعم فاسد کی بنا پر ان احادیث میں مثل

مسیح کی ولادت مراد ہے اور اس کا مصداق مرزا جی ہیں تو مرزا صاحب اپنے اندر وہ
علامتیں بتلائیں کہ جو احادیث میں نزول مسیح کی ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) تمام ملتوں کا ختم ہو کر فقط ایک ملت اسلام بن جانا کہ روئے زمین پر سوائے اسلام
کے کوئی مذہب نہ رہے۔

(۲) خنزیر کو قتل کرنا اور صلیب کو ٹوڑ دینا۔ یعنی یہودیت اور نصرانیت کو مٹا دینا۔

(۳) مال کو پانی کی طرح بہا دینا کہ کوئی اس کا قبول کر لے والا نہ رہے۔

(۴) اور جزیہ کو اٹھا دینا۔

(۵) اور دین پر اتنا امن ہو جانا کہ بھیڑ مئیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بچے سانپوں
سے کھیلنے لگیں۔ ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت مرزا صاحب کے زمانے میں نہیں پائی
گئی۔ بلکہ اس کے برعکس اسلام کو تنزل اور صلیب کو ترقی اور اسلامی حکومت کا
زوال اور نصاریٰ کا غلبہ جس قدر مرزا جی کے زمانہ میں ہوا اس کی نظیر نہ گذشتہ میں ہے
اور نہ آئندہ میں ترکی حکومت پر جس قدر بھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزا جی کے ہی دور
مسیحیت میں آیا۔ مرزا جی کے زمانہ میں کسر صلیب اور قتل خنزیر کے بجائے خاکم بدہمت
کسر اسلام اور قتل مسلمانان خوب ہوا۔ مرزا جی کے زمانہ میں عیسائی تو کیا مسلمان ہوتے لڑے
مسلمان عیسائی ہو گئے۔ مرزا جی جزیہ کو کیا موقوف کرتے خود ہی نصاریٰ کے باج گزار ہو
گئے اور اپنی زمینوں کا ٹیکس اور محصول انگریزوں کو دیتے رہے۔ مسیح موعود کی علامتوں
میں سے ایک علامت "بغیض المال حتی لا یقبلہ احد" تھی۔ یعنی اتنا مال بھائیں گے کہ
کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ رہے گا۔ مگر مرزا صاحب مال تو کیا ہلتے خود ہی ساری
عمر چندہ مانگنے میں گذری۔ کبھی مکان کے لئے چندہ مانگا اور کبھی مدرسہ کے نام سے اور
کبھی منارۃ المسیح کے نام سے اور کبھی لنگر خانہ کے نام سے اور کبھی بیعت کی فیس کے نام سے
اور کبھی کتابوں کی اشاعت کے نام سے۔

غرض یہ کہ ہر حیلہ سے مال جمع کرنے کی تدبیریں کرتے رہے اور تحصیل دنیا کے وہ نئے نئے طریقے نکالے کہ جو کسی بڑے سے بڑے مکار اور خیال کے وہم و خیال میں بھی نہیں آسکتے۔

اس حقیقت کے واضح اور آشکار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بد عقل اور بد نصیب ایسے مکار پر اپنی ایمان کی دولت کو قربان اور نثار کرنا چاہتا ہے تو اختیار ہے۔ ہمارا کام تو حق اور باطل اور حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دینا ہے۔ سو الحمد للہ وہ کچکے دو اکر چکے اور دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے رشد و ہدایہ کی دعا کریں، اور دوا کا استعمال کریں۔

وَمَا عَلَيْكُمْ إِلَّا الْبَلَاءُ

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

پراجماع اُمت

حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص الجبیر ص ۱۹۳ میں فرماتے ہیں۔

ثم دفع عیسیٰ فانشقوا صحاب الاشبصار والتفسیر علی رفعہ ببداۃ

حیاء وانما اختلفوا اهل مات قبل ان یوضع او نام۔ انتہی۔

یعنی تمام محدثین اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

اسی بدن کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اختلاف صرف اس بارے

میں ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے کچھ دیر کے لئے موت طاری ہوئی یا نہیں

یا حالت نوم میں اٹھائے گئے۔

اور تفسیر بحر المحیط کے ص ۲۴ پر ہے۔

قال ابن عطية واجمعت الامة على ما تضمنته الحديث العثوانة من ان
عيسى في السماء حتى وان ينزل في اخر الزمان اه
یعنی تمام امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان
پر زندہ موجود ہیں اور اخیر زمانہ میں نازل ہوں گے جیسا کہ احادیث متواترہ
سے ثابت ہے۔

اور تفسیر النور الملوک ص ۲۴ پر ہے۔

واجمعت الامة على ان عيسى حي في السماء وينزل الى الارض اه
اور تفسیر جامع البیان کے ص ۲۵ پر ہے۔

والاجماع على انه حي في السماء وينزل وينزل المرحال ويؤيد الدين بالتفسير
امام ابو الحسن و شعری قدس الشريعة كتاب الايات عن اصول الديانة کے ص ۲۶
پر فرماتے ہیں۔

قال الله عز وجل يعيسى ابي موفيت ورافعك الى . وقال الله تعالى
وما قتلوه حقيقة بل رفعه الله اليه . واجمعت الامة على ان الله
عز وجل رحم عيسى الى السماء اه

شیخ اکبر قدس الشريعة فتوحات مکیہ کے باب ۴۳ میں فرماتے ہیں۔

لا خلاف في انه ينزل في آخر الزمان .

علامہ سفارینی مشرح عقیدہ سفارینیہ ص ۲۹ پر فرماتے ہیں۔

کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء کتاب اور سنت اور اجماع امت
سے ثابت ہے۔ اول آیت و من قن اهل انکئب الیہ نقل کی اور ابوہریرہ
کی حدیث نقل کی اب اس کے بعد فرماتے ہیں۔

وَمَا الْإِجْتِمَاعُ

فقد اجتمعت الامة على نزوله ولو يخالف فيه احد من اهل الشريعة
وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد
انعقد الاجماع الالهة على انه ينزل ويحكم بهذا الشريعة المحمدية
وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة
قائمه به وهو منصف بها.

یعنی رہا اجماع اسو تمام امت محمدیہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
صرف نازل ہوں گے اور اہل اسلام میں سے اس کا کوئی مخالف نہیں۔ صرف
فلاسفہ اور طحہ اور بے دین لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے جن کا اختلاف قابل
اعتبار نہیں اور نیز تمام امت کا اجماع اس پر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق حکم
کریں گے۔ مستعمل شریعت لے کر آسمان سے نازل نہ ہوں گے۔ اگرچہ وہ صفت
نبوت ان کے ساتھ قائم ہوگا۔

(شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۹۲)

رفع الی السماء اور نزول من السماء الی الارض کی

حکمت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ یہود
کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کہا قال وَقَوْلِهِمْ اِنْ اَقْتَلْنَا الْمَسِيحَ
عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اور وہاں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوگا وہ بھی قوم یہود سے ہوگا

اور یہود اس کے تتبع اور پیرو ہوں گے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ جہاں کو قتل کریں گے تاکہ خوب واضح ہو جائے، مگر جس ذات کی نسبت یہودیہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا وہ سب غلط ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زندہ آسمان پر اٹھایا اور اتنے زمانہ تک ان کو زندہ رکھا اور پھر تمہارے قتل اور بربادی کے لئے ہمارا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ تم جن کے قتل کے مدعی تھے ان کو قتل نہیں کر سکے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قتل کے لئے نازل کیا اور یہ حکمت نوح الباری کے باب نزول عیسیٰ ص ۳۵۷ ج ۱۰ پر مذکور ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور ملک شام ہی میں نزول ہو گا تاکہ اس ملک کو فتح فرمائیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پندرہ سال بعد فتح مکہ کے لئے تشریف لائے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے شام سے آسمان کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور وفات سے کچھ روز پہلے شام کو فتح کرنے کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرمائیں گے اور نازل ہونے کے بعد صلیب کا ٹوڑنا بھی اسی طرف مشیر ہو گا کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ اعتقاد کہ مسیح بن مریم صلیب پر چڑھائے گئے بالکل غلط ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ اس لئے نازل ہونے کے بعد صلیب کا نام و نشان بھی نہ چھوڑیں گے۔

اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تم نبی کریم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ کما قال تعالیٰ
 ﴿لَتُؤْتِنَنَّهُمْ وَتَنْصُرُنَّهُمْ﴾ اور انبیاء نبی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا تھا اس لئے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا تاکہ جس وقت وہ جہاں ظاہر ہو اس وقت آپ آسمان سے نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد

فرمائیں۔

کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمدیہ پر سخت مصیبت کا وقت ہوگا اور امت شدید امداد کی محتاج ہوگی۔ اس لئے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت کا جو وعدہ تمام انبیاء کر چکے ہیں وہ وعدہ اپنی طرف سے اصالۃً اور باقی انبیاء کی طرف سے وکالتاً ایفا فرمائیں۔

فانہم ذلک فانه لطیف۔

اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی امت کے اوصاف دیکھے تو حق تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ مجھے بھی امت محمدیہ میں سے کر دیجئے۔ حق تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو آخر زمانہ تک باقی رکھا اور قیامت کے قریب دین اسلام کے لئے ایک مجدد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تاکہ قیامت کے نزدیک ان کا شہر امت محمدیہ کے لئے ہو۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع الی السما کے اسرار و حکم کے بارے میں اس ناچیز نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ طالبان حق اس رسالہ کو ضرور دیکھیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ رسالہ موجب سکینت و طمانینت ہوگا۔ اس رسالہ کا نام لفظ الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ بن مریم ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں

اور صحابی بھی ہیں

حافظ شمس الدین ذہبی تجرید میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اصحاب میں اور علامہ زرقاتی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جس طرح نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں اسی طرح صحابی بھی ہیں۔ اس لئے کہ مسیح بن مریم علیہما السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں بحالت حیات و وفات سے پیشتر اسی جسد عنصری کے ساتھ دیکھا ہے اور دوسرے حضرات انبیاء علیہم السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں اپنی اپنی وفات کے بعد دیکھا ہے۔

ابن عساکر نے حضرت انس رضی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کسی سے مصافحہ کرتے دیکھا مگر اس شخص کو نہ دیکھا جس سے آپ نے مصافحہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم تھے میں ان کا منتظر رہا یہاں تک کہ وہ اپنے طوائف سے فارغ ہوئے تب میں نے ان کو سلام کیا۔

ابن عدی نے انس رضی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے چنانکہ ایک چادر اور ایک ہاتھ نظر آ رہا ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

دوی ابن عساکر عن انس قلنا یا رسول اللہ مرأینا صافحت شیئاً ولا نراه قال ذلك انی عیسی بن مریم انظرتمه حتی طوافه فسلمت عنیه .

نہرقانی شرح مواہب

ص ۲۴۶ ج ۵

دوی ابن عدی عن انس بیئنا نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا راہینا بودا ویدا فقلنا یا رسول اللہ ما هذا الذی مرأینا والید قال

قد رایتموہ فقلنا نعم قال ذاک عیسیٰ آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہم نے
ابن مریم سلمہ علی۔ عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بھائی
عیسیٰ بن مریم تھے۔ جنہوں نے اس وقت مجھ کو سلام کیا۔

عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہونا، تو دلائل حیات سے
معلوم ہو چکا تھا، مگر احادیث معراج اور ابن عساکر اور ابن عدی کی روایت سے ملاقات بھی
ثابت ہو گئی۔ اس لئے اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی روایت فرمائیں تو اس روایت کو علی شرط البخاری حدیث متصل سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ
امام بخاری کے نزدیک اتصال روایت کے لئے ثبوت لقاء شرط ہے اور امام مسلم کے نزدیک
محض معاشرت کافی ہے۔

علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابی
ہوتے کو بطور القاز اور معمر اپنے ایک قصیدہ میں ذکر کیا ہے سے

من باتفاق جمیع الخلق افضل من

خیر الصحاب ابی بکر ومن عمر

وہ کون شخص ہے کہ جو بالاتفاق ابوبکر رضہ اور عمر رضہ سے بھی افضل ہے کہ
جو تمام صحابہ سے افضل و بہتر ہے۔

ومن علی ومن عثمان وہ وفی

من امة المصطفیٰ الختار من مضر

اور وہ شخص علی رضہ اور عثمان رضہ سے بھی افضل ہے حالانکہ وہ شخص محمد
مصطفیٰ کی امت کا ایک فرد ہے۔

النشی بالشی ینداک ایک شے کے ذکر سے دوسری شے یاد آ رہی جاتی ہے۔ حافظ
عسقلانی اصحاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام جمہور محدثین کے نزدیک نبی ہیں مگر صحابی

بھی ہیں جیسا کہ بعض روایات سے حضرت علیہ السلام کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے تفصیل اگر رد کار ہو تو احباب کی مراجعت فرمائیں۔

عبد ضعیف کتابہ (یعنی اللہ عنہ) کہ اس روایت میں اس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بھی حضرت علیہ السلام سے ملاقات مذکور ہے اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ اس بن مالک دو پیغمبروں کے صحابی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلمہ شاید خلافت حق نہ ہوگا۔

واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم وعلمہ اتقوا وحکمہ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ نَمَّاءً يُصِفُونَ. وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَوَلِيُّ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَوَضَعْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّقْنِي بِالصُّلْحَيْنِ.

اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر و اعوذ بك من فتنة المسيح
المدجال و اعوذ بك من فتنة المحيا و الممات . امين

برحمتك يا ارحم الراحمين

يا ذا الجلال والاكرام

وانا العبد الضعيف المدعو!

محمد ادريس الكانز هلوى

اجازة الله تعالى من غزى الدنيا و عذاب

الآخرة. امين